

الحمد لله رب العالمين

# اسلام و سیاست

بجواب کتب مسیحیہ

روضہ قرآن سیاست کی عالمگیری دین فطرت

مصنفہ حضرت ابوالوفاء بناء اللہ امرسری

محمد علی



وَلَا يَجِدُ لِلْفَلَقِ أَهْلًا لِكُلِّ لَيْلٍ إِلَّا مَنْ هُنَّ مُسْكِنٌ

# اسلام اور سعیت

بجواب کتب مسیحیہ

وضیع امر ان سعیت کی المسکونی دین فطرت

مصنف، حضرت ابوالوفاء بن امیر سری



جملہ حقوق نجق ناشر محفوظ ہے

اسلام اور مسحیت

نام کتاب

شیخ الاسلام ابوالوفاء ثناء اللہ امیری

مصنف

بیشیر احمد نعمانی

طابع

رانا محمد یوسف

کمپوزر

زادہ بیشیر پر لیں لاہور

مطبوعہ

نگرانی عکتب خانہ

ناشر



**NOMANI KUTAB KHANA**

HAQ STREET URDU BAZAR

LAHORE.2 PAKISTAN

TEL: 042- 7321865

## فہرست مضمایں

**(صفحہ نمبر)**

**(نمبر شمارہ)**

7	عرض ناشر	1
11	پہلے مجھے دیکھئے	2
22	تمہید	3
<b>باب اول</b>		
25	ترشیح القرآن بحوالہ توضیح البیان	4
32	اصول اخوت	5
<b>فصل چہارم</b>		
36	اصول مساوات	6
43	اسلام میں عالمگیری ہونے کی صلاحیت نہیں	7
46	نجمر کی نماز کی ترتیب	8
<b>باب دوم</b>		
65	مسیحیت کی عالمگیری پر ایک نظر	9
69	مقدس اتحانات سیس کا عقیدہ	10
80	اسلام کے اصول اور مسیحیت	11
113	مسیحیت کی جامعیت	12

120	یسوع مسیح صلیب پر	13
121	حکایت ماضیہ	14
124	مسیحیت کا دوسرا نبیادی پھر یا کفارہ مسیح	15
132	کفارے پر ایک معنی خیز سوال	16
134	شہادت ضمیر	17
<b>باب سوم</b>		
136	دین فطرت اسلام ہے بجواب دین فطرت مسیحیت ہے	18
143	خوف کی جلت	19
153	نمونہ انبیاء	20
153	اظہار تعجب	21
155	مقام مسرت	22
156	والدینی جلت کی خصوصیات	23
159	والدینی جلت اور بچوں کے فرائض	24
161	والدینی جلت اور رذاتِ الٰی	25
162	والدینی جلت، مسیحی اور رقصور خدا	26
165	جلت والدینی، مسیحی اور اسلامی اخوتِ انسانی	27
167	جلت والدینی، مسیحی اور اسلامی فضائل	28
172	ایک صحیح واقعہ	29
174	غصے کی جلت اور قصاص	30
176	استفسار کی جلت	31
177	لڑاکاپن کی جلت اور جہاد کی تعلیم	32

181	33 جلس تجسس اور قرآن کی تعلیم
191	34 مسیحیت اور افراد کی دقت
193	35 اسلام اور افراد کی دقت
197	36 منطقی طریق سے
204	37 جلس اجتماع پسندی اور انسانیت
208	38 جلس اجتماع پسندی اور نوع انسان کی کاملیت
209	39 جلس اجتماع پسندی اور رذاتِ الہی
210	40 قرآن کی تصدیق
215	41 جلس تحکم اور جلس عجز
218	42 تحکم کی جلس "محمد عربی" اور "معجم ناصری"
223	43 جلس حصول اور اکتساب
226	44 ایک سوال
228	45 اشتراکیت اور مسیحیت

## عرض ناشر

مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، میدان حرب میں مجاز آرائی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جو کسی نہ کسی صورت میں بدستور جاری ہے۔ اس آویزش میں صلیبی جنگوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسلام پر عیسائیت کی برتری ثابت کرنے کے لئے عیسائیوں نے قرطاس و قلم کا استعمال اس انداز سے کیا کہ۔

- تاریخی حقائق اور واقعات کو منسخ کر کے مسلمانوں کا کروار مجروح کیا جائے۔
- اسلامی عقائد اور تعلیمات پر ناروا جملے کر کے اسلام کو ناقابل عمل اور فرسودہ ظاہر کیا جائے۔

- رسول اللہؐ کی ذات اقدس پر غیر مندب اور ناشائستہ زبان میں دست درازی کر کے مسلمانوں کی توهین و تحریر کی جائے۔

اس یلغار کا مرکزی محور یہ رہا کہ اسلام پر عیسائی مذہب کی فویت واضح کی جائے۔ حربی اور معاشی سطح پر مسلمانوں کا حوصلہ و إعتماد پست کیا جائے، انہیں بخکست خردگی کے احساس میں جکڑا جائے۔ ان کا مخصوص مذہبی تشخض، بخکست و ریخت سے دوچار کیا جائے۔ اور سیاسی مزاج مفلوج کیا جائے۔

جب بھی کوئی غیر ملکی طاقت، کسی ملک میں وارد ہوتی ہے تو یہ شدہ مقاصد کا حصول اس کے پیش نظر ہتا ہے۔

- معاشی منفعت اور اقتصادی مفادات
  - مذہبی خیالات کی اشاعت اور تشویر
- انگریز، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی وساطت سے دخل انداز ہوئے۔ ابتداء میں معاشی اور کاروباری مشاغل تک محدود رہے۔ لیکن رفتہ رفتہ سیاسی گرفت مضمبوط کرتے چلے گئے۔

ہندوستان کی مذہبی صورت حال کی جانب متوجہ ہوئے تو سب سے جاندار اور

طاقور، مد مقابل۔۔۔ اسلام۔۔۔ کوپایا۔ ہندو دھرم، بلاشبہ، اکثر تی مذہب تھا۔ لیکن غیر فطری ہونے کی بناء پر بے دست و پا اور بے اثر تھا۔ اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں اسلام سے متاثر ہو کر ملت اسلامیہ میں جذب ہوتے رہے۔ ابتدا انگریزوں نے اسلام کی توسعہ و اشاعت میں تعطیل پیدا کرنے کے لئے یہ تاثر عام کیا کہ یہاں اسلام کی اشاعت میں طاقت کا استعمال کیا گیا ہے۔ ورنہ اسلام میں پنپنے کے آثار ناپید ہیں! اس تاثر کو آریہ سماجیوں نے بھی حسب ضرورت و سعث دی اور مختلف اطراف سے اسلام پر طبع آزمائی کرتے رہے۔

عیسائی مبلغین نے پہلے پہل دلائل و برائین کا تھیار استعمال کیا۔ اسلام کو محض ایک مقامی اور محدود مذہب قرار دیا، جو عرب کے دیناتی معاشرہ کا ساتھ تو دے سکتا ہو۔ لیکن متمدن اور ترقی یافتہ دور کے تقاضوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ تھیار زیادہ، کارگر دکھائی نہ دیا اور حسب دل خواہ تنائج میا کرنے سے قادر ہا تو مسلمانوں کی توهین و تذلیل، دل پسند مشغله قرار پایا۔ یہ داستان بڑی المناک اور روح فرسا ہے۔ لیکن یہ صفحات اس داستان کے متحمل نہیں ہو سکتے، رفتہ رفتہ غذائی اجناس کی صورت میں ترغیب و تحریص کا حریبہ اختیار کیا گیا اور مسلمانوں کی معاشی بدحالی سے کھینلنے کی کوشش کی گئی۔

اس دوران میں عیسائی مبلغین، سرکاری رسوخ اور وسائل کی معاونت سے کئی مشنری، ادارے قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

۱۸۵۲ء کے اعداد و شمار کے مطابق متحدہ ہندوستان میں ۲۲ مشنری سوسائٹیاں، ۳۱۳ مشنری اشیش، ۲۳۳ مشنری ایکارکن سرگرم عمل تھے۔ اس وقت عیسائیوں کی تعداد ۱۹،۱۲۱ تھی۔<sup>①</sup> مسلمانوں کی دلازاری میں انتہائی بے باکی اور دیدہ دلیری کا مظاہرہ کیا جاتا۔ حکومت بھی پس پشت اپنا کردار ادا کرتی رہی۔ مسلمان عوام، شدید طور پر خود فراموشی اور بے اعتمادی کی کیفیت میں جلا ہو چکے تھے۔

ان حالات میں حضرت شیخ الکل میاں نذیر حسین محمد دہلوی "۱۹۰۲ء" ۱۴۳۳ھ کے تلامذہ نے تاریخی و علمی حقائق کے تحفظ کے لئے اپنی بہترین صلاحیتوں کو وقف کئے رکھا۔ اور ہر سہ مجاز پر مقدور بھرتوانی کے ساتھ سینہ پر رہے۔

① - صلیبی جنگوں میں حقائق کی زونمائی کے لئے حضرت میاں صاحب "کے نامور شاگرد مولانا عبد الحکیم شریعتی" ۱۹۲۶ء، ۱۴۳۲ھ نے کئی تاریخی ناول تحقیق کئے۔ مولانا نے نہایت چاک دستی کے ساتھ سروالٹر سکاٹ کی دلازار کتاب (Talisman) کی غلط بیانیوں اور چیزیں دستیوں کا پردہ چاک کیا۔ جس سے مسلمانوں کا عزم و حوصلہ بحال کرنے میں بڑی مدد ملی اور انہیں اپنے تابناک اور شاندار ماضی سے آگہی حاصل ہوئی اس سلسلے میں مولانا نے ملک العزیز ورجینا، فلورا فلورنڈا مقدس نازین، فتح اندرس، فلپائن، دومنٹہ، الکبری مفتاح فتح اور تاریخ، مسیح و مسیحیت جیسی معربتہ الاراء تصانیف تحریر کیں۔ ان تاریخی ناولوں میں مسلمانوں کے روشن ماضی کی جھلک بڑے دلکش انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کی ذہنی آلودگیوں اور اخلاقی پستیوں کو بے نقاب کیا گیا۔

② - علمی مجاز پر حضرت میاں صاحب "کے تلامذہ مولانا ابو سعید محمد حسین بیالوی "۱۹۲۰ء" ۱۴۳۸ھ مولانا شاء اللہ امرتسری " ۱۹۲۸ء، ۱۴۳۷ھ اور مولانا ابراہیم میرنام ۱۹۵۶ء، ۱۴۳۷ھ نے نہایت مستعدی کے ساتھ قلمی جماد کیا۔ اور اسلام کی حماست و مدافعت میں گرفندر تحریری خدمات انجام دیں۔ جس سے عیسائی یلخاردم بخود ہو کر رہ گئی۔ اور مسلمانوں کا عزم و حوصلہ پختہ تر ہوتا چلا گیا۔ مولانا بیالوی " نے إشاعة السنة کی کئی إشاعتوں میں نہایت مدلل اور زوردار مضامین رقم فرمائے۔ ادھر مولانا شاء اللہ امرتسری " نے آریہ سماجیوں اور قادریانیوں کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر بھی مشق خن جاری رکھی اور "اہل حدیث" امرتسری میں کئی مقالات تحریر فرمائے۔ قاضی سلیمان منصور پوری " ۱۹۳۰ء، ۱۴۳۲ھ، مولانا ابوالکلام " ۱۹۵۸ء، ۱۴۳۷ھ، شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل السلفی " ۱۹۶۸ء، ۱۴۳۸ھ ملک ابوالحمدود بہادیت اللہ سوبہ ردی " ۱۹۶۷ء، ۱۴۳۸ھ مولانا احمد دین گھردوی ۱۹۷۳ء، ۱۴۳۹ھ مولانا نور حسین گھر جاکھی "

۱۹۵۳ء، ۱۳۷۳ھ مولانا محمد اشرف سندھو، ۱۹۷۲ء، ۱۳۸۲ھ مولانا عبدالرؤف رحمانی جنڈا نگری، مولانا محمد امین خادم اور جناب ایں ایم شریف قریشی (دہلی) نے حسب ضرورت مفید اور موثر رسائل و مقالات تحریر فرمائے۔

⑤ - الہحدیث مناظرین نے عوام میں اسلام کی عظمت و رفتہ ثابت کرنے کیلئے عیسائی مشنریوں کو لکارا اور بر سر عام مباحثوں اور مناظروں کی دعوت دی۔ الہحدیث مناظر اپنی علمی وسعت، حاضر جوابی اور خود اعتمادی کی بدولت ہیش غالب آتے رہے۔ یہ مناظرے مسلمانوں کا اعتماد بحال کرنے کا ہم ذریعہ ثابت ہوئے اس میدان میں مولانا شاء اللہ امر تسری مولانا احمد دین گھرلوی ۱۹۷۳ء، ۱۳۹۳ھ مولانا نور حسین گھر جاہنی ۱۹۵۳ء، ۱۳۷۳ھ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل السلفی ① اور حافظ محمد گوندوی مدظلہ العالی کی خدمات خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔

”الہحدیث“ امر تسری میں عیسائیت کے موضوع پر مولانا امر تسری ”کے بے شمار قلمی جواہر پارے بکھرے پڑے تھے۔ جو مناسب ترتیب کے ساتھ کئی کتابوں کی صورت، اختیار کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر مولانا کی عیسائیت پر شائع شدہ تصانیف کا تذکرہ خالی از دلچسپی نہ ہو گا۔

نام کتاب	عن اشاعت	صفات
۱۵۰	۱۹۰۳ء	۱ تقابل ثلاثة
۳۰	۱۹۱۳ء	۲ توحید و تشییع
۹۲	۱۹۳۰ء	۳ جوابات نصاریٰ
۹۲	۱۹۳۲ء	۴ مناظرہ الہ آباد
۲۲۰	۱۹۳۱ء	۵ اسلام اور مسیحیت
۹۰	۱۹۳۲ء	۶ تحریفات بائبل

① حضرت شیخ الحدیث“ کا عمد مٹاپ مباحثوں اور مناظروں کا دور رخا۔ پادری عبدالحق صاحب کے مقابل رہے بعد میں مناظروں سے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔

الناشر جولائی ۱۹۹۹ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد اللہ و نستعينہ

ونصلی علی النبی و اہله

پرملے مجھے دیکھیے

مرزا صاحب قادریانی نے بڑی وضاحت سے اس دعوے کا اعلان کیا تھا کہ  
”معج سے مجھے ایک خاص مناسبت ہے اور اس فطرتی مشاہدت کی وجہ سے معج کے نام پر یہ  
عاجز بھیجا گیا ہے تاکہ صلیبی اعتقاد کو پاش کر دیا جائے سو میں صلیب کے توڑنے اور  
خنزیروں کے قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔“

(رسالہ فتح اسلام بار دوم ص ۹)

آپ نے مزید فرمایا تھا

”میرے آنے کے دو مقصد ہیں۔ مسلمانوں کے لئے یہ کہ اصل تقویٰ اور طہارت پر قائم ہو  
جائیں اور یسائیوں کے لئے کسر صلیب ہو اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آئے۔ زیاد اس کو بھول  
جائے اور خدا نہ واحد کی عبادت ہو۔“

(اخبار الحکم قادریان ۱۹/ جولائی ۱۹۰۵ء ص ۱۰)

آپ نے یہ بھی کہا تھا

”میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو نہ توڑ دوں تو جھوٹا نہ سروں گا۔“

(بدر ۱۹/ جولائی ۱۹۰۶ء)

ان مواعید موثقہ پر بھروسہ کرنے والے کو اٹھیں ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کی برکت سے مذہب عیسوی دنیا سے ناپید ہو گیا ہو گا۔ مگر قارئین یہ سن کر حیران ہوں گے کہ عیسیٰ پرستوں کا نہ صرف شمار بڑھ رہا ہے بلکہ ان کی طرف سے حملہ بھی آئے وہ تعداد میں زیادہ اور کیفیت میں تکمیل ہو رہے ہیں۔ غصب یہ ہے کہ یہ حملہ آور حضرات مسلمانوں کی اولاد ہیں، جن کے باپ دادا اسلام کے کلمہ گو اور فدائی تھے۔

آج ہمارے ملک پنجاب میں اسلام کی تردید میں لکھتے والے عیسائیوں میں زیادہ

شہرت یافتہ مندرجہ ذیل اصحاب ہیں۔

-۱ پادری سلطان محمد خاں صاحب۔

-۲ پادری برکت اللہ صاحب۔

-۳ پادری عبدالحق صاحب۔

-۴ مسٹر موسیٰ خاں ایڈیٹر "المائدہ" وغیرہ۔

اس وقت عیسائیوں کی جو کتابیں ہمارے زیر نظر ہیں اور جن کے جواب کے لئے ہم نے قلم اٹھایا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں۔

-۱ "توضیح البیان فی اصول القرآن" (اس میں اس امر پر بحث کی گئی ہے کہ اسلام کے اصول میں عالمگیر ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ (صفحات ۵۹۲)

-۲ "مسیحیت کی عالمگیری" (اس کا مضمون نام ہی سے ظاہر ہے) صفحات ۲۲۲

-۳ "دین فطرت اسلام یا مسیحیت" (اس میں مسیحیت کو مطابق فطرت اور قرآن کو مخالف فطرت دکھلانے کی کوشش کی گئی ہے، صفحات ۲۲۸)

ان تینوں کے جواب کے لئے ہم نے اس کتاب میں تین باب تجویز کیے ہیں۔ پہلے باب میں ہماری طرف سے مدافعت ہو گی۔ دوسرے میں تنقید اور تیسرا میں مدافعت کے علاوہ حسب ضرورت تنقید بھی ہو گی۔

مسلم اور مسیحی قارئین: سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہر قسم کے تعصباً اور جانبداری سے بالاتر ہو کر ہماری معروضات پر توجہ فرمائیں گے۔ ۹ گرنے آئیں برغبت گوش کس بر رسولان بلاغ باشد و بس۔

ہم ان کتابوں کو دیکھ کر منتظر تھے کہ مرزا صاحب کے اتباع کی طرف سے ان کے جوابات بہت جلد شائع ہو کر پبلک کے ہاتھوں میں آجائیں گے۔ مگر مدت تک انتظار کرنے کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑا۔

اے با آرزو کہ خاک شدہ

آخر ہمیں یہ خیال آیا کہ مرزا صاحب کے دعوے کے مطابق مسیحی مذہب فاہوچکا ہے اور مسیحی لوگ مرچکے ہیں۔ اس لئے جماعت احمدیہ نے ان کو مخاطب کرنا مستحسن نہیں سمجھا ہو گا۔ لہذا انہوں نے اپنے خیال کے مطابق ان کتابوں کے جواب پر توجہ نہیں کی۔ مگر ہم چونکہ اپنے مشاہدہ میں مسیحیوں کو زندہ دیکھتے ہیں اور ان کی کتاب متعلقہ تردید اسلام ہمارے سامنے ہیں اس لئے ہم بھی اگر خاموش رہتے تو عند اللہ اپنے فرض کی ادائیگی سے قاصر سمجھے جاتے۔ پس ہم اپنے فرض سے بکدوش ہونے کے لئے جواب دینے کو قلم اٹھاتے ہیں۔  
کیوں؟

اگر نہیں کہ نایبنا و چاہ است اگر خاموش بُشِنِم گناہ است  
جن کتابوں کا نام اوپر بتایا گیا ہے وہ پادری برکت اللہ صاحب کی تصنیف ہیں۔ پادری صاحب نے ان کتب میں جو طریق اختیار کیا ہے بغرض تفہیم قارئین ہم اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

شراب کو جو لوگ برمانتے ہیں وہ اس کے برے اثرات سے ہٹانے کے لئے جو کچھ کہا کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ اس رباعی میں ہے۔  
ہو بادہ کشی پر نہ جوانو! مفتون گردن پر نہ لو عقل خدا داد کا خون!  
خود عدم شباب اک جنوں ہے اب تم کرتے ہو فزوں جنوں پر اک اور جنوں (حالی)

اس رباعی میں شاعر نے بڑی خوبی کے ساتھ شراب نوشی سے ہٹایا ہے کیونکہ وہ انسان کو بے عقل کر دیتی ہے۔ اس کے بر عکس شراب نوش اسی بد مستقی کو شراب نوشی کا مستحسن ذریعہ بتاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر کرتا ہے۔

مینہ برستا ہے مزے آتے ہیں میخواروں کو حق نے کیا مرتبے بخشنے ہیں گنہ گاروں کو

ہاتھ گرتے کا مت پکڑ ساتی سجدہ شکر میں جانے دے گئے گاروں کو غور فرمائیے کہ شراب میں ایک وصف بد مسمی ہے جو موجب نفرت ہے۔ یہی وصف پینے والوں کی نظر میں موجب رغبت ہے۔ ٹھیک اسی طرح صحیح کی ذات کافوں (عکس) جو عیسائی مصنف پیش کرتے ہیں کہ آپ فاعلِ محترم اور قادر قوم تھے۔ بلکہ خود خدا تھے۔ آپ جو تعلیم دیتے تھے اپنے اختیار سے دیتے تھے۔

اسی عقیدہ کی وجہ سے یہود، مسلمان اور دیگر اہل ادیان مسیحی مذہب کو نفرت سے دیکھا کرتے ہیں۔ پادری برکت اللہ صاحب نے اسی عقیدہ کو مسیحی مذہب کی برتری کا موجب لکھا ہے۔ پس ان ساری کتابوں کا لالب لالب یہی ہے۔ حج ہے۔

مجھے تو ہے منظورِ مجنون کو ملی نظر اپنی پسند اپنی اپنی آپ کی تصنیف میں دوسرا وصف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ طولِ کلامی میں لااثانی ہیں۔ مرزا غالب مرحوم نے ایک مطلب کے لئے طولِ کلامی کی خواہش کرتے ہوئے کہا ہے۔

ملے تو حشر میں لے لوں زبانِ ناصح کی عجیب چیز ہے یہ طولِ مدعا کے لئے مگر پادری صاحب کی طولِ کلامی مرزا غالب کی خواہش سے بھی بڑھ کر ملالِ خاطر کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ جس کی ایک مثال درج ذیل ہے۔

”پس عالمگیر مذہب کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اصول ارفع اور اعلیٰ ترین ہوں۔ ان اصولوں میں یہ صفت ہو کہ دنیا کے ”سب لوگوں کی ضمیریں“ ان کو مان سکیں، بالفاظ دیگر یہ اصول ایسے اعلیٰ و ارفع ہوں کہ تمام دنیا کے لوگ باللحاظ رنگ، نسل، قوم وغیرہ ان کو قبول کر سکیں۔ اگر کسی مذہب کی تعلیم ایسی ہے کہ صرف کسی خاص قوم یا زمانہ یا قبیلہ کے لوگوں کی نظرلوں میں ہی مقبول ہے لیکن دیگر اقوام یا دیگر زمانے کے افراد اس کے اصولوں کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کر سکتے تو وہ مذہب ہرگز عالمگیر مذہب کملانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مذہب ایسا ہے جو خدا کی نسبت ایسی تعلیم دے جو نوعِ انسانی کی ترقی کے ابتدائی متأزل سے ہی متعلق ہو اور نوعِ انسانی تہذیب یافتہ ہو کر اس منزل سے آگے بڑھ گئی ہو۔ اور وہ اس کے

پیش کردہ تصور الٰی پر نکتہ چینی کر سکے تو وہ مذہب عالمگیر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کسی مذہب کا معبود چوری یا زنا کاری کا مرٹکب ہوا ہو۔ تو ایسا معبود دور حاضر میں ہرگز قابل پرستش نہیں ہو سکتا۔ ایسے معبود کی تنظیم نوع انسانی کی ترقی کی ابتدائی منازل سے متعلق ہے۔ لیکن اب نسل انسانی نے اس قدر ترقی کر لی ہے۔ کہ وہ ایسے معبود کی حکمیم تو در کنار اس کو خاتمت کی نظر سے دیکھئے گی۔

پس لازم ہے کہ عالمگیر مذہب کے اصول نہایت اعلیٰ، ارفع اور بلند پایہ کے ہوں۔ یہ لازمی امر ہے کہ عالمگیر مذہب خدا کی نسبت ایسی تعلیم دے جسکے سامنے ہر زمانہ، ملک اور قوم کی گرد نہیں جھک جائیں۔ عالمگیر مذہب کا تصور خدا ایسا ہونا چاہئے کہ نوع انسانی اپنی ترقی کی انتہائی منازل میں بھی اس سے بالاتر تصور<sup>①</sup> خیال میں لاسکے۔ انسانی قوت متعدد اس سے زیادہ بلند پردازی نہ کر سکے بلکہ اس تصور کو فہم میں لانے سے قادر ہے اور چاروں ناچار اپنے عجز اور ناطقیت کا اقرار کر لے۔

اے خیال مابروں۔ در تو خیال کے رسد باصفت تو عقل لاف کمال کے رسد  
کنٹر کبریائے تو ہست فراز الامکل طاڭر مادر آس ہوا بے پرو بال کے رسد  
صرف ایسا مذہب ہی انسان کے سامنے بلند ترین اخلاقی نصب العین رکھ سکتا ہے۔  
کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کوئی قوم اپنے معبود کے اوصاف کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جس مذہب میں خدا کا تصور اعلیٰ ترین پایہ کا ہو گا اس مذہب میں انسان کے متعلق بھی اعلیٰ ترین فہم کی تعلیم ہوگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں نہایت گمراشتہ ہے۔ حقوق العباد کا انحصار خدا کے تصور پر موقوف ہے۔ اگر کسی مذہب میں<sup>②</sup> خدا کا تصور ادنیٰ فہم کا ہے تو اس مذہب میں انسانوں کے باہمی سلوک کی نسبت جو تعلیم ہوگی وہ بھی نہایت ادنیٰ پایہ کی ہوگی۔ اگر کسی قوم کا معبود شرابی، چوریا زنا کار ہو گا تو یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ اس مذہب کا اخلاقی نصب العین اعلیٰ فہم کا ہو۔ اس مذہب کی تعلیم میں شراب، چوری زنا کاری وغیرہ اعمال حسنہ

① قارئین! پادری صاحب کے اس مقولہ کو یاد رکھئے (میب)

② قارئین! پادری صاحب کے اس مقولہ کو یاد رکھئے۔ (میب)

ثمار کے جائیں گے۔ لیکن اگر کسی مذہب میں خدا کا تصور اعلیٰ ترین پایہ کا ہو گا۔ تو اس کا اخلاقی نصب العین اعلیٰ پایہ کا ہو گا، عالمگیر مذہب کے لئے ضروری ہے کہ نہ صرف اس میں خدا کا تصور ہی ایسا ہو۔ جس کے سامنے ہر زمانہ قوم اور ملک کے افراد کی گرد نیں جھک جائیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے، کہ اس کا اخلاقی نصب العین ایسا ہو کہ بنی نوع انسان اپنی ترقی کی دوڑ میں اس سے آگے نہ گزر سکے۔ بلکہ جوں جوں انسان ترقی کرتا جائے۔ یہ نصب العین افق کی طرف اس کی نظر کے آگے آگے چلتا جائے یا جس طرح کوئی شخص ایک پہاڑی کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے آگے بلندی ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ ایک اور پہاڑی کی بلندی نظر آجائی ہے۔ اسی طرح جب نوع انسان اخلاقی ترقی کے زینہ کی ایک بلندی کو حاصل کر لے تو وہاں بھی اس کو اخلاقی نصب العین کی بلندی نظر آئے جو راہنمَا کا فرض ادا کرے۔ عالمگیر مذہب کا اخلاقی نصب العین ایسا بلند اور ارفع ہونا چاہئے کہ نوع انسانی میں اپنی ترقی کی مختلف منازل میں جس اونچ پہنچ اس کی رفت اور بلندی کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکے۔ پس عالمگیر مذہب کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں ذاتِ الہی کی نسبت ایسی تعلیم ہو جس کے سامنے ہر ملک قوم، نسل اور زمانہ کے سرتیلم خم ہو جائیں اور اس مذہب کا اخلاقی نصب العین ایسا اعلیٰ اور بلند پایہ کا ہو کہ نوع انسانی اپنی ترقی کے اعلیٰ زینہ پر بھی اس کو پیش نظر رکھ سکے اور وہ اس کا دامغی راہنمَا ہو سکے۔

عالمگیر مذہب کے اصول عالمگیر ہوں: اس پہلی شرط کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عالمگیر مذہب عالمگیر کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جس کے اصول عالمگیر ہوں<sup>①</sup> کوئی مذہب عالمگیر کہلانے کا مستحق نہیں کہ وہ ہر ملک قوم، زمانہ اور نسل کے لوگوں پر حاوی ہو سکیں۔ وہ اصولوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس کے لئے ہر جوں کے لوگوں کے لئے ہی مفید ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مذہب صرف ایک قوم یا ملک یا زمانہ پاپشت کے لوگوں کے لئے ہی مفید ہو سکتا ہے۔ اس کے اصول کا اطلاق کسی دوسری قوم یا پاپشت کے لوگوں پر نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ دونوں قوموں اور پشتونوں کے حالات یکساں نہیں ہوتے اور جو مذہب صرف ایک قوم کے حالات کے لئے

مفید ہے۔ وہ دوسری قسم کے حالات کے لئے مفید نہیں ہوتا۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جو گذشتہ زمانہ میں خاص حالات کے ماتحت نہایت کامیاب ثابت ہوئے۔ لیکن جب وہ حالات بدل گئے اور زمانہ نے پلٹا کھلایا تو وہ مذاہب نئے حالات اور خیالات کے سامنے قائم نہ رہ سکے۔ پس باعث کے زمانہ اور پشت کے لئے وہ مذاہب کسی کام کے نہ رہے۔ جس طرح پرانے سالوں کی جنتیاں بے کار ہوتی ہیں۔ بقول شخص

①

کہ تقویم پاریسہ نہ آید بکار  
اسی طرح یہ مذاہب بھی بے سود ہو جاتے ہیں اور پرانے زمانہ کی داستانوں سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ دور حاضر کے لئے ان کا وجود اگر ضرر رسان نہیں ہوتا تو کم از کم عدم وجود کے برابر ہوتا ہے۔

پس لازم ہے کہ عالمگیر مذہب کے اصول ایسے ہوں جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں۔ کہ ہر ملک، قوم، نسل اور زمانہ پر حاوی ہو سکیں، کسی ملک یا قوم یا زمانہ کے لئے اس مذہب کے اصول دیقانوں، بوسیدہ یا فرسودہ خیال نہ کیے جائیں۔ مثلاً اگر کوئی مذہب ایسا ہے جو درجہ بندی یا ذات پات یا مناقشت جنگ و جدل، عداوت وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک ملک و قوم کے خاص حالات کے اندر کسی خاص زمانہ میں کامیاب ثابت ہوا ہو۔ لیکن ایسا مذہب دیگر قوموں، نسلوں اور زمانوں کے لئے ہرگز راہنمایا کام نہیں دے سکتا۔ یا اگر کوئی مذہب ایسا ہے۔ جس میں بچوں، عورتوں، غلاموں، مظلوموں وغیرہ سے بد سلوکی رووار کھی گئی ہے تو ایسے مذہب کے اصول کسی خاص پشت یا زمانہ یا ملک پر ہی حاوی ہو سکتے ہیں۔ ان میں یہ الہیت ہرگز نہیں کہ اقوام عالم اور کل دنیا کے ممالک دا زمنہ پر حاوی ہوں، کوئی مذہب عالمگیر نہیں ہو سکتا تو قوت یہ کہ اس کے اصول اپنے اندر اقوام و ممالک پر حاوی ہونے کی صلاحیت نہ رکھیں۔

- پس لازم ہے کہ عالمگیر مذہب کے اصول نہ صرف زمانہ ماضی کے لئے کسی خاص قوم یا پشت یا ملک یا زمانہ کے صحیح رہبر رہ چکے ہوں۔ بلکہ یہ بھی ضروری امر ہے کہ ان

② گذشتہ تواریخ دیکھنے کو کار آمد ہوتی ہیں (میں)

اصولوں کا اطلاق دور حاضرہ کے تمام ممالک و قائل و اقوام پر ہو سکے۔ موجودہ صدی میں اور گذشتہ صدی میں جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ وہ سب پر عیال ہیں اور ارباب دانش سے یہ مخفی نہیں کہ موجودہ پشت مذہب کے اصول کو اس نکتہ نظر سے نہیں دیکھتی جس سے اسکے آباؤ اجداد دیکھتے تھے۔ عالمگیر<sup>①</sup> مذہب کے لئے لازم ہے۔

کہ اس کے اصول دور حاضرہ کے لوگوں کی اس طرح کامیابی کی ساتھ راہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں جس طرح کسی گذشتہ پشت کے لوگوں کی راہنمائی کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اگر ان اصولوں میں یہ الہیت موجود نہیں تو وہ اصول عالمگیر نہیں ہو سکتے اور نہ وہ مذہب عالمگیر کھلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ پس اگر کوئی مذہب عالمگیر ہونے کا اس بنا پر دعویٰ کرے کہ کسی گذشتہ زمانہ میں وہ کسی ملک یا قوم کے مسائل کی گھنیاں سلیمانی میں کامیاب رہا ہے۔ لیکن دور حاضرہ پر اپنے اصول کا اطلاق نہ کر سکے، تو اس مذہب کا دعویٰ ”پر م سلطان بود“ سے زیادہ وقعت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکوئی مذہب محض اپنی قدامت کی وجہ سے یا کوئی دھرم محض ساتھی ہونے کی بنا پر عالمگیر نہیں ہو سکتا۔ تاو قتیلہ وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ اس کے قدیم یا ساتھی اصول دور حاضرہ کے تمام ممالک و اقوام کے مختلف مسائل کو کامیابی کے ساتھ حل کرنے کی الہیت رکھتے ہیں۔

۳۔ عالمگیر مذہب کے لئے یہ لازم ہے کہ نہ صرف اس کے اصول زمانہ گذشتہ اور دور حاضرہ کے ممالک و اقوام کے راہنماء ہو سکیں۔ بلکہ مستقبل زمانہ کے تمام ممالک و اقوام و ازمنہ کے لئے بھی وہ مشغول ہدایت ہو سکیں۔ یہ اشد ضروری امر ہے کہ عالمگیر مذہب کے اصول نہ صرف نوع انسانی کی گذشتہ دوڑیں کام آئے ہوں یا موجودہ ترقی کی منزلوں میں کام آسکتے ہوں۔ بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ آئندہ زمانہ میں بھی جوں جوں نسل انسانی ترقی کرتی جائے یہ اصول اس کی ترقی کی راہ کو اپنے نور سے روشن کرتے جائیں تاکہ نسل انسانی روز بروز ترقی پذیر ہو کر کامل ہوتی جائے۔ اور خالق کے

① قارئین! پادری صاحب کی طول کلاسی سے گھبرا یے نہیں بلکہ دیکھتے جائے (مجہب)

اس ارادہ کو پورا کر سکے۔ جس کے واسطے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کا خلق ہونا اور نوع انسانی کا وجود یہ ثابت کرتا ہے کہ ازل سے خدا نے کسی خاص مقصد کو مد نظر رکھ کر انسان کو پیدا کیا تھا۔ عالمگیر مذہب کا یہ کام ہے کہ اس نمائےِ اللہ کو پورا کرے اور نوع انسانی کو اس کی ترقی کی مختلف منازل میں ایسی شاہراہ پر چلائے۔ جس پر چل کر وہ خدا کے ازی مقصود کو پورا کرے۔ پس لازم ہے کہ عالمگیر مذہب نہ صرف نوع انسانی کے ابتدائی مرحلوں میں اس کا ساتھ دے اور زمانہ گذشتہ میں اس کا صحیح رہنمایا ہو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ دورہ حاضرہ میں اور آئندہ زمانوں میں بھی کل انسان اس مذہب کے ذریعہ اپنی نوع کی ترقی کی آخری منزلوں کو طے کر کے خدا کے ازی ارادہ کو پورا کر سکیں۔ اگر کوئی مذہب نوع انسانی کے تمام منزلوں میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ مذہب یقیناً عالمگیر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بالفاظ دیگر جو مذہب زمانہ ماضی میں ہی نوع انسانی کے کام آیا ہوا یا صرف دور حاضرہ کے سیاسی یا معاشرتی مسائل کو عارضی طور پر ہی حل کر سکے۔ لیکن زمانہ مستقبل میں نوع انسانی کی ترقی کی آخری منزلوں میں اس کا ہادی اور راہ نماہ ہو سکے وہ مذہب کسی صورت میں عالمگیری مذہب نہیں ہو سکتا۔ ایسا مذہب تاریخ کے صفحوں میں اپنے لئے جگہ حاصل کر لے گا۔ کیونکہ نوع انسانی کی تاریخ میں وہ کسی زمانہ میں انسان کے کام آیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ آئندہ زمانہ میں انسان کا ساتھ نہیں دے سکتا کوئی ایسا زمانہ آئے گا جب وہ زندہ مذہب نہیں رہے گا۔ بلکہ مردہ زمانہ کے ساتھ ہی وہ مذہب بھی مردہ ہو جائے گا۔ عالمگیر مذہب وہ ہے جس پر نوع انسانی کی بقا کا انحصار ہوا اور آئندہ زمانہ میں بھی اس پر بنی نوع انسان کا دار و مدار ہوتا کہ کل ممالک و اقوام کی آئندہ نسلیں اس کی راہنمائی کے ماتحت اپنی ہستی کے تمام مراحل کو طے کر کے نمائےِ اللہ کو پورا کر سکیں۔“

(مسیحیت کی عالمگیری ص ۱۶۷۹)

**مجیب:** قارئین کرام! عبارت مرقومہ کو بغور ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدر حشو زوائد سے پر ہے۔ سارا مضمون چند سطروں کا ہے۔ جس کے لئے انہوں نے اپنی کتاب کے

قہبہ آئندھ صفحے پر کیے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے منقولہ عبارت سے کچھ حذف بھی کر دیا ہے تاہم یہ اتنی لبی ہے کہ ملاں خاطر کی موجب ہو رہی ہے۔

### پادری صاحب کی مثال:

اور بھی بت سے کام ہیں جو یوں نے کئے ہیں اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتیں ان کے لئے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی،

(یو حنا آخری فقرات)

ہم نے جب کبھی اس عبارت کو پڑھا اس کا مطلب ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ ہم یہ بھی نہ کہ سکتے تھے کہ یہ شاعرانہ مبالغہ ہے۔ کیونکہ ایسے مبالغے شاعر لوگ کیا کرتے ہیں۔ مرا غالب مرحوم کہتے ہیں۔

میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے

اس کی سیل گریہ میں گردوں کف سیالب تھا

لیکن ہم یو حنا کی عبارت مذکورہ کو مبالغہ پر محمول نہ کر سکتے تھے کیونکہ الہامی نوشتوں میں ایسے مبالغے نہیں ہوا کرتے۔ پادری برکت اللہ کی تصنیفات دیکھ کر ہمارا استقباب دور ہو گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ مقدس یو حنا کے زمانہ میں بھی موصوف ہیسے لوگ ہوں گے۔ جو اگر حضرت مسیح کی عمر کے چند سالہ واقعات لکھنے بیٹھتے تو اُقی اس قدر زیادہ تعداد میں کتابیں لکھی جاتیں کہ بقول مقدس یو حنا روئے زمین پر نہ سامانستیں۔ حق ہے۔

ملے تو حشر میں لے لوں زبان ناصح کی

عجیب چیز ہے یہ طول مدعای کے لئے

نوٹ: پادری صاحب موصوف کی تصنیفات میں ہم نے جس بات کی کمی دیکھی ہے وہ قوت استدلالیہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ یہ قوت اگر کسی میں ہو بھی ایسے بدیکی الملاں دعویٰ، والوہیت انسان، کو کہاں تک ثابت کر سکتا ہے، دو اور دو کو پانچ ثابت کرنے کے لئے قوت استدلالیہ کام نہیں دے سکتی۔ ہاں شاعرانہ طریق پر کوئی شخص اپنا خیال ظاہر کر دے تو الگ بات ہے۔ جس کی مثال یہ ہے کہ

حکماء یونان اور متکلمین اسلام میں جزء لا تجزی <sup>۱</sup> کی تقسیم پر بڑی بسیط بحثیں

ہوئیں ہر ایک فرق نے اپنا اپنا زور دکھایا۔ مگر ایک شاعر نے آسانی سے جزو لا تحریزی کو تقسیم کر کے دکھادیا چنانچہ وہ کہتا ہے۔

تقسیم جزو لا تحریزی کی ہو گئی  
سواؤ خن جوان کے دہن سے نکل گیا  
ہندوستان میں پادری فنڈر سے لے کر آج تک جتنے عیانی مصنفین گزرے ہیں کم و بیش سب کی تقسیفات ہم نے دیکھی ہیں۔ مگر جو طریقہ تقسیف پادری برکت اللہ صاحب نے اختیار کیا ہے وہ کسی اور پادری کی تقسیف میں نہیں ملتا۔ حالانکہ مذہبی عقیدہ کے لحاظ سے وہ بھی غلطی پر ہیں۔ پادری صدر علی ہوں یا مسٹر اکبر مسیح، پادری فنڈر ہوں یا پادری عmad الدین وغیرہ یہ سب اپنے اپنے طریق پر لکھنے والے تھے۔ مگر پادری برکت اللہ کا طرز تحریر ان سب سے نرالا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے الفاظ با معنی ہوتے تھے مگر ان کے الفاظ کے معانی کھون لگانے سے بھی نہیں ملتے۔ حق ہے۔

ہوا تھا کبھی سر قلم قاصدوں کا  
یہ تیرے زمانہ میں دستور دیکھا  
خادم دین اللہ

ابوالواقع شاعر اللہ کفائن اللہ اسرت سری

صفر ۱۴۳۶ھ مارچ ۱۹۲۱ء

❶ متكلیں کافہ ہب ہے کہ پیدا نش عالم اجزائے لا تحریزی سے ہوئی ہے۔ جزو لا تحریزی اس چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں جو کٹ نہ کئے گھنائے یو نان اس کے وجود سے انکاری ہیں۔ برعکس یہ مسئلہ ان دونوں گروہوں میں تنازع ہے۔

## تمہید

پادری برکت اللہ صاحب نے اپنی تصنیفات میں بہت سی باتوں کا اخفا کیا ہے۔ جو بحیثیت اہل مذہب ہونے کے ان کو زیبانہ تھا۔ دنیاوی عاداتوں میں فریقین کے اس فعل کو مستحسن سمجھا جاتا ہے مگر مذہبی مناظرات میں جو خدا کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ واقعات صحیح کا اخفا کسی طرح جائز نہیں۔ اسی بنیادی پتھر کی طرف راہنمائی کرنے کو خدا نے ہدایت فرمائی ہے۔ ”وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْأَيْمَنِ هِيَ أَحْسَنُ“ (پ ۲۱:۴)

اہل کتاب کے ساتھ بہترین طریق سے مناظرہ کیا کرو۔

اخفائے حق اور واقعات کو چھپانا کوئی احسن طریق نہیں ہے۔ پادری صاحب نے تن جن واقعات کو چھپایا ہے۔ موقع بموقعہ ہم ان کو ظاہر کرتے جائیں گے۔ یہاں بطور تمہید ایک امر کا اظہار کرتے ہیں۔ جو یہ ہے کہ۔

موسوی شریعت عیسائی مذہب میں واجب العل ہے۔ اس کے علاوہ عیسائی مذہب میں شرائع کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ حضرت مسیح کا قول انجیل میں مرقوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

”یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسون کرنے آیا ہوں۔ منسون کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے جو کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین میں نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ملے گا۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے، پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور کسی آدمیوں کو سکھائے گا۔ وہ آسمان کی پادشاہت میں سب سے چھوٹا کھلائے گا۔“ (متی باب ۵ فقرہ ۷۱ء ۱۹۶۷ء)

**مجیب:** یہ مسیحی ارشاد ایک اصل الاصول و بنیادی پتھر ہے، کسی مسیحی مصنف کے کلام کی صحت جانچنے کے لئے موسوی تورات یا نبیوں کے صحیفوں کی شہادت ضروری ہے پادری صاحب خود بھی اس بنیادی اصول کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے الفاظ اس بارے میں یہ ہیں۔

**بائبل شریف کی عالمگیری:** دنیا میں بائبل مقدس <sup>①</sup> ہی ایک واحد کتاب ہے جو صدیوں سے ہزاروں ملکوں اور قوموں کے کروڑوں افراد کے نزدیک آج بھی ویسی ہی وقت کے قابل ہے۔ جیسی وہ اس زمانہ میں تھی۔ جب وہ تحریر میں آئی۔ حق تو یہ ہے کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے۔ یہ کتاب زیادہ قابل احترام خیال کی جاتی ہے۔ اقوام عالم گھاس کی طرح مرحاجاتی ہیں اور ڈینا کی پشیں اور نسلیں پھول کی طرح کمالا جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔” (مسیحیت کی عالمگیری ص ۲۷)

**مجیب:** پادری صاحب کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ باوجود اس اعتزاف کے کہ بائبل ایک عالمگیر نہ ہی کتاب ہے اپنے مسلمہ مسیحی مذہب کی نسبت یوں رقطراز ہیں۔ آپ (مسیح) کی تعلیم میں اور عمد حقیق کی تعلیم میں درحقیقت کوئی نسبت ہے نہیں آپ صاحب اختیار کی طرح فرماتے تھے۔

”تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا۔۔۔۔۔ لیکن میں تم پسے کھتا ہوں۔“

**آپ (مسیح) کے خیالات یہودیت کی عین ضد تھے (مسیحیت کی عالمگیری ص ۵۳)**

**قارئین کرام!**: اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ پادری صاحب مسیحی تعلیم کو یہودی تعلیم کے چند صفات آگے چل کر پھر اس بات کو بھول جاتے ہیں اور اس بھول میں آپ لکھتے ہیں۔ پولاوس رسول نے ثابت کیا کہ مسیحیت یہودیت کی تکمیل ہے۔

(رسالہ مسیحیت کی عالمگیری ص ۷۸)

کوئی طالب علم جس نے عربی میں منطق یا کانٹھ میں لا جک پڑھی ہو۔ ہمیں بتائے کہ ایک ضد دوسری ضد کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ سیاہ اور سفید رنگ یا سبز اور سرخ رنگ ایک دوسرے کی ضد ہیں، پھر کیا یہ رنگ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں یا فاکرتے ہیں؟ سفید کپڑے پر سیاہ رنگ چڑھایا جائے تو سفید کی تکمیل ہو گی یا فا ہو جائے گا۔ پادری صاحب کے

① بائبل حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے صحف کے علاوہ تمام انیماۓ نبی اسرائیل کے صحفوں پر مشتمل ہے انجیل کو عمد نامہ جدید اور پسلے صحفوں کو عمد نامہ قدیم کہا جاتا ہے (مجیب)

ایے ڈعادی سن کر بے ساختہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے۔  
ہوا تھا کبھی سر قلم قاصدؤں کا  
یہ تیرے زمانہ میں دستور دیکھا



## باب اول

## تشريح القرآن

## بجواب

## توضیح البیان

سب سے پہلے ہمارے زیر نظر وہ رسالہ ہے۔ جس کا نام آپ نے توضیح البیان فی اصول القرآن رکھا ہے اس میں آپ نے جو امر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا بزعم خود ثابت کر دیا ہے۔ وہ اس عبارت سے ظاہر ہے جو بالفاظ ذیل اس رسالہ کے سورت پر مرقوم ہے۔

”اسلام کے اصول میں عالمگیر ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔“

کیوں نہیں؟ اس کی تفصیل اس رسالہ میں بتائی گئی ہے۔

چونکہ یہ لازمی امر ہے کہ آپ جس چیز کی اسلام سے نفی کریں۔ پہلے اس کی تعریف بتائیں ایسا کرنا آپ کا فرض تھا۔ اسی لئے آپ نے اس فرض کو اچھی طرح ادا کیا ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

”عالمگیر نہ ہب کی لازمی شرط یہ ہے کہ اس کے اصول دنیا کے کل ممالک اور اقوام پر حاوی ہو سکیں۔ اور اس کا پیغام یہ الیت رکھتا ہو کہ زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہو اور کسی خاص قوم یا زبان یا ملک سے متعلق نہ ہو تاکہ ہر قوم اور ملک اور زمانہ کے افراد اپنے خاص حالات پر اس کا اطلاق کر کے اس کی تفہیل کر سکیں۔“۔۔۔ (توضیح البیان ص ۱۵)

مجیب: عالمگیر مذہب کی یہ تعریف ہمیں بھی مسلم ہے اور آئندہ بھی مسلم رہے گی مگر اس کے ساتھ ہی ہم آپ کا یہ قول بھی منضم کرتے ہیں کہ

”بس مذہب کے اصولوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ہر ملک، قوم، زمانہ اور نسل کے لوگوں پر حاوی ہو سکیں وہ مذہب صرف ایک قوم یا ملک یا زمانہ یا پشت کے لئے ہی مفید ہو سکتا ہے۔“..... (مسیحیت کی عالمگیری ص ۱۲)

اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ فقرہ بھی ملا تے ہیں کہ۔

”عالمگیر مذہب کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں ذاتِ الہی کی نسبت ایسی تعلیم ہو جس کے سامنے ہر ملک، قوم، نسل اور زمانہ کے سرتاسریم ختم ہو جائیں۔“..... (حوالہ مذکور)

اطھارِ تجуб: پادری برکت اللہ کے نام کے ساتھ ایم۔ اے کی ڈگری لکھی ہوئی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ذی علم صاحب قلم ہیں۔ آپ نے عربی میں منطق نہ پڑھی ہو تو انگریزی میں لا جک ضرور پڑھی ہو گی۔ اس لحاظ سے میں آپ کا ایک فقرہ نقل کرتا ہوں۔ جو اس سے پہلے طول کلامی کی مثال میں بھی آچکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ”پہلی شرط کالازی نتیجہ یہ ہے کہ عالمگیر مذہب کے اصول عالمگیر ہوں۔ کوئی مذہب عالمگیر کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا جس کے اصول عالمگیر نہ ہوں۔“

مجیب: منطق کی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ کسی چیز کی تعریف (ذینی نیشن) دوری نہیں ہونی چاہئے۔ دوری تعریف اس کو کہتے ہیں۔ جس میں معرف یا اس کا کوئی جزء یا اس سے مشتق کوئی لفظ تعریفی الفاظ میں مکرر آجائے۔ جیسے انسان کی تعریف یوں کریں انسان وہ ہے۔ جس میں انسانیت ہو۔ یا حیوان کی تعریف میں کہیں کہ حیوان وہ ہے جس میں حیوانیت پائی جائے۔

پادری صاحب کے مذکورہ فقرہ میں یہ دوری تعریف صراحتہ پائی جاتی ہے۔ ایسے علم کے حق میں اہل منطق کہا کرتے ہیں۔

تو آشنائے حقیقت نہ خطا ایں جا است

پادری صاحب کی غلطی: اصولِ مناظرہ کے متعلق چاہئے تو یہ تھا کہ پادری صاحب اپنی کتاب کے عنوان کو محوڑ رکھ کر صرف اصول قرآن پر

بحث کر کے اس جامع تعریف کے لحاظ سے ان کا کم درجہ ہونا ثابت کرتے، مگر آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ نہ صرف علم مناظروں کے خلاف ہے۔ بلکہ موجودہ عدالتوں میں موجود طریق گفتگو کے بھی مخالف ہے۔

عدالتی مثال: ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرا فلاں مقروض اس حد تک پہنچ لیا ہے کیا ہے؟ تو جواب میں شخص مذکور کرتا ہے کہ میری دکان خوب چلتی ہے اور میرے باپ دادا کا کارخانہ بڑا باروں تھا۔

قارئینِ انصاف سے بتائیں کہ عدالت اس جواب پر توجہ کرے گی؟ اس کے مطابق پادری صاحب کی تفریح سنئے! آپ عالمگیر مذہب کی تعریف بتا کر لکھتے ہیں کہ ”ہم نے اپنی کتاب مسیحیت کی عالمگیری کے باب دوم میں یہ ثابت کیا ہے کہ مسیحیت کی تعلیم کی اساس خدا کی محبت اور ابوتو اور انسانی انوت اور مساوات ہیں۔ اس حقیقت سے کسی صاحب عقل کو انکار کی مجال نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ مسیحیت کے یہ اصول اعلیٰ ترین ہیں اور زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہیں۔ اللہ اہر زمانہ میں ہر ملک اور قوم کے افراد اس پر عمل کر سکتے ہیں۔“۔۔۔۔۔ (توضیح البیان ص ۱۵، ۱۶)

قارئین ذرا غور کریں کہ مسیحی مذہب کی عالمگیری کا ثبوت دینے کے لئے یہ کتاب نہیں لکھی گئی بلکہ قرآن مجید کی تعلیم سے عالمگیری کی نفعی کرنے کے لئے لکھی گئی ہے۔ پھر شروع ہی میں مسیحیت کا ذکر کیوں کیا ہے۔

نوٹ: اس اقتباس میں آپ نے جو اپنی کتاب مسیحیت کی عالمگیری کا ذکر کیا ہے، ہم بھی آگے چل کر باب دوم میں اس کتاب کا ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اس کے بعد اسلام کے متعلق آپ لکھتے ہیں۔

”اسلام میں خدا کے ننانوے نام ہیں۔ لیکن ان ننانوے ناموں میں ”آب“ یعنی باپ کا نام موجود نہیں اور نہ اس لفظ کا لطیف اور پاکیزہ مفہوم کسی اور نام سے قرآن میں موجود ہے۔ خدا کے تصور ”آب“ یا ”رب“ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ پہلا تصور کلنت اللہ کا ہے۔ دوسرا اسلامی تصور ہے جو اسلام کی طبیعت اور اصول اور شیوه کا مظہر ہے۔ یہی تصور اسلام کے

عالیگر نہ ہب ہونے کے مانع ہے۔ رب کا تصور اسلام کی رو رواں ہے اور آنحضرت نے دیدہ و دانتہ اس کو ”بَاب“ کے تصور کی بجائے قائم کیا، اماکہ خدا کے ”بَاب“ ہونے کا تصور لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔۔۔۔۔ (ص ۱۶)

- مجیب:** بالکل صحیح فرمایا ہے آب کے معنی بَاب کے ہیں۔ بَاب کے لفظ کی تشریع کی ضرورت نہیں۔ آب کے معنی میں دو بلکہ تین مفہوم داخل ہیں۔ مثلاً اگر زید کسی کا آب ہے تو اس کا تصور تین مفہوموں پر مشتمل ہو گا۔
- زید کی ذات (بجیشیت ذوا صافت)
  - زید کی بیوی۔
  - وہ ولد جس کا زید بَاب ہے۔

جب تک کسی شخص کی آبتوت میں ان تین مفہوموں کا تصور نہ ہو وہ کسی کا آب نہیں کھلا سکتا۔ آپ نے حق فرمایا ہے کہ آنحضرت نے بلکہ خدا نے ”آب“ کے تصور سے ہٹانے کے لئے رب کا لفظ استعمال کیا۔ کیا آپ کے خیال میں اسلام نے اب کا لفظ بلا وجہ ترک کیا؟ بلا وجہ نہیں بلکہ اس کی دلیل ایسی بتائی جو ”آب“ کئے والوں کے خیالی قلعے پر بم کا سائز کر گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

أَنْتَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبٌ

**ترجمہ** (خدا کی اولاد کیسے ہوگی اس کی تو بیوی ہی نہیں)

کسی فلسفیانہ اور دقيق دلیل ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ٹرا یسائیکل (تین پہیوں والا سائیکل) کا ایک پہیہ ثوٹ جائے یا توڑ دیا جائے تو دوسرے دو پہیے خود بخود بے کار ہو جائیں گے۔

**ازالہ شبہ:** شاید پادری صاحب اور ان کے ہم نواوں کو خیال گذرے کہ ہم خدا کو ان معنی میں ”آب“ نہیں جانتے، جن معنی کے لحاظ سے آب کے اندر تین مفہوم داخل ہیں تو جواب یہ ہے کہ وہ کوئی ضرورت داعی ہے کہ آپ آب کا لفظ استعمال کریں جو موہم غلطی ہے اور رب کا لفظ چھوڑ دیں جو بالکل صاف ہے۔ اب کا لفظ صرف موهوم غلطی ہی نہیں۔ بلکہ عیسائیوں کے ایک بڑے گروہ کو غلطی میں ڈال چکا ہے۔ پادری علی بخش

صاحب لکھتے ہیں کہ۔

”بعض میسیحوں نے مریم کو ملکہ آسمانی اور خدا کی جورو کہا ہے“ (معاذ اللہ!)

(تفیر مصنفہ پادری علی بخش صاحب جلد اول ص ۱۳۲)

پادری سلطان محمد خاں کا جنوں نے رب اور ”اب“ کے معنی بتا کر خدا بھلا کرے: پادری برکت اللہ کی غلطی کی اصلاح کر دی۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ

”خدا کو باپ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ وہ تمام کائنات کا حقیقی پادشاه اور فرمادا ہے۔“ (”اخوت“ لاہور بابت و سبر ۳۹ ص ۲۳)

مجیب: اب کے معنی کی یہ تشریع ایسی ہے جو فصلہ کرن ہے۔ مگر چونکہ ہر ایک شخص کا دماغ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں تک پادری سلطان محمد خاں کا پہنچا ہے۔ اس پا پر ”اب“ کے لفظ سے غلطی لگ جانا ممکن ہے۔ بلکہ واقعہ ہے۔ اس نے اسلام نے اس لفظ (رب) کے استعمال سے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ پس پادری برکت اللہ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ۔

آنحضرت نے دیدہ دانتہ اس لفظ رب کو باپ (آب) کے تصور کی  
بجائے قائم کیا۔ پس اسلام آپ کے الزام کا الزام کرتا ہوا کہتا ہے۔ سے

مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں  
مزید برآل دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے ان کی زبان کا استعمال دیکھنے کے وہ خدا کو  
آب (باپ) کہتے ہیں یا رب (پروردگار) کہتے ہیں۔ اس تحقیق کے بعد آپ کو یقیناً معلوم ہو  
جائے گا کہ دنیا کی اکثر آبادی خدا کو رب کہنا پسند کرتی ہے اور یہی اس کے عالمگیر ہونے کا  
ثبوت ہے۔

دوسراء اعتراض: آپ لکھتے ہیں۔

”اسلام کا اللہ حی الیوم، قادر مطلق، قیار اور جبار ہے۔ اس کا اور خلق کا باہمی تعلق خود مختار سلطان اور رعیت، آقا اور غلام کا تعلق ہے۔ خدا اور اس کی حقوق میں باپ اور بیٹے کا تعلق نہیں۔ اگر اللہ صریان، غفار اور الرحمن الرحیم ہے تو اپنی پدرانہ شفقت اور ارزی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ خروانہ عنایات کی وجہ سے ہے۔ اگر آقا چاہے تو اپنے غلام کو معاف کرے اگر

چاہے تو سزادے۔ سب کچھ اللہ کی مطلق الخانِ مرضی پر موقوف ہے۔ جس کو چاہے معاف کرے۔ جس کو چاہے عذاب دے۔ (بقرہ آیت ۲۸۳، آل عمران ۳۵، ۳۴، مائدہ ۳۳ وغیرہ)  
تفسیر البیان ص ۱۶، ۱۷)

**مجید:** آپ نے پدرانہ شفقت کو خدائی ربوبیت سے بالاتر سمجھا ہے یہ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ پدرانہ شفقت رب کی غیر محدود شفقت میں سے شمہ بھر ہے اور وہ بھی اس کی دی ہوئی۔ دیکھئے شیخ سعدی جیسا معلم اخلاق دونوں شفقوں کا مقابلہ کرتا ہوا لکھتا ہے۔

اگر بادپر جنگ جوید کے پر بے گماں نشم گیرد بے و لیکن خداوند بلا و پست حصیاں در رزق برکس نہ بت اس اعتراض کا دوسرا حصہ آپ کے الفاظ میں یہ ہے۔

”قرآن کا اللہ ایک قادر مطلق سلطان ہے جو ایک ذمہ دار ہستی نہیں بلکہ اللہ جو چاہے حکم دے۔“ (مائہ آیت ۱) اللذَا قَرْيَانُوْكَسْ کے وسیلے سے اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن مسیحیت کا خدا محبت کا خدا ہے۔ ”وَهُنَّا هَجَارُ كَمُوتٍ نَّمِيزٍ چَاهِتَا۔“ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ گناہگار اس کی جانب رجوع کرے۔ جس طرح دنیاوی باپ کی محبت اور دنیادی ماں کی مامتا اس بات کی متفاضی ہے کہ ان کا نافرمان بیٹا ان کی جانب رجوع کرے اور اس بات کے لئے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا کی محبت اس بات کی متفاضی ہے کہ وہ ہر ممکن طور سے گناہگاروں کو اپنی جانب لائے۔“ ..... (یوحننا ۳: ۱۸، مئی ۱۸: ۳، مرقس ۲: ۱۳ وغیرہ) بندوں کے ساتھ خدا کی محبت کا ثبوت قرآن مجید کی آیات سے بکثرت ملتا ہے۔

**مجید:** مثلاً۔

(۱) إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَوَءٌ وُّفْ رَّجِيمٌ ..... (پ ۲ : ع ۱۱)

**ترجمہ** (الله تعالیٰ لوگوں کے حال پر نمایت مریان ہے۔)

(۲) إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ..... (پ ۲: ع ۱۶)

**ترجمہ** (الله تعالیٰ لوگوں کے حال پر مریان ہے مگر لوگ شکر نہیں کرتے)

(۳) وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو الْمُغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ - (پ ۱۳:ع ۷)

**ترجمہ** (تمسار ارب لوگوں کی خطاوں کو معاف کرتا ہے)

پس آپ کا یہ فقرہ کہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہستی نہیں بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ذمہ دار ہستی اس بادشاہ کی ہوتی ہے جو عدل و انصاف کرے اور اپنی مرضی سے کسی کی حق تلفی نہ کرے قرآن مجید نے اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَإِنْ تَكُ نَّسْأَلَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ---- (پ ۵:ع ۳)

**ترجمہ** اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی بھی ہواں کو کسی

گناہ بھارتا ہے۔ اور اپنی طرف سے بت بڑا اجر دتا ہے۔

ایسا ہی آپ کا یہ فقرہ بھی غلط اور تعلیم انجلیل کے سراسر خلاف ہے کہ ”مسیحیت کا خدا محبت کا خدا ہے وہ گناہگار کی موت نہیں چاہتا۔۔۔۔۔ (ص ۷۶)“

اگر یہ بات صحیح ہے تو اس مسیحی ارشاد کے کیا معنی ہوں گے۔

”جو کوئی اپنے بھائی کو حمق کے گاہہ آگ کے جنم کا سزاوار ہو گا۔“

جو بری خواہش سے کسی عورت پر نظر کرے گا۔ وہ جنم میں ڈالا جائے گا۔۔۔۔۔

(انجلیل متی باب ۵)

اللہ رے اتنی خنگی کہ احمق کہنا یا (بغیر ارتکاب فعل) محض بری نظر سے دیکھنا اتنا برا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ گناہگار تا ابد یا مدت دراز تک جنم کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ فقرہ بھی ملائے دیتا ہوں گے

”مسیحیت کا خدا چاہتا ہے کہ گناہگار اس کی طرف رجوع کرے۔“

مسیحی خدا کی محبت کی مثالیں تو اوپر مذکور ہو چکی ہیں۔ اب اللہ کی محبت کی مثال بھی سنئے! ارشاد ہے۔

فُلُّ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (پ ۲۳ : ع ۳)

**ترجمہ** میرے جن بندوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں۔ ان کو کہہ دو کہ

اللہ کی رحمت سے نامیدہ نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ تمساری ذرا سی اثابت پر اللہ سب گناہ

بخش دیگا۔

**پادری صاحب!:** یہ ہے خدائی محبت اور وہ ہے خدائی غضب۔ جس قدر بخوبی انجلی کے سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو کہتے ہیں۔

ایک ہی بات پر داغ! تم ان سے بگز بینیٹھے  
ای کا نام الفت ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں

پس آپ کا یہ نتیجہ پیدا کرنا سارا سرغلط ہے کہ

دور حاضرہ کے لوگ صرف ایسے خدا کو ہی مان سکتے ہیں۔ جس کی ذات محبت ہے۔  
پس اسلامی تصور موجودہ نسل کے لئے ناقص ہے۔ لیکن سمجھی تصور خدا ایک کامل تصور ہے۔  
(ص ۱۸)

**مجبیت:** کیا خوب! انجلی کی مذکورہ تعلیم سے چشم پوشی کر کے تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ مگر  
انجلی تعلیم کی روشنی میں دیکھنے والا مسیحیت کے خدا کو اس شعر سے مخاطب  
کرے گا۔

کیے لاکھوں ستم اس پیار میں بھی آپ نے ہم پر  
خدا نخواستہ گر خشیگیں ہوتے تو کیا کرتے

## اصول اخوت

پادری صاحب نے اس سرفہ کے نیچے قرآن اور انجلی کی تعلیمات متعلقہ اخوت  
میں فرق بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ انجلی کی اخوت انسانی ہے اور قرآن کی اخوت اسلامی ہے  
اس بارے میں آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

”ہم نے اپنی کتاب ”مسیحیت کی عالمگیری“ کے باب دوم میں اس موضوع پر مفصل بحث  
کر کے یہ بتالیا ہے کہ انجلی جلیل جلیل اخوت انسانی کا سبق دیتی ہے اور مساوات کی تعلیم و تلقین  
کرتی ہے چونکہ خدا کل بنی نوع انسان کا باب پ ہے۔ لذا سب نبی آدم ایک دوسرے کے بھائی  
ہیں۔ کلمۃ اللہ نے حکم دیا کہ سب انسان بلا امتیاز رہگ، نسل مذہب، درجہ یا قوم وغیرہ ایک

دوسرے سے اپنے برابر محبت رکھیں۔۔۔۔۔ (توضیح البیان ص ۱۹)

**مجیب:** اس بیان میں پادری صاحب نے قرآن اور انجیل دونوں کی مخالفت کی ہے۔ قرآن کی مخالفت تو آپ کو چند اس مورد الزم نہیں بنا سکتی۔ کیونکہ آپ کی غرض ہی یہ ہے۔ مگر انجیل کی مخالفت کرنے کی تو آپ کو کسی طرح اجازت نہیں ہے۔ سنئے! قرآن مجید اخوتِ انسانی کا صرف قائل ہی نہیں۔ بلکہ اس کی لم (دلیل) بھی بتاتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔

يَا إِيَّاهَا النَّاَسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ..... (پ ۲۶ : ع ۱۳)

**ترجمہ** اے انسانو! تم آپس میں بھائی ہو کیونکہ ہم نے تم سب کو ایک ہی

مردوں عورت سے پیدا کیا ہے۔

نیز ارشاد ہے۔

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ..... (پ ۳ : ع ۱۲)

**ترجمہ** یعنی آدم و حواسے ہم نے بہت سے مردوں اور عورتیں پیدا کیں۔

اس آیت میں بھی نسل انسانی کے اتحاد کی طرف توجہ دلا کر اخوتِ انسانی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی لئے قرآن مجید میں سب انسانوں کو یعنی آدم کہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ تاکہ ان کو اخوتِ انسانی باد آئے۔ مسلمانوں کی اسی انسانی براوری کے حق میں ارشاد ہوا ہے۔

فُؤُلُو لِلنَّاسِ حُسْنًا ..... (پ ۱ : ع ۱۰)

**ترجمہ** سب لوگوں کے ساتھ خوش کلامی سے پیش آیا کرو۔

اس سے بڑھ کر انسانی اخوت کا ثبوت اور کیا ہو گا۔ اس کے مقابلہ میں انجیل نے جن لفظوں میں غیر اسرائیل کو یاد کیا ہے، ہم گمان نہیں کرتے کہ کوئی شریف انسان اسے اپنے حق میں سنئے کار و ادار ہو۔ ہم جبکہ ہیں کہ پادری صاحب کے جواب میں اس کو نقل کریں۔ ورنہ ہمارا دل اس سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ وہ الفاظ مبارکہ ہمارے مخاطب پادری برکت اللہ صاحب اور ان کے ہمتوں اول کو بلکہ ہم کو شامل ہیں۔ پس سنئے!

اک کنعانی عورت آئی اور کہا کہ اے خداوند (سچ) مجھ پر رحم ٹرکہ میری بیٹی ایک دیو کے غلبہ سے بے حال ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں اسرائیل (بیت اسرائیل) کی تھوڑی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دے

دیں۔”----(متی باب ۱۵، درس ۲۱)

**پادری صاحب!** ایک دفعہ پھر سارا قرآن پڑھ جائے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے کہ وہ بھی پڑھ جائیں پھر اس مضمون کی کوئی آیت ملے تو بتائے جس میں آنحضرت کی قوم قریش کے سوا دوسری قوموں کو کہتا کہا گیا ہو۔ اگر باوجود تلاش بسیار کے آپ لوگ کوئی ایسی آیت نہ پائیں تو پھر انصاف سمجھتے کہ آپ نے مذکورہ اقتباس میں جو کہا ہے وہ کہاں تک واقعات کی رو سے درست ہے۔ اور غور کریں کہ کہاں تک آپ نے واقعات کے إخفاء سے کام لیا ہے۔

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی اسی نمبر میں پادری صاحب نے قرآن کے جہادی حکم کو بڑی رنگ آمیزی سے کئی صفحوں میں بیان کیا ہے۔ جس کا لالب لباب ان الفاظ میں آجاتا ہے۔

”ہر شخص اس امر کو تسلیم کرے گا کہ انخلیل جلیل اور کلمۃ اللہ کے خطبات کی بنا پر کوئی شخص لوگوں کو لڑائی کیلئے ابھار نہیں سکتا۔ لیکن قرآن شریف میں خاص طور پر رسول علی کو حکم دتا ہے کہ ”مسلمانوں کو لڑائی پر ابھار اور کافروں اور منافقوں پر بختی کر۔“ اور انکو ”یہاں تک قتل کر کہ فتنہ یعنی غلبہ کفر جاتا رہے اور تمام دین اللہ کا ہو جائے۔“ (توضیح البیان ص ۲۲)

**محبیب:** ہم شروع میں پادری صاحب کی شکایت کر آئے ہیں کہ آپ اخفاۓ واقعات کے کرنا جرم عظیم سمجھتے ہیں اور تمید میں ہم یہ بھی لکھے چکے ہیں کہ موسوی شریعت عیسائیوں کے لئے واجب العمل ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں مسئلہ جہاد نہ صرف مذکور ہے۔ بلکہ واجب العمل ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جہاد اسلام کی روح رواں ہے۔ جس کی بابت ارشاد ہے۔ ”ذروة الاسلام الجهاد“ لیکن جہاد کوئی ڈراونی چیز نہیں ہے۔ بلکہ ایک شاستر اور مقدس جنگ کا نام ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

وَ قَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللہِ الَّذِينَ يَقْاتِلُونَكُمْ ..... (پ:۲:۸)

**ترجمہ** یعنی جو لوگ تم سے مقابلہ میں لڑیں تم بھی ان سے لڑو۔

نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ تمہارا مقابلہ یا ایذا رسانی نہ کریں۔ تم بھی ان سے کوئی تعرض

نہ کرو۔ اب سنئے، تورات شریف کا حکم جو عیسائیوں کی مقدس کتاب شریعت ہے۔ جناب موئی علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے۔

”جبکہ خداوند تیرا خدا تھجھ کو اس سرزین میں جس کا دارث تو ہونے جاتا ہے داخل کر لے اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو دفع کرے۔ یعنی حتیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کٹھانیوں اور فرزیوں اور حربیوں اور یوسپیوں کو جو سات قومیں کہ بڑی اور قوی تھیں ہیں۔ اور جب کہ خداوند تیرا خدا انہیں تیرے حوالے کرے تو انہیں ماریو اور حرم کیجو۔ نہ تو ان سے کوئی عمد کریو اور انہی پر رحم کریو۔ نہ ان سے بیاہ کرنا۔ اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہ دینا۔ اپنے بیٹے کے لئے اس کی کوئی بیٹی لینا۔ کیونکہ وہ تیرے بیٹے کو میری پیروی سے پھرا کیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ اور خداوند کا غصہ تھجھ پر بھڑکے گا اور تھجھے لیکاک ہلاک کر دے گا۔ سو تم ان سے یہ سلوک کرو تم ان کے مذبوحوں کو ڈھاہو۔ ان کے بتوں کو توڑ دو۔ اسکے گھنے باغوں کو کاٹ ڈالو اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دو کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لئے پاک قوم ہے۔“۔۔۔۔۔ (اعتنا باب ۷۔۲۰۳۱)

قارئین! ”حضرت مسیح کی مصدقہ موسوی شریعت میں جس کو پادری صاحب نے مخفی رکھا ہے۔ جملہ کے متعلق کس قدر جبر و تعدی کا حکم موجود ہے۔ ایسا حکم یورپ کی گذشتہ اور موجودہ جنگ میں بھی کسی جابر سے جابر قاتح نے اپنے مفتوح کے حق میں جاری نہ کیا ہو گا۔ الامان! کیسے سخت احکام ہیں کہ مارو اور ان کے معبودوں کو توڑ دو، ان کے معبودوں کو گراو، ان کے باغوں کو اجاڑ دو۔ ان سے کسی قسم کا متعلق پیدا نہ کرو۔“۔

الامان! قرآن تھا یہ غصہ اس کا  
آج قاتل نے نہ اپنا پرایا دیکھا

میں حیرت زدہ ہو گیا: جب میں نے پادری صاحب کا یہ فقرہ دیکھا۔

”نجیل جلیل اور کلمۃ اللہ کے خطبات کی بنابر کوئی شخص لوگوں کو بڑائی کیلئے ابھار نہیں سکتا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ پادری صاحب انجیل کی تعلیم بھول چکے ہیں۔ نہیں بلکہ وہی عادت مستمرہ اتفاقے و اقتات اپنا اثر دکھاری ہے۔ سنتے! انجیل جلیل میں کلمۃ اللہ (مسیح) کا ارشاد ہے۔

”یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں۔ نہیں بلکہ تکوار چلانے کو آیا ہوں۔ کیونکہ میں (اس لئے) آیا ہوں کہ مرد کو اس کے باپ اور بیٹی کو اس کی ماں اور بوپو کو اس کی ساس سے جدا کروں۔“۔۔۔۔۔ (متی باب ۱۰، فقرہ ۲۲)

یہ عبارت حضرت کلمت اللہ کی زندگی کا پروگرام بتا رہی ہے اور یہ بھی صراحتاً بتاتی ہے کہ آپ کی تعلیم میں تکوار چلانا بھی داخل تھا۔ چونکہ تکوار چلانے کے لئے جمعیت اور سامان جنگ کی ضرورت ہے جو مسیح کو حاصل نہ ہوا اس لئے یہ ارادہ عملًا ظہور پذیر نہ ہو سکا۔ اس سے نفی ثابت نہیں ہوتی۔ اسکی مثال بالکل ایسی ہے۔ جیسے کوئی مسلمان کہے کہ میں نے اس دفعہ سال بھر کی رخصت اس لئے حاصل کی ہے کہ میں مقامات مقدسہ کی زیارت کر آؤں۔ مگر علالت طبع یا سفر کی صعوبت اس کو مانع ہو تو یہ چیز اس کے ارادہ کی نقیض نہیں ہے۔ قرآن مجید کا جہادی حکم بہ نسبت تورات کے بہت زم ہے۔ کیونکہ اس میں یہ بھی ارشاد ہے۔

وَإِنْ جَتَحُّو لِلشَّرِّ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (پ ۱۵ : ع ۲)

میں حالت جنگ میں فریق خارب اگر صلح پر آمادہ ہو جائے تو تم بھی ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ۔

پادری صاحب! ان دونوں جہادوں (موسیٰ اور محمدی) کا مقابلہ کر کے انصاف سے کہنے ان میں سے کون سا جہاد انسانی فطرت پر مبنی ہے۔

پادری صاحب نے رسالہ زیر جواب کے ص ۲۷۲ پر سید مقبول احمد کی کتاب فلسفہ مذہب سے کچھ عبارت نقل کی ہے۔ ہم اس عبارت کے جواب دے نہیں۔ کیونکہ سید صاحب نہ کوئی مذہبی پیشوں ہیں نہ مستند عالم ہیں کہ ان کی بات مسلمانوں کے لئے سند ہو۔ وہ اپنی بات کے ذمہ دار خود ہیں۔

## فصل چہارم ☆ اصول مساوات

اس فصل کے پہلے نمبر میں پادری صاحب یوں گویا ہوئے ہیں۔

”ہم نے رسالہ ”میسیح عالمگیری<sup>①</sup>“ کے باب دوم کی فصل اول میں یہ ثابت

① اس رسالے کا جواب کتاب ہذا کے دو سرے باب میں دیا جائے گا۔ (مجب)

کر دیا ہے کہ انجلیل جلیل کا ایک ایک ورق مساوات کے سترے اصول سے مزین ہے۔ انجلیل کے عالمگیر اصول محبت، اخوت و مساوات سے کوئی شخص یا طبقہ، مستثنی نہیں کیا گیا۔ انجلیل اصول مساوات نے ہر طرح کی تفریق اور درجہ بندی کو مٹا دیا، غلام اور آزاد، غریب اور دولت مند۔ اعلیٰ اور ادنیٰ، عالم اور جہاں، مرد اور عورت کا امتیاز غرض یہ کہ ہر قسم کے امتیازات اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔۔۔۔۔ (متی ۵، ۷، ۸ اباب) "توضیح البیان ص ۳۳، ۳۲ (۳۲، ۳۳)

**مجیب:** جس کا مضمون یہ ہے کہ اسرائیل کے سوابقی قوموں کے افراد اتنے ذلیل ہیں، گویا کتے ہیں۔ اس مسیحی ارشاد کی موجودگی میں کوئی مسیحی انسانی مساوات کا دعویٰ کیوں نکر کر سکتا ہے۔ ہاں اسلام کہتا ہے کہ تم سب نبی آدم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو (قرآن مجید آنہ علی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے نہ سفید کو سیاہ پر کوئی برتری)۔ "کلکم بنو آدم و آدم من التراب" (الحمدیث) تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہے۔

آپ کا یہ کہنا کہ "انجلیل کی تعلیم سے دنیا سے آزاد اور غلام کا امتیاز اُنھوں گیا۔"

انجلیل کی تعلیم سے نہیں بلکہ یورپ کی آزاد مٹی اور الحاد پسندی سے اٹھا ہے۔ ورنہ آج سے سو سال پہلے مسیحی ممالک میں بھی غلامی کا ثبوت ملتا ہے۔ اپنی کتاب مقدس تورات کا حکم منے جس کے مطابق یہ رسم چلی آرہی تھی۔

"جب تو کسی شر کے پاس اس سے لڑنے کے لئے آپنے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کرت بیوں ہو گا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کر صلح منظور کر لے اور دروازہ تیرے لئے کھول دے تو ساری خلق جو اس شر میں پائی جائے تیری خراج گزار ہو گی اور تیری خدمت کرے گی اور اگر وہ تجھے سے صلح نہ کرے۔ بلکہ تجھے سے گنگ کرے تو تو اس کا محاصرہ کرو اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دیوے۔ تو ہاں کے ہر ایک مرد کو تکوار کی دھار سے قتل کر۔ مگر عورتوں اور لاکوں اور مواثی کو اور جو کچھ اس شر میں ہو اس کا سارا لوٹ اپنے لئے لے اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے، کھائیو! اسی طرح سے تو ان سب شرموں سے جو تجھے سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شرموں میں سے نہیں ہیں۔ کیجیو لیکن ان قدموں کے شرموں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے۔

کسی چیز کی جو سانس لیتی ہے۔ جیتنا نہ چھوڑیو ①۔ بلکہ تو ان کو حرم کیجو حتیٰ اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوسی اور بیوسی کو جیسا کہ خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم کیا ہے تاکہ دے اپنے سارے کریمہ کاموں کے مطابق جوانہوں نے اپنے معبودوں سے کئے۔ ثم کو عمل کرنانہ سکھلائیں کہ ثم خداوند اپنے خدا کے گنگا رہو جاؤ۔”۔۔۔۔۔ (اشناب ۲۰:۱۸۷)

”جب تو زبانی کے لئے اپنے دشمنوں پر خرچ کرے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھوں میں گرفتار کرے اور انہیں اسیر کر لائے اور ان اسیروں میں خوبصورت عورت دیکھے اور تیرا جی اسے چاہے کہ تو اسے اپنی جو روپیائے تو تو اسے اپنے گھر میں لا۔ اس کا ② سرمنڈا اور ناخن کٹوا۔ تو وہ اپنا اسیری کالباس اتارے اور تیرے گھر میں رہے اور ایک ممینہ بھرا پنے باپ اور اپنی مال کے سوگ میں بیٹھے۔ بعد اس کے تو اس کے ساتھ غلوت کر اور اس کا خصم بن اور وہ تیری جورو ہے۔“۔۔۔۔۔ (اشناب ۲۱:۱۳۷)

اللہ رے خفگی!: کس قدر سختی ہے کہ سانس لینے والی چیز کونہ چھوڑیو۔ حق ہے۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں  
ترپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

قارئین: پادری صاحب کو اخفاۓ واقعات کی عادت ہے اسی لئے وہ دلیری سے ہر ایک واقعہ کا انکار کر جاتے ہیں۔ مگر تازے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔  
ان کا دعویٰ ہے کہ ۔۔۔

من انداز قدت راءے شناسم

تعجب!: پادری صاحب تو انسانی مساوات یہاں تک بڑھا رہے ہیں کہ ”انجیل نے ہر ایک قسم کے امتیازات اٹھا دیئے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ آج تک یہ امتیاز باقی ہے کہ ہیکی عیسائیوں اور یورپین عیسائیوں کے گربے الگ الگ ہیں۔ عبادات گذاری کے وقت۔ اگر اللہ کے سب بندوں کو یکساں حالت میں دیکھنا ہو تو مسجد میں آکر دیکھئے۔ حق ہے۔۔۔

① آغا تلوار میان کرن۔

② تعلیم تو مزدوں ہے۔ عمل ہوتا جائیں۔ ۱۴

ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود وایاز  
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز  
اسی ذیل میں پادری صاحب نے کئی ایک باتیں ایسی لکھی ہیں۔ جوان کے سابقہ بیان  
کے سراسر خلاف ہیں۔ مثلاً

قریش کا تمام قوموں سے شریف انساب خیال کیا جانا کسی موالي کا یہ جرات نہ کرنا کہ خالص

عرب نژاد لڑکی سے بیاہ کی درخواست کرے وغیرہ۔۔۔۔۔ (ص ۳۶)

حالانکہ آپ اسی کتاب کے شروع میں لکھ آئے ہیں کہ

”هم اپنے استدلال کی بنا ترائق آن اور صرف قرآن پر ہی رکھیں گے۔۔۔۔۔ (ص ۵)

اگر حافظہ کی کمزوری نہیں ہے تو اتنی جلدی بھول جانا قابل مصنف کی شان سے بعید ہے۔ اگر آپ بھولے نہیں تو ان دعاوی کا ثبوت قرآن مجید سے دیویں۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ اگر قریش یا سید وغیرہ اقوام عزت کے لا تلق ہیں۔ لیکن یہی قریش اگر بدر اسی اختیار کریں تو آیہ کریمہ ”تَبَثَّ يَدَا أَنْبَى لَهُبٌ“ ان کے لئے نازل ہو چکی ہے۔ غرض اسلام میں مدار کار اعمال حسنہ ہیں۔ ایسے قریش کے سردار اور مسلمانوں کے امیر خلیفہ ٹانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلال ”جیسے جبشی غلام کے حق میں سید نابلل“ فرمایا کرتے تھے۔ شیخ سعدی مرحوم مج کہہ گئے ہیں۔۔۔۔۔

ہر بمنا اگر داری نہ جوہر

گل از خاراست ابراہیم از آزر

آگے چل کر پادری صاحب نے اسلامی پردے پر بھی اعتراض کیا ہے اور یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ سے پردوہ دروں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا آیا ہے۔ مگر معتبرین اعتراف کرتے ہوئے قانون قدرت کو بھول جاتے ہیں۔ قانون قدرت یعنی نیچل لاء یہ ہے کہ عورت مرد کے لئے جاذب توجہ ہے۔ اسی جذب کی حالت میں مرد کے دل میں برے برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں یا ہو جانے ممکن ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان برے خیالات کو روکنے کے لئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ

”بُو كُوئی بُرے خیال سے عورت کو دیکھے وہ اپنی آنکھیں نکال پھینے“۔۔۔۔۔ (متی باب ۵)

ہو سکتا ہے کہ یہ حکم زاہدانہ روشن کے مطابق ہو۔ مگر عام بشری تمدن میں ناممکن

العل ہے۔ اس لئے بانی فطرت جل مجھے نے انسانی فطرت کو ملحوظ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے چہرے کو بالغ مردوں سے چھپایا کرے۔ ”کتنا چھپائے؟ صرف اس قدر کہ اس کا چہرہ مرد کے لئے باعث کشش ثابت نہ ہو، بس اتنی تھوڑی سی پیارندی کے ساتھ عورت کو اپنے خاوندیا باپ بیٹیے وغیرہ کے ساتھ چلنا پھرنا یا بغرض تفریح سیر کرنا منع نہیں ہے۔ اس پر بھی پادری صاحب کو اعتراض ہو تو نیچل شاعر کے اس شعر پر غور کریں۔ جو انسانی فطرت کا اظہار کرتا ہوا کتاب ہے۔

بل بے خود نیستی زاہد کہ تیرے دیکھنے کو  
منع کرتا ہے لو یہ اور تماشا دیکھو

صرف اتنے سے پردے پر کسی آزاد منش کا اعتراض کرنا اور پادری صاحب کا اس کو اپنی تائید سمجھنا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم بھی ملحدیں یورپ بریڈل وغیرہ کی تحریرات متعلقہ بائبل اور دین سمجھی پیش کر کے پادری برکت اللہ صاحب کو بتائیں۔

مشکل بہت پڑے گی برابر کی چوت ہے  
آئینہ دیکھنے گا ذرا دیکھ بھال کر

قلبی شہادت: ہمارا دعویٰ ہے کہ جو لوگ بہنہ رو عورتوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے ضمیر کی حالت کا اندازہ کریں تو ایسے لوگ اگر نفسانیت سے مغلوب نہیں ہیں بے اختیار پکارا نہیں گے کہ اسلامی پرده واقعی ایک فطری امر ہے۔ جس کا اظہار کسی نیچل شاعر نے یوں کیا ہے۔

دیدار مے نمائی و پہیز مے کنی  
بازار خوش و آتش ما تیرے کنی

آریہ سماجی: پرده دری میں آریہ سماجی بھی مسیحوں سے کم نہیں ہیں۔ بات بات میں پرده کو لعنت لعنت کرنے کے عادی ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان دو گروہوں سو ای ویا نہ اور منوجی نے تبلیغ لڑکوں کو لڑکیوں کے سکول میں جانے سے بالاتفاق منع کیوں کیا ہے۔ پادری صاحب اگر آریوں سے ہمارے سوال کا جواب دلوادیں گے تو ہم ان کامنہ مٹھائی سے بھر دیں گے۔

اسی ضمن میں پادری صاحب نے مرد و عورت میں عدم مساوات کا الزام بھی اسلام پر لگایا ہے۔ چنانچہ آپ کا فقرہ ذیل مضمون کی جان ہے۔

ایام جاہلیت میں عورتوں کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ اسلام نے اس حالت کو کسی قدر بہتر بنادیا۔ لیکن ہم کو ایام جاہلیت اور اسلام کا موازنہ اور مقابلہ کرنا مقصود نہیں بلکہ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسلام میں طبقہ نسوں کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ بمقابلہ میسیحیت ایک عالمگیر نہ ہب ہونے کی صلاحیت رکھ سکے۔

ایام جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ بیاہ کے لئے عورتیں خریدی جاتی تھی۔ زر مرد لہن کو دیا جاتا تھا اور عورت شوہر کا مال متصور ہوتی تھی۔ اسلام میں یہ قانون بحال رکھا گیا۔ چنانچہ قرآن میں وارد ہے۔ کہ ”عورتوں کو ان کے مرخوشی سے دو۔“ (نساء آیت ۲۳)۔

اس زر مرد کو ادا کرنے کی وجہ سے عورتیں آدمیوں کی نسبت کم درجہ خیال کی جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ ”مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت بخشی ہے اور اس لئے بھی کہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال (زر مرد اور نان و نقہ و دیکھو ترجمہ نذری احمد) خرچ کیا ہے۔ بس یہی بخت عورتیں اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں۔ پس قرآن کے مطابق عورتیں پست درجے کی ہیں۔ چنانچہ صاف لکھا ہے کہ مردوں کا عورتوں کے اوپر درجہ ہے۔“ (توضیح البیان ص ۳۸، ۳۹)

مجیب: اس الزام کا جواب دینے سے پہلے مرد و عورت میں قدرتی تعلق کا دیکھنا ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مرد اور عورت انسان کی دو صنفیں ہیں۔ جن میں سے ایک سینیر و اعلیٰ اور دوسرا جو نیز (اوٹی) ہے۔ نظام عالم میں دنیا میں مختلف چیزوں کی طرف نظر کرنے سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ خالق کائنات نے ان سب چیزوں میں سے بعض کو مستعمل (کام میں لانے والی یا برتنے والی) بنایا ہے۔ اور بعض کو مستعملہ (قابل استعمال) بنایا ہے جو جان چیزوں میں کچھ خفانیں ہے۔ مثلاً کپڑا اور برتن وغیرہ سب چیزیں مستعملہ (قابل استعمال) ہیں۔ جانداروں میں بھی قریباً تمام حیوانات انسان کے لئے مستعملہ ہیں۔ مثلاً گھوڑا، اونٹ ہاتھی، گائے، بیل، بھینس وغیرہ۔ اسی طرح انسان کی دونوں صنفوں (مرد و عورت) کو بھی دیکھیں کہ ان میں بھی یہ دستور جاری ہے یا دونوں مساوی ہیں؟ بعد بغور اس

نتیجہ پر پہنچا کچھ مشکل نہیں کہ بے شک مرد مستعمل (برتنے والا) اور عورت مستعملہ (قابل استعمال) چیز ہے۔ اس دعوے پر مندرجہ ذیل فطری دلائل ملاحظہ کریں۔

### دلائل فطریہ:

- ۱۔ تزویج کی یہ غرض بالکل ظاہر ہے کہ مرد مستعمل اور عورت مستعملہ ہے۔ کیونکہ مرد اگر عورت سے جماع نہ کرنا چاہئے تو عورت اس سے جبرا نہیں کر سکتی۔ ہاں مرد جبرا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جس سے صاف ثابت ہوا کہ مرد مستعمل اور عورت مستعملہ ہے۔
- ۲۔ آله فعل خدا نے مرد کو عطا کیا ہے تو پھر مرد کے مستعمل ہونے میں کیا شک رہا۔
- ۳۔ مرد، عورت کی ظاہری شکل وہیست بھی اس نسبت کو بخوبی ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً مرد کے چہرے پر بوقت بلوغت عموماً بالوں کا لکلنہ اور عورت کا چہرہ مدت العرصاف رہنا جو اس کے مرغوب الطبع ہونے کا برا ذریعہ ہے۔ اس نسبت کی بڑی دلیل ہے۔
- ۴۔ اولاد کے حق میں ماں کا مشقت اور سخت تکلیف اٹھانا، حالانکہ نطفہ یقیناً مرد کا ہوتا ہے۔
- ۵۔ مرد کا عموماً تنومند اور طاقت ور ہونا یہاں تک کہ تمام طاقت کے کاموں مثلاً جنگ وغیرہ کا مکلف ہونا اور عورت کا عموماً اس سے بکدوش رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ مرد مستعمل اور عورت مستعملہ ہے۔

پس ان دلائل فطریہ پر بناؤ کر کے قرآن مجید کی تعلیم کو جانچیں تو بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے۔ مستعمل پر فرض ہے کہ اپنے استعمال کا معاوضہ دے اور مستعمل پر واجب ہے کہ اپنے مستعمل کی اطاعت کرے ورنہ دونوں کی زندگی وہاں جان ہو جائے گی۔

اصول عبادت: لکھتے ہیں کہ

”خدا کی عبادت کے اصول پر نظر کرو تو یہی نتیجہ مستبطن ہوتا ہے کہ مسیحیت عالمگیر ہے۔

اسلام قوم عرب کا نہ ہب ہے۔۔۔۔۔ (توضیح البیان ص ۲۷)

مجیب: اس موقع پر بھی ہم کو وہی شکایت ہے کہ پادری صاحب اصول مناظر وہی پابندی دانتے نہیں کرتے یا جانتے ہی نہیں۔ پادری صاحب اور ان کے ہم نواں کا فیصلہ

کر کے ہمیں بتائیں۔ اہل علم حضرات غور کریں۔ پادری صاحب کا دعویٰ ہے کہ اسلام میں عالمگیر ہونے کی صلاحیت نہیں

چنانچہ آپ کی کتاب کا نام ”توضیح البیان فی اصول القرآن“ یہی مدعای تارہا ہے کہ آپ کی حیثیت اس کتاب میں یہ ہے کہ آپ قرآنی اصولوں کے عالمگیر ہونے کی نفی کریں بخلاف اس کے آپ نے جو کچھ کہا ہے اور آپ کی مندرجہ ذیل عبارت سے ظاہر ہے۔

”آداب و طرز عبادت کی نسبت خداوند مجھ نے فرمایا ہے کہ خداروح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔“ ---- (یوحتا: ۲۳، ہماری رسائل باپ کے پاس ایک ہی روح میں ہوتی ہے (افی: ۲: ۱۸) ہم میں جو خدا کی روح کی بدایت سے عبادت کرتے ہیں۔“ (فلی: ۳: ۱۳) خداوند سب سے جو اس کو پکارتے ہیں، نزدیک ہے ان سب سے جو سچائی سے اسے پکارتے ہیں۔“ (زبورہ: ۱۳۵: ۱۸)

پھر اوقات عبادت کی نسبت انجیلی بدایت ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔“ (افی: ۶: ۱۸) دعماً گئنے میں مشغول اور شکرگزاری کے ساتھ اس میں بیدار ہو۔“ (کلمی: ۲: ۲) ہر وقت دعماً گئنے رہنا اور رہت نہ ہارنی چاہئے۔“ (لوقا: ۱: ۱۸) ہر وقت جائے اور دعماً گئنے رہو۔“ (لوقا: ۳: ۲۱) دعماً گئنے میں مشغول رہو۔“ (روم: ۱۲: ۲) بلا نامہ دعماً گئو۔“ (تسلیمی: ۵: ۷) ---- (توضیح البیان ص: ۳۸)

مجیب: کوئی صاحب نظر اہل علم ہمیں بتائے کہ اس عبارت اور اسی مضمون کی ایک بھی عبارت (جو تقریباً دفعوں پر پھیلی ہوئی ہے) آپ کے دعویٰ متعلقہ اصول قرآن سے کیا تعلق رکھتی ہے۔

آپ کی مثال: یہ ہے کہ مدعا (زید) کہتا ہے کہ میں نے بکر سے سورپیہ لینا ہے اور باوجود تقاضا پر تقاضا کرنے کے بکر نہیں دیتا۔ میرا ثبوت یہ ہے کہ میں بڑا سو داگر ہوں۔ کئی منڈیوں میں میری دکانیں ہیں اور میری ساکھ بست زیادہ ہے۔ کیا معنی؟ چاول سفید ہیں لہذا زمین گول ہے۔ چنانچہ اس طول عبارت کے نتیجہ کے طور پر لکھتے ہیں۔

”اب ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ عبادت کے یہ اصول عالمگیر ہیں، خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرنی چاہئے۔ عبادت کے لئے کوئی خاص اوقات مقرر نہیں اور نہ کوئی جگہ مقرر ہے۔ ہر وقت اور ہر جگہ انسان اپنے آسمانی باپ کی طرف رجوع کر سکتا ہے زمان و مکان کی قیود کہیں نہیں ہیں۔“۔۔۔۔۔ (توضیح البیان ص ۲۹)

**مجیب:** آپ کی ساری عبارت سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک عبادت صرف توجہ الٰہ اور ذکر اللہ کا نام ہے جسے قرآن مجید نے ایک مختصر سے فقرہ میں ادا کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ (پ ۲۱: ع ۱)

**ترجمہ:** اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔

نیز فرمایا ہے:

فَإِذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ..... (پ ۵: ع ۱۲)

**ترجمہ:** (کھڑے بیٹھے اور لیٹھے ہوئے اللہ ہی کو یاد کیا کرو)

بس اب تو پادری صاحب خوش ہو گئے ہوں گے کہ قرآن مجید بھی بلا قید زمان و مکان ذکر الٰہ کا حکم دیتا ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ اسلام میں پنجوقت نماز کا حکم بھی ہے۔ جس پر آپ کو اعتراض ہے۔ چنانچہ آپ کے اعتراض کے الفاظ یہ ہیں۔

”بر عکس اس کے قرآن مجید میں اسلامی آداب عبادت میں زمان و مکان کی قیود موجود ہیں جو ہمارے دعویٰ کی مصدق ہیں کہ اسلام عالمگیر ہیں۔ بلکہ صرف آنحضرت کے ہم وطن عربوں کے لئے تھا۔“۔۔۔۔۔ (توضیح البیان ص ۲۹)

**مجیب:** اس اقتباس میں بھی ہمیں پادری صاحب کی مناطرانہ غلطی کا لکھوہ ہے۔ آپ کی کتاب کا موضوع یہ ہے کہ اسلام عالمگیر نہ ہب نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لئے کہ اس میں عبادت مثلاً نماز و مکان کی شرط ہے۔ بست اچھا! لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اسلام صرف عربوں کے لئے تھا۔“ اس فقرہ کو عالمگیری کی نظر سے کیا تعلق؟ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ عرب تو زمان و مکان کی پابندی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ہم عمومی لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہی مطلب ہے۔ تو آپ ہندوستان کی کسی مسجد میں جا کر دیکھ لجھتے یا کم سے کم اپنے محلہ کے

قریب کسی مسجد میں جا کر معاشرہ کیجئے کہ مسلمان زمان و مکان کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس فقرہ کے معنی کچھ اور ہیں تو کھول کر بیان کیجئے۔ اگر اسلامی احکام میں عالمگیری نہیں ہے تو اس میں سب ملک برابر ہونے چاہئیں۔ عرب کی اس میں کیا خصوصیت ہے۔ یہ شکایت ہمیں فن مناظرہ کی حیثیت سے ہے کہ پادری صاحب کے دعویٰ اور دلیل میں تقریب تمام نہیں ہوتی۔ ہمارا یقین نہ ہو تو پادری سلطان محمد خال سے پوچھ لجئے۔

اب ہماری دوسری شکایت سننے کے آپ ہیشہ اخلاقی و افعال کے مرکب ہوتے ہیں۔ میسیحوں کی نماز کی کتاب (جس کا نام دعائے عظیم ہے) مطبوعہ مطبع افتخار دہلی ۱۸۸۹ء کے ص ۳۲ پر دباقہ میں لکھا ہے۔

صح اور شام کی نماز کی ترتیب جس کو سال بھر پڑھنا اور عمل میں لانا ہے۔  
اس سے اگلے صفحے پر (جو اصل کتاب کا صفحہ اول ہے) یوں لکھا ہے۔



## فجر کی نماز کی ترتیب

### سال کے ہر روز کے لئے

”فجر کی نماز کے شروع میں خادم الدین (امام نماز مسیحیان) بائبل کی ان آتوں میں سے جو نیچے لکھی ہیں ایک یا کئی ایک بلند آواز سے پڑھے اور اقرار عیم جسے ساری جماعت خادم الدین مسیح کیتھے نیک کراس کے پیچھے پیچھے کے۔ مغفرت کے لئے یا اگنا ہوں کی معانی کے قیسیں اکیلا کھڑا ہو کر فرمائے اور لوگ کھٹھٹے میکے رہیں تب خادم الدین کھٹھٹے نیک کر بلند آواز سے خداوند کی دعا پڑھے۔ آؤ ہم سجدہ کریں اور بھیکیں اور خداوند کے حضور جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے کھٹھٹے نیکیں کرو یہی ہمارا خدا ہے۔“

اسی قسم کے فقرات اصل کتاب میں صفحہ نمبر اسے صفحہ ۳۰۴ تک نماز فجر کے بیان میں درج ہیں اس کے آگے ص ۱۲۳ پر شام کی نماز کا بیان ہے اس میں بھی یہی ترتیب مذکور رکھی ہے۔

قارئین کرام!: لفظوں کے ہیر پھیر کو چھوڑ کر ملاحظہ کیجئے کہ مسیحی نماز میں بھی حرکت و سکون اور وقت کی پابندی پائی جاتی ہے یا نہیں؟ ایسی حالت میں اگر ہم پادری صاحب کو یہ مصعر نائیں تو بالکل بجا ہے۔

ایں گناہیست کہ در شر شا نیز کنند اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ پادری صاحب کسی خاص وجہ سے اخلاقی و اقامت کے مرکتب ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ گرجا میں جاتے ہوں گے اور صبح و شام کی نماز پڑھتے ہوں گے اور اپنی نماز میں حرکت سکون بھی کرتے ہوں گے۔ باوجود اس کے اسلامی نماز کی ہیئت اور زمان و مکان پر اعتراض کرتے ہیں۔ حق ہے۔

منکرے بودن وہم رنگِ متانِ زستن  
مخضری ہے کہ اسلام نے دو قسم کی عبادت فرض کی ہے۔ ایک قسم میں زمان و مکان

کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کا نام ذکر اللہ ہے۔ ہر وقت اور ہر جگہ خدا کو یاد کئے جاؤ۔ کوئی پابندی نہیں۔ دوسری قسم کی عبادت وہ ہے۔ جس میں زمان و مکان کی شرط ملحوظ ہے۔ جیسے نماز ہمگانہ باجماعت جمعہ اور عیدین وغیرہ اور ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ دوسری قسم کی عبادت جو زمان و مکان سے مشروط ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان بلا تکلف ادا کرتے ہیں۔ (فلمہ الحمد!) کیا اس کے باوجود اسلام کے اصول عالمگیر ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں پادری صاحب کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ اسلام کی عالمگیری دیکھنا چاہتے ہیں تو پروفیسر آرنلڈ (انگریز) کی کتاب ”پریچنگ آف اسلام“ یا اس کا رد و ترجمہ ”دعوتِ اسلام“ ملاحظہ کریں۔ جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ اسلام دنیا کے کوئے کوئے میں کس طرح پہنچ گیا۔ اسی طرح پادری صاحب نے اسلام کی روزہ پر بھی اعتراض کیا ہے۔ یہ اعتراض خصوصیت سے قابل غور ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

”علی ہذا القیاس روزہ کے فریضہ پر غور کرو۔ جس کے باعث حرمی سے لے کر غروب آنتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کر نالازم ہے، اول کھانا، پینا، اشیائے خوردنی وغیرہ سے پرہیز کرنا ایک جسمانی امر ہے۔ جس کا تعلق حقیقی روحانیت اور قربِ الٰہی سے نہیں ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا۔ نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں۔ اور اگر کھائیں تو نفع نہیں۔“ (اکر: ۸) علاوہ بریں اسلام کی روزہ ایسا ہے کہ کل نئی نوعِ انسان اس کی شرائط کی تھیل کرنے سے قادر رہتے ہیں۔“ ..... (توضیح البیان ص ۵۳)

مجبیب: یہاں بھی پادری صاحب کی مناظرانہ غلطی ہے کہ اپنے دعوے اور دلیل میں تقریب پیدا نہیں کرتے۔ تجھ بھے کہ آپ اسلام کی مخالفت میں ایسا ادھار کھائے بیٹھے ہیں، کہ اعتراض کرتے ہوئے نہ اپنی مسلمه الہامی کتاب (تورات) کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ انجیل کا۔ یہودیوں کو موسوی تعلیم کے ذریعہ روزہ رکھنے کا حکم ہوا تھا۔ جس میں کھانا پینا بند ہونے کی وجہ سے لازمی طور پر چڑھہ اداس ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ریا کاری کے طور پر چڑھہ کی ادائی میں مزید ترقی دے کر دکھایا کرتے تھے۔ ان کی اصلاح کے لئے مسیح نے فرمایا کہ: جب تم روزہ رکھو ریا کاروں کی مانند اپنا چڑھہ اداس نہ ہتاو۔ جب تو روزہ پر نکے اپنے سر پر چکنا لگا اور منہ دھوتا کہ تو آدمی پر نہیں بلکہ تیرے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو۔

(متی باب ۶: ۱۶-۱۷)

مسیح کے اس ارشاد سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

- (۱) سابقہ امام کو روزہ کا حکم ہوتا۔
  - (۲) یہودیوں کا روزہ میں ریا کاری کرنا۔
  - (۳) مسیح کا ان کو ریا کاری سے منع فرمانا۔
  - (۴) روزے کا حکم بھال رکھنا۔
- کیا پادری صاحب ہمیں اس روزہ کی حقیقت بتا سکتے ہیں جو مسیح نے بھال رکھا اس میں کھانے پینے کے متعلق کیا حکم تھا اور اس کا وقت کون سا تھا۔ بہر حال ہم ان سوالوں کے جوابات کے منتظر ہیں پادری صاحب کا یہ اعتراض بھی معقولیت سے بست دور ہے کہ۔

”کل بنی نوع انسان روزہ کی شرائط کی تعییل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔“

ہم مانتے ہیں کہ بے شک قاصر رہتے ہیں۔ مگر کیا بنی نوع انسان کفارہ کی تعلیم قول کرنے سے قاصر نہیں رہتے۔ اسے بھی چھوڑیے۔ کیا ترک حرام اور ترک لذب سے قاصر نہیں رہتے؟

کیا لوگ مروجہ قانون (تعزیرات ہند) کی تعییل کرنے سے قاصر نہیں رہتے؟ اس سے شریعت یا قانون میں کیا نقص لازم آتا ہے؟ ہاں اگر آپ یوں اعتراض کرتے ہیں کہ۔

”بنی نوع انسان روزہ نہیں رکھ سکتے۔“ تو ہم آپ کو جواب دیتے کہ کل اسلام دنیا میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہاں اگر مہاشد دھرم پال کے ”ترک اسلام“ کا یہ اعتراض آپ کے ذہن میں ہو کہ ”جہاں چھ چھ میںے کا دن رات ہے وہاں روزہ کی کیا صورت ہے؟“ تو ہم اس کا جواب وہی دیتے جو ترک اسلام میں دیا ہوا ہے کہ۔

وہاں روزہ رکھنا فرض ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وہاں سرے سے ماہ رمضان ہی نہیں ہوتا جو روزہ رکھنے کے لئے طرف زمان ہے۔ ملاحظہ ہو۔

**مَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمِّمْهُ** ---- (پ ۲: ۷۷)

**ترجمہ** جو کوئی رمضان شریف کامیاب پائے وہ روزہ رکھے۔

آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں کہ

اس کے بر عکس مسیحیت نے روزہ کے لئے خاص اوقات اور میئے مقرر نہیں کئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راستبازی اور میل ملاپ اور اسی خوشی

پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔”.....(روم ۱۲:۱۳ ص ۵۳)

**مجیب:** اول تو یہ مسیح کا ارشاد نہیں ہے۔ اس لئے اس کو مسیحیت میں داخل کرنا پادری صاحب اکیل کی سینہ زوری ہے۔ علاوہ اس کے اس عبارت کو روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس میں کھلنے پینے میں پر ہیز کرنے والوں کے حق میں ارشاد ہے کہ اپنے اخلاق بھی اچھے رکھیں۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔

یہودیوں اور مسیحیوں کے علاوہ مسلمانوں میں بھی ہیں جو پر ہیز گاری کی راہ سے پانی بھی چھان کر پیتے ہیں۔ مگر مزاج کے کڑوے اور بد اخلاق ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے یہ ارشاد بالکل بجائے۔ اس کو روزہ سے کوئی تعلق نہیں۔ روزے کا ثبوت متی کی عبارت مرقومہ سے صاف ثابت ہے۔

اگر اس عبارت کو اصطلاحی روزہ سے کچھ تعلق ہوتا تو الفاظ یوں ہوتے کہ خدا کی رضا جوئی جو صرف کھانا پینا چھوڑنے سے حاصل نہیں ہوتی۔

چنانچہ ایک حدیث نبوی کا مضمون بھی یہ ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں۔

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه و شرابه ..... (الحدیث)

**ترجمہ:** جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور برکام کرنا ترک نہ کرے خدا کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔

پس عبارت مذکورہ کو روزہ کے ساتھ وابستہ کرنا آپ کی زبردستی ہے۔ کیونکہ یہ صرف ایک عام اخلاقی تعلیم ہے۔

**پادری صاحب!**: اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے اپنی مقدس کتابوں کو بظیر غائرہ لکھ لیا کریں اور دل میں یقین رکھا کریں کہ غیر مسیحی لوگ بھی ان کتابوں کی تعلیم سے واقف ہیں۔

آگے چل کر پادری صاحب نے اسلام کے حکم متعلقہ قریانی پر بھی اعتراض کیا ہے۔ مگر اعتراض بھی ایسا مزیدار ہے کہ اس کا جواب دینے کوئی نہیں چاہتا آپ لکھتے ہیں کہ۔ ”جانوروں کی قریانی کا اصول در حقیقت مذہب کی عالمگیریت کے منافی ہے۔“.....(ص ۵۵)

پادری صاحب: تورات کی قریانیاں بھی آپ کو یاد ہیں؟ (ملاحظہ ہو کتاب اخبار باب ۱۰) اسلامی قریانی کیوں منافی ہے؟ کیا اس لئے منافی ہے کہ ہر جگہ قریانی کے لئے جانور نہیں ملتے؟ نہیں جانوروں کی کم یا بی کی وجہ سے منافی نہیں بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جو نمائیت معقول اور دل پذیر ہے۔ چنانچہ پادری صاحب خود ہی فرماتے ہیں کہ ”ہندوستان کو دیکھ لو ہر سال قریانی کی عید پر فساد ہوتا ہے۔ کیونکہ اہل اسلام کی قریانی سے اہل ہندو کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ اصول اور حکم ہر ملک پر حاوی نہیں ہو سکتا۔“۔۔۔۔۔ ص ۵۶)

جواب اول: پادری صاحب! آپ کو معلوم ہو گا کہ ہندو لوگ عام قریانی پر خنا نہیں ہوتے۔ بلکہ خاص گائے کی قریانی پر خنا ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسے موقع پر جہاں فساد کا خطہ ہو۔ بھیز بکری کی قریانی کر لیں۔ پھر تو قریانی کا حکم عالمگیر مذہب کے منافی نہ ہو گا۔؟

جواب دوم: کسی قوم کی بے جانا راضگی کی وجہ سے اگر کوئی مذہبی عمل غلط ہو سکتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ پنجاب کے دیہات میں جات خصوصاً سکھ لوگ جو مسلمانوں کی مسجدوں میں اذان ہونے اور عیسائی گرجاؤں میں گھٹنے بنتے پر خنا ہوتے ہیں پھر کیا ان کی ناراضگی سے یہ افعال بھی عالمگیریت کے منافی ہیں۔ عالمگیر مذہب کی جو تعریف آپ نے کی ہے۔ اس پر نظر ٹانی کر کے یہ فقرہ بھی بڑھاد بیجھے کہ۔ عالمگیر مذہب وہ ہوتا ہے۔ جس کی تعلیم سے کوئی قوم یا شخص رنجیدہ نہ ہو۔ پھر ہم پوچھیں گے کہ مسیحی لوگ جب اپنی کسی بستی میں گائے ذبح کرتے ہیں تو اس سے بھی ہندو قوم ناراض ہوتی ہے یا نہیں؟ پس سمجھ لیجھے کہ۔

ایں گناہیست کہ در شر شا نیز لکندہ علاوہ اس کے ذرا اور چلے؟ مسیح کی تعلیم سے یہودی ناراض ہوتے تھے یا نہیں؟ ضرور ہوتے تھے۔ بلکہ ایسے ناراض ہوئے کہ ہندو لوگ بھی مسلمانوں کی قریانی سے اتنے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ یہودی تو مسیح کے حق میں اپنی ناراضگی کا اظہار ایسے تکمین لفظوں میں کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ۔

اگر گویم سوزو زبان اس کے بعد پادری صاحب لکھتے ہیں۔

”ہم نے کتاب مسیحیت کی عالمگیری کے باب دوم میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ کلمۃ اللہ (ص) کے اصول جامع اور عالمگیر ہیں۔“----(ص ۵۶)

**جواب:** آپ کی اس مایہ ناز کتاب کا جواب اس کتاب کے باب دوم میں دیا جائے گا۔ انشاء اللہ! پادری صاحب اصول مناظرہ کے ماتحت اپنی پوزیشن کی پروا نیں کرتے۔ ہم اپنی حیثیت سے کیوں گریں۔ آپ اس امر کے مدعا ہیں کہ ”قرآن کے اصول عالمگیر نہیں ہیں۔“ ہم اتنے حصے کے جواب دہ ہیں۔ باقی رہا نجیل کا عالمگیر ہونا۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اس لئے اس کا جواب بھی الگ ہو گا۔ آپ تو اپنی حیثیت کو ملحوظ نہیں رکھتے، ہم آپ کے پیچھے کیوں چلیں۔

وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدیں  
سبک سربن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو  
اس کے بعد آپ لکھتے ہیں۔

”قرآن کے اصول اور اسلام کے احکام عالمگیر ہونے کی الہیت نہیں رکھتے وہ زمان و مکان کی قیود سے آزاد نہیں بلکہ قیود شریعہ کی زنجیروں اور دیگر پابندیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ جادہ اور ٹھوس ہیں جو ضرورت زمانہ اور حالت خاص کے مطابق نہیں ڈھالے جاسکتے ہیں۔ ضروریات زندگی تغیری پذیر ہوتی ہیں۔ پس وہ ہر ملک، قوم اور زمانہ کے لئے یکساں نہیں ہوتیں۔ لیکن اسلامی احکام ان تغیرات کے مطابق حسب ضرورت چسپاں نہیں کیے جاسکتے۔ کیونکہ شارع کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس کے احکام کا غیر عرب پر بھی اطلاق کیا جائے گا۔ تمام دنیا کے ممالک کے لوگ اور ہر زمانہ کے مختلف افراد ایک ہی لامبی سے ہائے نہیں جاسکتے۔ خود حضرت رسول علیہ کی عین حیات میں آپ کو موقعہ اور محل کے مطابق اور تغیریات کے باعث چند احکام بدلنے پڑے تھے۔ ناخ و منوخ کا مسلمہ مسئلہ اس امر پر شاہد ہے۔“----(ص ۵۷)

**مجیب:** اس کا جواب کتاب ہذا کے صفحہ پر آچکا ہے، جہاں نماز کا ذکر ہے۔ یہاں بھی ہم مختصر جواب دیتے ہیں کہ اسلام کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے۔ جو کل دنیا کی اقوام پر حاوی نہ ہو سکے۔

سب سے پہلا حکم توحید و رسالت کا عقیدہ ہے یعنی کلمہ طیبہ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» پر ایمان لانا، دوسرا حکم «نماز پڑھنا ہے، تمیرا حکم زکوٰۃ ادا کرنا ہے چوتھا حکم ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ پانچواں حکم عمر بھر میں ایک دفعہ حج کرنا ہے۔ یہ سب حکم ایسے عالمگیر ہیں کہ ان کی شادوت زمانہ کے واقعات دے رہے ہیں کہ آج مسلمان کروڑ ہاکی تعداد میں ہر بر اعظم اور ہر ملک میں آباد ہیں، جہاں ان احکام کی تعمیل برابر ہوتی ہے۔ آپ منزد تحقیق کرنا چاہیں تو دورستے کھلے ہیں۔

- ذینا کا سفر کر کے اسلامی ممالک دیکھ لیں۔

- ۲ ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھ لیں یا انگریز پروفیسر مسٹر آرنلڈ کی کتاب میں مصنف نے کل ذینا میں اشاعت اسلام اور اہل اسلام کے مذہبی اعمال کا ذکر کیا ہے۔ ان دو طریقوں میں سے جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں گے۔ اس کے بعد امید ہے کہ آپ اس اعتراض کو واپس لے لیں گے۔

اسی ضمن میں آپ نے لارڈ ہیڈلے (انگریز نو مسلم) کی ایک چیخی کا اقتباس نقل کیا ہے کہ انگریزوں کو سور اور شراب کے ترک کرنے اور نماز «نمازنہ پڑھنے کا حکم و نماں کی طبیعت کے خلاف ہے۔۔۔۔۔ (ص ۱۶)

**مجیب:** پادری صاحب! یہ احکام اسلام قبول کرنے سے مانع نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ لارڈ ہیڈلے کو بھی اسلام لانے سے مانع نہیں ہوئے۔ مگر مسیح کا ارشاد ذیل ہدایت قبول کرنے سے سخت مانع ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں۔

”مال اپنے واسطے زمین پر جمع نہ کرو۔ جہاں کیڑا اور مورچہ خراب کرتے ہیں اور جہاں چور سیندھ دیتے ہیں۔ بلکہ اپنا مال اپنے لئے آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا نہ مورچہ خراب کرتے ہیں اور نہ وہاں چور سیندھ دیتے نہ چراتے ہیں۔۔۔۔۔ (نجیل متی باب ۲۰: ۱۹)

**مجیب:** پادری صاحب! بتائیے کہ اس حکم پر یورپ اور امریکہ کے لکھ پتی ساہو کار بلکہ ہندوستانی گلیسا بھی عمل کر سکتی ہے اور دنیا بھر کے غیر مسیحی تجارت پیشہ لوگ، ساہو کار، سیٹھ اور امیر لوگ کماں تک اس حکم کی تعییل کر سکتے ہیں۔ خود مسیح کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش ہوا تھا جس کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

”تب یسوع نے (ایک متلاشی نجات) سے کہا۔ اگر تو کامل ہوا چاہتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تمہارے ہے یعنی ذال اور محتاجوں کو دے کر پچھے آسان پر خزانہ ملے گا تب آکے میرے پچھے ہو لے، وہ جوان یہ سن کر غمگین چلا گیا کیونکہ برا مالدار تھا۔“

”تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے حق کھاتا ہوں کہ دولت مند کا آسان کی بادشاہت<sup>①</sup> میں داخل ہونا مشکل ہے۔ بلکہ میں تم سے کھاتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ ایک دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔“.....  
انجیل متی باب ۲۱: ۱۹ (۲۳۷۲۱)

**مجیب:** پادری صاحب! یہی مالدار متلاشی نجات اگر دربار محمدی میں حاضر ہو کر عرض کرتا تو وہاں سے اس کو یہ حکم صادر ہوتا۔

”تو ایک سال گزرنے پر اپنے مال کا چالیسوائی حصہ راہ خدا میں دے دیا کر اور باقی اپنی ضروریات کے واسطے محفوظ رکھ لیا کر۔“

تو شخص مذکور اس حکم پر بڑی خوشی اور آسانی سے عمل کر کے نجات اخروی کا مستحق ہو جاتا اور پہلے کی طرح سارا مال فی سبیل اللہ خرج نہ کرنے کی صورت میں نجات سے محروم نہ رہتا اللہ اللہ، کیسی سخت ہدایت ہے کہ مالدار کا نجات پانی اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔

مسیحی دوستو! آؤ، ہم دونوں (مسیحی اور مسلم) ان دونوں تعلیمیوں (محمدی اور مسیحی) میں امتحان دیں۔ پھر دیکھیں کون پاس ہوتا ہے کون فیل سے

① اس سے مراد نجات ہے ..... (مجیب)

بس ہو رہے گا عشق و ہوس میں بھی امتیاز  
آیا ہے اب مزاج تیرا امتحان پر  
علاوه اس کے خزیر اگر حرام خور قوم کو قبولِ اسلام سے منع ہے تو یہ قبولِ مسیحیت  
سے بھی منع ہے۔ کیونکہ خزیر کے متعلق جو حکم قرآن میں ہے وہی حکم تورات میں بھی ہے۔  
اس کتاب کی تہمید میں ہم لکھے چکے ہیں کہ تورات ہی مسیحیت کے لئے شریعت کی کتاب ہے۔  
اس بارے میں تورات کی ہدایت یہ ہے۔

”سور کہ کھراں کا وہ حصہ ہوتا ہے اور اس کا پاؤں چڑا ہے پر وہ جگالی نہیں کرتا۔ وہ بھی نیپاک  
ہے تمہارے لئے، ثم ان کے گوشت میں سے کچھ نہ کھائیو اور ان کی لاشوں کو نہ چھوئیو کہ یہ  
نیپاک ہیں تمہارے لئے۔“۔۔۔۔۔ (اخبار باب ۱۰:۷، ۸)

**مرمت خزیر کے متعلق یہ عبارت بالکل صاف ہے۔** ① اس لئے ہم پادری  
**مجیب:** صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ جب تک وہ تورات کی ہدایت کو منسوخ  
کر کے نہیں بائبل نہ شائع کریں۔ اشاعتِ اسلام کے لئے خزیر کو بطور رکاوٹ پیش نہ کیا کریں  
 بلکہ مناسب ہے کہ ہم دونوں آپس میں مشورہ کر لیا کریں۔ کہ خزیر کے بد لے ان لوگوں کو کیا  
 چیز دی جائے۔ جسے لے کر وہ دین حق کی طرف رجوع کر سکیں ہم اپنی طرف سے گوشت  
 خوروں کے سامنے دنبے بکرے وغیرہ کا گوشت پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے متفق ہیں تو  
 ہم کہیں گے۔

شکر اللہ کہ میان من و تو صلح فاد  
 اگر آپ کے پاس کچھ اور ہے تو اپنی مذہبی تعلیم کے ماتحت اسے پیش کیجئے۔  
 اسی ضمن میں آپ نے ایک آزاد روشن مسلم کا کلام پیش کیا ہے جس کے  
 الفاظ یہ ہیں۔

① مرمت شراب کے لئے دیکھو امثال ۲۰:۱۲۱ و رپو لوس کا خط بام انیوں ۵:۱۸

”اگر اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے تو کیوں ہم عربی قومی خصائص کے لئے مثلاً ختنہ، عقیدۃ طواف کعبہ، سعی، صفا و مرودہ و انتشار نعم خزیر، احکام و راشت، نکاح طلاق و ازدواج بیوی و شراء بلکہ ایک خاص طریقہ عبادت کے لئے جو بالخصوص عربی زبان میں ہو مجبور کیے جاتے ہیں۔  
(مقولہ ”نگار“ مندرجہ کتاب زیرِ جواب ص ۲۳)

مجیب: پادری صاحب! آپ مثل مشهور ”ڈوبتے کو منکنے کا سارا“ کیوں صحیح ثابت کر رہے ہیں اگر آپ ایسے آزاد رو لوگوں کی رائے کا سارا تلاش کریں گے تو ہم بھی مشرب بریڈ لا (جن کے نام سے لاہور میں بریڈ لاہل بنا ہوا ہے) جیسے معزز رکن پارلیمنٹ انگلستان کی کتاب ”ناقصات باشبل“ پیش کر دیں گے، پھر شکایت نہ ہو۔

نئے اس عبارت میں آپ نے ختنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا حکم بھی تورات میں موجود ہے۔ عقیدہ بھی تورات کی بے حساب قربانیوں میں داخل ہے۔ طواف کعبہ بھی اشاعت اسلام سے مانع نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سانسیں ہے کہ جس طرح عرب لوگ اعمالِ حجدا کرتے ہیں، اس طرح ہندوستان، جاوا سماڑا اور چین، روس وغیرہ ممالک کے لوگ بھی مناسکِ حج بجالاتے ہیں۔ معلوم نہیں آپ واقعات سے چشم پوشی کیوں کرتے ہیں کیا کسی دور دراز ملک کے لوگوں نے آپکے پاس شکایت کی ہے کہ ہم اسلئے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے کہ اسکے احکام کی تعمیل ہم سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خدا کے فضل سے ہر ملک کے لوگ احکامِ اسلام یہ کی تعمیل کر رہے ہیں تو آپ قاضی صاحب کی طرح شرکے اندیشہ سے کیوں دلبے ہوئے جارہے ہیں۔ باقی رہایہ سوال کہ عبادت کے وقت عربی الفاظ کے استعمال پر کیوں مجبور کیے جاتے ہیں۔ آپ ہماری طرف سے ایڈیٹر ”نگار“ کو اطلاع دے دیں کہ ان کو عربی الفاظ میں نماز پڑھنی اگر مشکل ہوتی ہے تو حسب فتویٰ امام ابوحنیفہ صاحبؓ اپنی پادری زبان میں پڑھ لیا کریں پس یہ وجہ بھی قبول اسلام سے مانع نہیں ہو سکتی اگر ان کو پڑھنی ہی نہیں تو تنازع جمیں نہ تراشا کریں۔

ہاں آپ نے ایک عجیب فقرہ لکھا ہے۔ جس کی تصدیق ذمیا میں شاید کوئی ایک شخص

بھی نہ کرے گا۔ گویہ فقرہ بھی کسی آزاد خیال مسلم کی رائے ہے۔ مگر آپ نے اسے اپنی تائید سمجھ کر نقل کیا ہے اس لئے اسے بھی ہم آپ ہی کی طرف منسوب سمجھتے ہیں۔ فقرہ مذکور یہ ہے۔

میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اسلام میں تغیر کا خیال ہی ندارد ہے۔ اس لئے ترقی کا جو ہر بھی مفقود ہے۔

**محبیب:**

اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ جس کی تفصیل یوں ہے کہ مسیحی تاریخ کی ابتداء سے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بعثت تک چھ صد یوں کے واقعات سامنے رکھ لیں۔ اسی طرح بعثت نعمتیہ سے چھ سو سال تک کے واقعات کو لمحظ رکھیں۔ پھر علم تاریخ کی شادوت سے ان دونوں زمانوں کا موازنہ کرنا چاہیں تو ہم آپ کی دعوت پر آپ کے گرجے میں آکر مقابلہ کر کے دکھانے کو تیار ہیں۔ بے شک آپ سارے یورپ کی مسیحی تاریخ کو سامنے رکھیں اور ہم مختلف ممالک میں اشاعت اسلام کی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور اپنی تقریر کو اس شعر سے شروع کریں گے۔

ادھر آپیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں  
اگر آپ اس مقابلہ کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں یا آپ کے احباب اس سے مانع ہوں تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ انگریز پروفیسر آرنلڈ کی کتاب ”پریپنگ آف اسلام“ (دعوت اسلام) کا مطالعہ کر کے صحیح رائے قائم کریں۔

قارئین! خدا کی شان ہے کہ اسلام جو اپنے اندر ہر قسم کے پر حکمت احکام رکھتا ہے۔ (اعتقادیہ ہوں یا عبادیہ، اخلاقیہ ہوں یا سیاسہ) اس پر اعتراض کرنے کو وہ صاحب پیش ہیں۔ جن کے مذهب کی اصل تعلیم میں ترقی کرنے کا نمونہ یہ ہے۔

”ظالم کا مقابلہ نہ کر بلکہ جو تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اگر کوئی چاہے کہ تمہر پناش کر کے تیری قبائلے کرتے کو بھی اسے لینے دے اور جو کوئی تمہے ایک کوس بے کار لے جاوے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔“---- (متی باب ۵: ۳۹-۴۰)

**محبیب:** کیا ہی دول خوش کن تعلیم ہے جو سوائے کتابی زینت کے عمل میں آہی نہ سکے۔

مثال: پچھلے دنوں گاندھی جی نے اپنے عقیدہ کے ماتحت جنگ یورپ سے متاثر ہو کر وزیر اعظم برطانیہ کو لکھا تھا کہ

”ہظر اگر انگلستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اپنا ملک بلا مقابلہ اس کے حوالے کرو۔“

حکومت انگلستان کی طرف سے اس کا جواب جو آیا اس کا مضمون اس شعر میں ہے

نہ کریں میرے لئے حضرت ناصح تکلیف خود طبیعت دل بے تاب کو سمجھا لے گی  
یہ ہے مسیحی مذہب کی ترقی کا ذریعہ جو درحقیقت تنزل بلکہ موت کے برابر ہے مسیحی  
قوم کا بنیادی پتھر قسطنطینیہ کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اس بادشاہ کے  
جانشینوں نے بھی عربوں اور ترکوں کے حملوں کے وقت اس ستری اصول پر عمل نہیں کیا بلکہ  
بڑے زور سے حملہ آوروں کا مقابلہ کر کے آخری دم تک جان توڑ مزاحمت کرتے رہے۔  
حالانکہ یہ لوگ مذہب کے لحاظ سے بڑے پکے عیسائی تھے۔ اس کے علاوہ صلیبی جنگوں میں  
مسیحیوں نے جو کچھ کیا وہ کسی تاریخ دن سے مخفی نہیں ہے نہ صرف یہ کہ ظالم کا مقابلہ نہ کیا  
بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ آور ہونے کو یورپ کی کل مسیحی سلطنتیں متفق ہو گئیں،  
وہ شریف انسان رچڈ شیر دل ان سب کو لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ جس میں سب  
پادری شریک ہوئے یہ لوگ سوتے اٹھ کر صبح کو اپنے خواب سناتے کہ۔

”آج رات مقدسہ مریم نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ میرے بچوں کو کہہ دو کہ اس جنگ میں  
خوب ڈٹ کر بلو۔“

جب پادری لوگ اس تدبیر سے بھی کامیاب نہ ہوئے تو یہ بات بنائی کہ چونکہ فوج  
کے سب سپاہی گنگاہر ہیں اس لئے فتح نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہئے کہ معصوم (بے گناہ) بچوں کی  
فوج تیار کریں۔ چنانچہ انہوں نے نابلغ بچوں کی ایک فوج بنائی۔ جس کا افسر بھی ایک گذرے کا  
لڑکا مقرر ہوا۔ جس کی عمر قبیلہ گیارہ سال تھی۔ نابلغوں کی اس فوج نے گاڑیوں میں بیٹھ کر  
برو ٹھلم کا رخ کیا۔ راستے میں جب کوئی بستی آتی تو پیچے پوچھتے کہ برو ٹھلم یہی ہے۔ اس سفر میں  
ہر مقام کے مسیحی لوگ ان کی خوب خاطر واضح کرتے اور پادری لوگ ان کو دعائیں دیتے۔ مگر  
نتیجہ یہ ہوا کہ باد مخالف چلنے کی وجہ سے ان مجاهدین کے کچھ جہاز تو سمندر ہی میں غرق ہو گئے

اور جو باقی بچے وہ کسی اور ساحل پر جائے گے۔۔۔۔۔ (ہائی روڈ آف ہسٹری)  
پادری صاحب!: گئی یا ترک کی گئی

علاوه اس کے موجودہ جنگ یورپ ۱۳۰۴ء میں مسیحی قومیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ  
 مسیح کی تعلیم عدم تشدد کے مطابق ہے یا اس کے خلاف؟۔۔۔۔۔

نہ چھیراے نگہت باد بھاری را لگ اپنی تجھے اٹھکیلیاں سو جھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں  
ایک اور حوالہ: پادری صاحب لکھتے ہیں کہ

”مولانا عبدالماجد صاحب بھی“ اسے مرحوم مولانا محمد علی کے اخبار ”ہمدرد“ دہلی میں بعنوان  
 ”ہماری بے بک“ یہ سوال پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں ”ہم کو جونہی آزادی ہندوستان میں  
 حاصل ہے اسکا اندازہ روزمرہ کی چند مثالوں سے فرمائیے۔ ہم میں سے ایک شخص حرامکاری کا  
 مرکب ہوتا ہے۔ اسکے بعد وہ اپنے تین حصے حد شری کیلئے پیش کرتا ہے۔ کیا قانون وقت ہم کو  
 اسکی اجازت دے گا کہ ہم اسے نگار کریں؟ ایک مسلمان چوری کرتا ہے دوسرے مسلمان  
 اسکا ہاتھ کاٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا اس اسلامی سزادی کے بعد وہ مسلمان خود سرکاری مجرم  
 نہ قرار پائیں گے؟ شراب کی آزادانہ تجارت اور آبکاری واپسیوں کے مکملوں کو مسلمانان ہند  
 اگر تو زنا چاہیں تو از روزے قانون تو ٹکتے ہیں؟۔۔۔۔۔ (۱۹ فروری ۱۹۲۵ء ص ۶۷)

مجیب: اس اقتباس کا مطلب بجائے خود صحیح ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام کے  
 احکام دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ احکام ہیں جو (مسلم افراد) کے لئے ہر حال میں  
 واجب العمل ہیں۔ جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ یہ تو کسی حالت میں بھی نہ مرفوع ہیں اور نہ مشکل،  
 اسلامی احکام کا دوسرا حصہ سیاست اور حکومت پر مبنی ہے۔ یعنی اس قوم سے متعلق ہے جو  
 بر سر حکومت ہو۔ اسی حصے میں قوانین فوجداری اور تعزیرات وغیرہ شامل ہیں۔ پیغمبر اسلام علیہ  
 السلام کی زندگی دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ کمی ہے، دوسرا ملٹی۔ آپ کی کمی زندگی میں  
 سیاسی امور داخل نہ تھے۔ بلکہ مدنی زندگی میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اسلام مکہ  
 شریف میں بھی مکمل تھا اور مدینہ منورہ میں بھی مکمل تھا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی زندگی جو  
 خدا کی تقدیر سے دو حصوں میں منقسم ہوئی اس میں یہی راز مخفی ہے کہ جو مسلم قوم اپنی غفلت

یا بد قسمی سے بر سر حکومت نہ ہونے کے باعث تعزیرات جاری نہ کر سکے۔ عند اللہ وہ بھی با ایمان مسلم متصور ہو۔ جیسے وہ غریب مسلمان جس کے پاس مال نہیں ہے۔ خیرات اور حج اداہ کرنے کے باوجود بھی مسلمان ہے۔

پادری صاحب!: آپ ایم۔ اے ہو کہ اسلامی تاریخ سے اتنے ناواقف کیوں ہیں؟ کیا آپ نے اسلامی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ اسلام ہندوستان میں تو بے شک فاتحانہ انداز میں آیا۔ مگر چین دوسرے ممالک میں تاجرانہ اور سیاحانہ حیثیت سے داخل ہوا۔ ابتداء سے آج تک وہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ مگر مسلمان کروڑوں کی تعداد میں وہاں پائے جاتے ہیں۔ پس یہ تاریخی واقعات ہماری تائید کرتے ہیں۔ اسلام حکومت کی حالت میں بھی دینِ الہی ہے۔ اور رعایا ہونے کی صورت میں بھی دینِ الہی ہے۔ جس طرح امیری کی حالت میں بھی اسلام دینِ الہی ہے۔ اسی طرح غربی کی حالت میں بھی دینِ الہی ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ بر سر حکومت ہو کر مسلم قوم اسی طرح ایک معزز قوم شمار ہوتی ہے۔ جس طرح آج کل ہندوستان میں انگریز ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماتحت اقوام مسلمان نہیں۔ دیکھئے ہندوستان میں مختلف قومیں جیسے پنجاب، ترک اور مغل وغیرہ آئے لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ حاکم قوم نے اپنے ماتحت ہندوستانی مسلمان قوموں کو مسلمان ہی نہ سمجھا ہو۔ پس اقتباس مذکورہ سے آپ کا یہ نتیجہ نکالنا (کسی طرح صحیح نہیں جو آپ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں نکالا ہے)۔

”کیا اس قسم کا اضطرار اور بے چینی یہ ثابت نہیں کرتی کہ اسلامی قوانین عالمگیر نہیں ہیں آج کوئی مذہب سلطنت زناکاری کی سزا نگاری اور چوری کی سزا قاطع سارق تجویز کرے گی۔ یہ قوانین رسول علی کے زمانہ کے اہل عرب کے لئے نہایت موزوں تھے۔ لیکن چونکہ وہ ابتدائی قرون اسلام کے لئے موزوں ہوئے تھے۔ چودہ سو سال کے بعد دور حاضرہ کے حالات پر ان کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔“۔۔۔۔۔ ص ۲۷

محبیب: عالمگیریت کا جواب تو ہو چکا۔ یہ نتیجہ نکلتے ہوئے غالباً آپ کو حکومت حجاز کا علم نہیں ہو گا، جو آج ساری ڈنیا میں اصل اسلامی حکومت کا نمونہ ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ حج کے دنوں میں کسی مسیحی کو حجاز میں بھیجنیں اور ساتھ ہی اس کو کہہ دیں کہ وہ

وہاں جا کر چوری کرے۔ پھر اگر وہ اپنے ہاتھ سالم لے کر آجائے تو مجھے اطلاع دیں۔ میں بھی اس کی زیارت کو آؤں گا۔ آپ نے ازراہ توہین اس زمانہ میں اسلام کے ان قوانین کا اطلاق نہ ہو سکنے کا چھنتا ہوا اعتراض کیا ہے۔

پادری صاحب! واقعات صحیح اصل را ہمنا ہوتے ہیں۔ جن کی راہنمائی میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ ہندوستان میں جرام کی روپورث ملاحظہ کریں آپ اپنی آسانی کے لئے اخبار ”پرکاش“ ۲۲ نومبر ۱۹۰۴ء دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ پرچہ آپ کونہ ملے تو اپنی پڑوی جماعت احمدیہ کا آرگن اخبار ”پیغام صلح“ مورخ ۱۲ نومبر ۱۹۰۴ء ص ۳ دیکھ لجھنے کہ ملک میں ہر سال گذشتہ سال کی نسبت جرام زیادہ ہوتے ہیں۔ برخلاف اس کے عرب میں جا کر دیکھنے جمال اسلامی حکومت قائم ہے وہاں آپ چوری، رہنی، زنا کاری وغیرہ اخلاقی جرام شاذ و نادر پائیں گے۔ یہ نظارہ دیکھ کر اسلام کے حق میں آپ کے منہ سے بے سانتہ یہ شعر نکلے گا۔

اسلام!

کیا جانے تجھ میں کیا ہے۔ کہ لوٹے ہے تجھ پر جی  
یوں اور کیا جمال میں کوئی حسین نہیں  
ہاں جناب! ہم تو اتنے حصے سے فارغ ہو گئے اور اب ہماری بھی سن لجھنے اور اپنے دوستوں کو بھی سنائیے۔

میخ نے فرمایا ہے کہ میں تکوار ① چلانے آیا ہوں۔۔۔ (گذشتہ صفحات میں درج ہے) کیا ہندوستان کے میخ لوگ بھی اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو شوق سے کریں اگر نہیں کر سکتے تو میخی مذہب عالمگیر کیسے ہوا۔۔۔

ہاتھ لا اُستاد کیوں کیسی کسی  
صفحہ ۶۸ سے صفحہ ۷۸ تک پادری صاحب نے چند مسلم اہل قلم کی مختلف تنبیہیں: آراء میں نقل کی ہیں جو ان دونوں کی ہیں۔۔۔۔۔ جن دونوں قانون خلخ اور عدم

فتح نگاہ مرتدہ کا بدل مرکزی اسمبلی میں پیش تھا۔ اس زمانہ میں بعض اہل علم کی رائے تھی کہ حکومت سے قانون بنوانے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی چاہئے۔ اس رائے کے اصحاب نے اپنی رائے کو قوت دینے کے لئے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ حکومت سے قانون بنوانا گویا شریعت کو ناقص مانتا ہے۔ بس پھر کیا تھا۔ ”اوْنَجْهَتِهِ كُو خَلَّيْتَ كَابَانَه“ پادری صاحب، بت خوش ہو گئے کہ ہمارے ہاتھ براز بر دست، تھیار آگیا۔ کیونکہ بعض مسلمان عالموں نے تسلیم کر لیا کہ اسلام ایک غیر مکمل مذہب ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تینکے کا سمارا۔

پادری صاحب! احکام شریعت دو قسم کے ہیں، یہ تقسیم اسلام سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک مذہب میں پائی جاتی ہے۔ منوجی کا دھرم شاستر ہو یا شریعت موسوی، دونوں میں یہ تقسیم برابر پائی جاتی ہے۔ بعض احکام شخصی ہوتے ہیں جن کے ذمہ دار افراد ہوتے ہیں، بعض جماعتی جن کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے آپ نے ان اہل علم کی رائے ملاش کرنے میں تاحقیق زحمت اٹھائی ہے۔ میں آپ کو آسان راستہ بتائے دیتا ہوں۔ آئندہ اعتراض کرنا ہو تو اس طرح کیا کرو کہ۔

اسلام کے احکام چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو سزا دو وغیرہ اس قسم کے احکام چونکہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے عام مسلمان ان جرائم کی سزا نہیں دے سکتے پس اسلام ایک نامکمل مذہب ہے، کیونکہ ہر ملک میں اس کے احکام کی تعمیل نہیں ہوتی۔

پادری صاحب! دیکھنا

تن تو اوچھی پڑی تھی گر پڑے ہم آپ ہی

دل کو قاتل کے بڑھانا کوئی ہم سے سیکھ جائے

شریعت کا کامل یا غیر کامل ہونا تو اس امر پر موقوف ہے کہ اس کے احکام قابل عمل ہیں یا نہیں۔ رہایہ کہ ان کے عمل درآمد میں کوئی امر مانع ہو تو یہ بات اس میں داخل انداز نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کسی گاؤں میں وبا پڑ جائے اور وہ لوگ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو روزوں کی فرضیت پر کوئی اعتراض نہ ہو گا، یعنی حال پادری صاحب کا ہے۔ مسیحی مذہب پر جو اعتراضات ہیں ان پر آپ غور کرتے ان کی تفصیل ہم رسالہ ہذا کے

دوسرے باب میں کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ!

پادری صاحب نے رسالہ زیر جواب کے صفحہ ۷۵ سے صفحہ ۸۱ تک اہل قرآن اور  
اہم حدیث کے مناظرات کا ذکر کیا ہے۔ جس میں خاکسار ابوالوفاء اور مولوی احمد الدین امرت  
سری کے تحریری مکالے کا بھی ذکر ہے اور آپ نے از خود حکم بن کر یہ فیصلہ بھی دیا ہے کہ  
اہم حدیث حق بجانب ہیں (شکریہ!) نتیجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنوعی حکم کافیصلہ کسی ذاتی  
غرض پر مبنی ہے وہ غرض یہ ہے کہ قرآن کو غیر مکمل کتاب ثابت کیا جائے چنانچہ اس بحث کے  
اخیر میں آپ نے یہی نتیجہ نکالتے ہوئے لکھا ہے کہ ۔۔

”قرآن اک غیر مکمل کتاب ہے۔“ (صفحہ ۹۰)

اس لئے میں اس مناظرے کی روئیاد سے اپنے پسلے پرچے کا ایک اقتباس  
پیش کرتا ہوں۔

قرآن اور حدیث کے تعلق کا ذکر کرنے کے بعد میں نے یہ فقرے بھی لکھے تھے کہ  
”اس کی مثال آج کل کی اصطلاح میں یوں ملتی ہے کہ قانون سازی یہ سلیٹو کونسل کا کام ہے  
ہائی کورٹ کا کام قانون سازی نہیں مگر جس قانونی دفعہ پر ہائی کورٹ کسی صورت میں فیصلہ کر  
دے تو تمام صوبہ کے لئے وہ فیصلہ مثل قانون کے نافذ ہوتا ہے۔ اور اگر پریوی کونسل کے نج  
کسی جانب رائے قائم کر دیں تو (ان کافیصلہ) سارے ممالک محروسہ کے لئے جنت ہو جاتا  
ہے۔ حالانکہ وہ فیصلہ قانون نہیں بلکہ قانون کی تشریع اور حسب قانون فیصلہ ہے، ٹھیک اسی  
طرح پیغمبر خدا کی حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ نسبت خاص حاصل ہے۔ اس لئے حدیث  
نبوی کے احکام کو خدا تعالیٰ نے احکام ایسے میں شمار کیا ہے۔“

چنانچہ ارشاد ہے۔

آلُّمْ تَرَ إِلَيَّ الَّذِينَ قَبْلَ لَهُمْ كَفَرُوا أَنِيدِيْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

(پ:۵ ع:۸)

**ترجمہ** ”اے نبی! آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کہا گیا کہ جنگ سے

ہاتھ بند رکھو اور نماز پڑھتے رہو۔“۔۔۔۔۔ (برہان القرآن صفحہ ۸)

**پادری صاحب!** قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق کی تصویر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اہل قرآن کو بھی اس سے انکار نہ ہونا چاہئے کیونکہ وہ بھی بعض قرآنی احکام کو باوجود عموم لفظی کے احادیث سے خاص کر لیتے ہیں، مثلاً نماز جمعہ کا حکم، جس کی بابت آیت کریمہ "إِذَا نُؤْذَنَى لِلصَّلَاةِ" میں لفظ عام ہے۔ یہ لوگ سخت گرمی کے موسم میں عام مسلمانوں کی طرح دوپر کے وقت ہی نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ "ففکرو یا اولی الالباب"

**تبیہہ ضروری:** پادری صاحب عمر کے لحاظ سے ابھی بڑھاپے کو نہیں پہنچے۔ مگر میں آپ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ پس وہ غور سے سین، قرآن مجید، (بالفرض) اگر جملہ ضروری احکام نہیں ہیں اور ایسے احکام ہم حدیثوں سے اخذ کریں تو بھی قرآن کے عالمگیر ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالمگیر مذہب کی تعریف میں آپ نے لکھا ہے کہ

"عالمگیر مذہب کی لازمی شرط ہے کہ اس کے اصول ذیانیا کے کل ممالک اور اقوام پر حاوی ہو سکیں اور اس کا پیغام یہ الہیت رکھتا ہو کہ زمان و مکان کی قوتو سے آزاد ہو اور کسی خاص قوم یا زبان یا ملک سے متعلق نہ ہو۔"..... توضیح ابیان صفحہ (۱۵)

اس کی تعریف کی روشنی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر فقط ایک دو حکم ہوتے مثلاً نماز اور زکوٰۃ تو بھی قرآن عالمگیر ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اس حالت میں بھی سب قویں اس پر عمل کر سکتی ہیں۔

آپ اپنے مذکورہ الفاظ کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کسی مذہب کی عالمگیریت اور چیز ہے احکام کی تفصیل اور چیز ہے آپ عالمگیریت اور تفصیل کو لازم ملزم قرار دینے میں غلطی پر ہیں۔ پس آئندہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔ اس کے برخلاف لکھتے ہوئے یہ بات دل میں رکھا کریں کہ مسلم متکلمین بال کی کھال اتنا نے والے ہیں۔

سنبل کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنوں

کہ اس نواح میں سودا بہنہ پا بھی ہے

قارئین کرام! پادری صاحب کی بے چارگی ملاحظہ کیجئے کہ قرآن مجید کی عالمگیریت پر بحث کرتے ہوئے ان لوگوں کے نام پیش کرتے ہیں جو جمہور اسلام میں اسی نظر سے دیکھے

جاتے ہیں۔ جس نظر سے عیسائیوں میں یورپ کے اہل بدعت اور مخدیں کو دیکھا جاتا تھا۔  
جان تک نفس قرآن کی تعلیم کے مضمون کا تعلق ہے۔ وہ تو ختم ہو گیا۔ باقی رہا آپ کا  
خطاب قادیانیوں اور لاہوریوں سے، سواس کے جواب وہ وہی لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ کے  
مندرجہ ذیل الفاظ۔

”جب سے مولوی محمد علی صاحب ایم‘ اے نے قادیانی کی تاریک چار دیواری سے جہاں علم و  
عقل کا دم گھنتا ہے، نکل کر لاہور کی علمی فضائیں سانس لینا شروع کیا ہے۔ آپ نے اپنے پیر  
حضرت اقدس سعیّد مسعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کرشن ٹانی کی بعض باتوں  
اور فاسد عقیدوں سے عملًا توبہ کرنی ہے۔“۔۔۔۔۔ صفحہ ۲۸

اتباع مرزا کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ آپ کی پارٹی کے  
رکن رکین پادری عبدالحق صاحب ہمیں کہا کرتے ہیں کہ  
آپ (ثنا اللہ) ہمارے اور اتباع مرزا کے معاملات میں دخل نہ دیا کریں کیونکہ ہم دونوں  
مسیحی ہیں، فرق اتنا ہے کہ ہم سعیّد ناصری کے پیرو ہیں اور وہ سعیّد قادیانی کے۔  
اس لئے ہم ان کے مشورے کے مطابق آپ کے اور احمدیوں کے معاملہ میں دخل  
نہیں دیتے بلکہ خاموش رہتے ہیں۔ بقول شاعر  
”محترب رادر و ن خانہ چہ کار“



## باب دوم

### میسیحیت کی عالمگیری پر ایک نظر

نے ہوں گے چمن میں سینکڑوں نالے ہزاروں کے  
کلیجہ تھام لواب ول جلے فریاد کرتے ہیں!  
پادری برکت اللہ صاحب نے اپنی دوسری کتاب میں مسیحی مذہب کی عالمگیری پر  
بحث کی ہے۔ ایسا ہونا بھی چاہئے تھا۔ کیونکہ عرب کامقولہ

”تعرف الاشیاء باضد ادھا“

بہت مشور ہے، یعنی چیزیں مقابلہ میں پر کھی جاتی ہیں۔

مگر اس کتاب میں آپ نے پھر وہی اصولی غلطی کی ہے، جو آپ جیسے مصنفوں سے  
بعید نہیں ہے، اصول معقول یہ ہے۔

ثبت العرش ثم النقش

پسلے تحت بناؤ پھر اس پر نقش کرو  
علم مناظرہ کا اصول بھی یہی ہے کہ دعویٰ اگر قابل تشریع ہو تو پسلے اس کی تشریع کی  
جائے پھر اگر دلیل کی حاجت ہو تو دلیل بھی پیش کی جائے، یہی طریق آج کل عدالتوں میں بھی  
مروج ہے۔ مگر پادری صاحب کا عمل اس اصول پر ہے۔

نہ پیروی قیس نہ فریاد کریں گے  
ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے

پادری صاحب کو چاہئے تھا کہ اس کتاب میں پسلے مسیحی مذہب کی تصویر دکھاتے یعنی  
آپ بتاتے کہ مسیحی مذہب کے فلاں فلاں عقائد اور احکام ہیں جو ساری دنیا کے لئے قبل  
قبول اور قابل عمل ہو سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے شاید آپ کو یہ نقصان ہوتا کہ مضمون چند

صفحت میں ختم ہو جاتا جو بحاظ ضمانت کے کتاب کی بجائے کتب (ٹریکٹ) میں موسم ہوتا جو آپ جیسے بڑے پادری کی شان کے لحاظ سے بہت کم درجے کا سمجھا جاتا، خیر پادری صاحب نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہو گا۔ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے

مختسب رادرون خانہ چہ کار

آپ نے عالمگیر مذہب کی تعریف کے متعلق مختلف عنوانات کے ماتحت جو کچھ لکھا ہے اسے ہم کیجاگالکھ دیتے ہیں۔ پادری صاحب فرماتے ہیں۔

۱۔ عالمگیر مذہب کی پہلی شرط یہ ہے کہ اُسکے اصول ارفع اور اعلیٰ ترین ہوں۔ اُن اصولوں میں یہ صفت ہو کہ دنیا کے سب لوگوں کی ضمیریں اُن کو مان سکیں۔ (صفحہ ۹)

۲۔ لازمی امر ہے کہ عالمگیر مذہب خدا کی نسبت ایسی تعلیم دے جس کے سامنے ہر زمانہ اور قوم کی گرد نیس جھک جائیں۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۰)

۳۔ کوئی مذہب عالمگیر کمالانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جس کے اصول عالمگیر نہ ہوں۔ جس مذہب کے اصولوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ہر بلکہ، قوم اور زمانہ اور نسل کے لوگوں پر حاوی ہو سکے۔ وہ مذہب صرف ایک ملک یا قوم یا زمانہ یا پشت کے لئے ہی مفید ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۶)

۴۔ لازم ہے کہ عالمگیر مذہب کے اصول نہ صرف زمانہ ماضی کے لئے کسی خاص قوم یا ملک یا پشت یا زمانہ کے صحیح رہبرہ پچکے ہوں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ان اصولوں کا اطلاق دور حاضرہ کے تمام ممالک و اقوام پر ہو سکے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۷)

۵۔ چونکہ عالمگیر مذہب کا تعلق کل اقوام عالم کے ساتھ ہے اور زمانہ ماضی دور حاضرہ اور زمانہ مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ بھی واجب ہے کہ اس کے اصول اعلیٰ ترین اور بلند ترین پایہ کے ہوں۔ لذا یہ ضروری ہے کہ عالمگیر مذہب کے اصول مذاہب عالم کے اعلیٰ اصول کے جامع ہوں۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۸)

۶۔ عالمگیر مذہب کے لئے نہ صرف یہ ضروری ہے کہ اس کے اصول اعلیٰ، ارفع، جامع اور کامل ہوں۔ بلکہ یہ اشد ضروری ہے کہ اس میں یہ کامل نمونہ بھی ہو۔ جس کی شخصیت میں وہ اعلیٰ اور افضل اصول پائے جائیں۔ والدین اور استاد اس حقیقت سے بخوبی

واقف ہیں کہ اصول کی تلقین سے نمونہ دکھانا بہتر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۲۳)

مجبیت نے "مسیحیت" کے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جوانشی کے الفاظ میں درج ہے۔ پادری صاحب اصل مطلب کی بات یوں لکھتے ہیں کہ "مسیحی مذہب اکیلا واحد مذہب ہے جو ان تمام شرائط کو جن کا ذکر اس باب میں کیا گیا ہے۔ بدرجہ احسن پورا کرتا ہے۔

"کلتہ اللہ (میسیح) کی تعلیم تمام اعلیٰ ترین اور بلند ترین اصول پر مشتمل ہے۔ مسیحیت خدا اور انسان کی نسبت وہ تعلیم دیتی ہے۔ جس سے دیگر مذاہب کیسر خالی ہیں۔ کلتہ اللہ نے خدا کی ذات کی نسبت جو تعلیم دی ہے وہ بے نظیر لا ہانی اور ابدی ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۶۷)

قارئین!: زیر خط الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ بس یہی ایک مرکزی بحث ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی مسئلہ کی تحقیق کرتے ہیں کہ مسیحیت نے خدا کی نسبت کیا تصور پیش کیا ہے اور جو کیا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ کوئی عقل سليم اسے قبول کر سکے۔ اسی جگہ ہم پادری صاحب کا ایک مختصر ساقرہ نقل کر کے اس کو علم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ پادری صاحب نے نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں خدا اور مسیح کا تصور یوں دکھایا ہے کہ عیسائی لوگ خداوند مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا پر اس لئے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مسیح کی مانند ہے۔۔۔۔۔ (مسیحیت کی عالمگیری ۱۲۳)

اگرچہ یہی ایک فقرہ مسیحی مذہب کے خدو خال کی شاشت کے لئے کافی ہے۔ مگر تاریخ مسیحیت کی روشنی میں اس فقرہ کی تفصیل پر نظرڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے قارئین مختصر ہی تمہید سن لیں۔ تیسرا صدی عیسوی میں عیسائیوں میں مسیح کی شخصیت کی نسبت اختلاف شدید پیدا ہو گیا۔ اس زمانہ میں بادشاہ قطب خلیفہ اعظم عیسائی ہو چکا تھا۔ اس لئے اس نے مسیح امت کی ہمدردی کے پیش نظر اس معاملہ میں دخل دے کر پادریوں کی ایک کونسل سے اس کا فیصلہ کرادیا۔ جس کی تفصیل مندرجہ ذیل عبارت میں ملتی ہے تو تاریخ مسیحی کلیسا مصنفہ پادری ڈبلیو ڈبلیو، پی ہیرس بی، اے میں لکھا ہے۔

"شہنشاہ کو نشانہ نہیں ارادہ سے کہ کلیسا میں زیادہ جگہے نہ پڑیں، ہپانیہ کے شر

کو روڈا کے بیچ پر ہو سس کو جو کہ مذہبی معاملات میں شمنشاہ کا صلاح کار تھا، اسکندر ریہ کو بھیجا اور اگزینڈر اور ایرس کے نام خطوط ارسال کئے جن میں تحریر فرمایا کہ یہ جگہا صرف لفظی تکرار ہے۔ خدا کے بھید انسانی سمجھ و ادراک سے بالا ہیں۔ اس پر تو سکندر ریہ میں اور بھی آگ لگ گئی۔ زیادہ فساد پہنچنے لگا۔ سو ہو سس واپس شمنشاہ کے پاس آیا اور شمنشاہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ چونکہ اس اہم معاملہ کا فیصلہ ضروری تھا اور بعض اور بھی مشکلات تھیں۔ لہذا شمنشاہ نے کلیسا کے تمام بشریوں کی ایک کونسل بھینیا کے شرناپیہ میں ۳۲۵ء کے درمیان منعقد کی اگرچہ اس سے پیشتر بھی کتنی کو نسلیں ہوئیں۔ مگر وہ اپنے اپنے علاقہ کی ضروریات کے مطابق تھیں۔ لیکن یہ کونسل کو نسل عیسیٰ ہوتی۔ جس کا مدعاہی تھا کہ تمام کلیساوں کے وکیل جمع ہو کر اپنے إیمان اور حقیقی برادری کو ظاہر کریں۔ اس کونسل میں قریباً ۱۵۰۰ افراد۔ ملیگیٹ اور ۳۰۰۰ سے زیادہ بیش فراہم ہوئے جو عموماً مشرقی کلیساوں سے آئے تھے چونکہ علاوہ مسئلہ ایریں کے اور باتیں بھی قابل فیصلہ تھیں اس لئے کونسل تین مینیٹ تک قائم رہی۔ افتتاحی خطبہ خود شمنشاہ نے پڑھا۔ اگرچہ مبادلہ میں شمنشاہ شامل رہا، مگر معاملہ کونسل کے پریزیڈنٹوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اس کونسل میں تین پارٹیاں تھیں۔

(الف) آر تھوڑو کس، جن کی تعداد تمیں کے قریب تھی۔ ان کے لیڈر اگزینڈر اسیں ہو سیں اور احتانا سیس حوالگزینڈر یا کا آرج ڈیکن تھا۔

(ب) کونسل و نوان کی تعداد قریباً ۲۰۰ تھی۔ ان کا لیڈر رقصیر کا بیش یوسی میں تھا۔ یوں تو یہ لوگ ایرین خیالات سے متفق نہ تھے۔ مگر یہ خیال کرتے تھے کہ کلیسا کو اس سے چند اس اقصان کا اندریش نہیں۔ اس لئے ایریں سے چند اس احتنا کرنی چاہئے۔

(ج) ایرین، جن کا لیڈر رائیں تھا، اس کے ساتھ نکو میڈیا کا بیش یوسی میں اور بعض مشرق بیش تھے جو ایریں کو پسند کرتے تھے۔

ہست مبادلہ کے بعد نیکو میڈیا کے بیش کی لیڈری میں اخبارہ ایرین نے ایک ایرین عقیدہ کونسل میں پیش کیا اور کونسل سے منظوری کی درخواست کی، لیکن اس درخواست پر رخت شورش مج گئی اور عقیدہ چھاڑ کر پر زے پر زے کر دیا۔ اس پر ایریں کے تمام دوستوں نے ایریں کو چھوڑ دیا اور ایرین ایزم نام منظور ہو کر روکر دیا گیا۔ اس کے بعد قصیر کے بیش یوسی

بیس نے وہ عقیدہ پیش کیا جو اس کی کلیسا میں رائج تھا، کونسل نے اس عقیدہ کو آر تھوڑے کس ایمان کی عقیدہ منظور کیا۔ اس پر اتحانا سیس نے عقیدہ کو زیادہ واضح کرنے کی خاطر ذیل کی تمن باتیں شامل کرنے پر زور دیا۔

(الف) خدا کا کوتا بینا بابیں تشریع کہ وہ باپ کے جو ہر سے ہے۔

(ب) مصنوع نہیں بلکہ مولود۔

(ج) اس کا اور باپ کا ایک ہی جو ہر سے ہے۔

یہ سب کچھ منظور ہو گیا اور آخر میں ان لوگوں پر لعنت پھکار درج کی گئی۔ جن کا یہ ایمان ہے کہ ایک وقت تھا کہ سچ نہ تھا وہ اپنے تختم سے پسلے موجودہ تھا وہ نیست سے ہست کیا گیا، باپ اور بیٹے کا ایک جو ہر نہ تھا وہ مخلوق اور تبدیل پذیر ہے۔

یہ عقیدہ اتحانا سیس کی تشریع اور ان لعنتوں کے ساتھ کونسل میں منظور کیا گیا اور تمام شپوں نے سوائے دو کے اس پر دھخدا کر دیئے، سو ایس لیس اور مع ان دو شپوں کے جلاوطن کئے گئے اور الریہ کو بھیجے گئے اور حکم ہوا کہ ایس لیس کی تمام تحریرات جلائی جاویں۔“۔۔۔۔۔

(تواریخ مسیحی کلیسا صفحہ ۳۷۵۱)

قارئین کرام!: اس کو نسل میں اتحانا سیس کا جو عقیدہ منظور کیا گیا۔ اس کی تشریع ایک اور کتاب میں یوں شائع ہوئی ہے۔

### مقدس اتحانا سیس کا عقیدہ:

جو کوئی نجات چاہتا ہو اس کو سب باتوں سے پسلے ضرور ہے کہ عقیدہ جامد رکے اس عقیدے کو جو کوئی کامل اور بے داغ نگاہ نہ رکھے وہ بے شک عذاب ابدی میں پڑے گا۔ اور عقیدہ جامد یہ ہے مثیث میں واحد خدا کی اور توحید میں مثیث کی پرستش کریں۔۔۔ اقانیم کو ملائیں نہ ماہیت کو تقسیم کریں۔ کیونکہ باپ ایک اقوم بیٹا ایک اور روح قدس ایک اقوم ہے۔ مگر باپ بیٹے اور روح قدس کی الہیت ایک ہی ہے۔ جلال بر ابر عظمت ازلی کیسا جیسا باپ ہے۔ ویسا ہی بیٹا اور ویسا ہی روح قدس ہے۔ باپ غیر مخلوق، بیٹا غیر مخلوق اور روح قدس غیر مخلوق، باپ غیر محدود، بیٹا غیر محدود اور روح قدس غیر محدود، باپ ازلی، بیٹا ازلی اور

روح قدس ازی تاہم تین ازی نہیں بلکہ ایک ازلی۔

اسی طرح تین غیر محدود نہیں اور نہ تین غیر مخلوق بلکہ ایک غیر مخلوق اور ایک غیر محدود، یو نہیں باپ قادر مطلق، بیٹا قادر مطلق اور روح قدس قادر مطلق تو بھی تین قادر مطلق نہیں، بلکہ ایک قادر مطلق ہے۔ ویسا ہی باپ بیٹا اور روح قدس خدا، تیس پر بھی تین خدا نہیں، بلکہ ایک خدا، اسی طرح باپ خداوند بیٹا خداوند اور روح قدس خداوند۔

تو بھی تین خداوند نہیں بلکہ ایک خداوند، کیونکہ جس طرح سمجھی عقیدہ سے ہم پر فرض ہے کہ ایک اقوام کو جداگانہ خدا اور خداوند نہیں، اسی طرح دین جامع سے ہمیں یہ کہنا منع ہے کہ تین خدا یا تین خداوند ہیں۔

باپ کسی سے مصنوع نہیں نہ مخلوق نہ مولود۔

بیٹا اکیلے باپ سے ہے۔ مصنوع نہیں نہ مخلوق پر مولود ہے۔

روح قدس باپ اور بیٹے سے ہے نہ مصنوع نہ مخلوق نہ مولود پر نکلتا ہے۔ بس ایک باپ ہے نہ تین باپ ایک بیٹا ہے نہ تین بیٹے، ایک روح قدس ہے نہ تین روح قدس۔ اور اس تئیث میں ایک دوسرے سے پہلے یا چیچے نہیں، ایک دوسرے سے بڑا یا چھوٹا نہیں۔ بلکہ تین اقسام باہم ازل سے برابر ہیں۔

اس لئے سب باتوں میں جیسا کہ اوپر بیان ہوا تئیث میں توحید کی اور توحید میں تئیث کی پرستش کرنی چاہئے۔ پس جو کوئی نجات چاہتا ہے اسے ضرور ہے کہ تئیث کی بات ایسا ہی سمجھے۔ علاوہ اس کے نجات ابدی کے لئے ضرور ہے کہ ہمارے خداوند یوسع صبح کے جسم ہونے پر بھی إيمان صبح رکھے۔ کیونکہ إيمان صبح ہے کہ ہم اعتقاد اور إقرار کریں کہ خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یوسع صبح خدا اور انسان بھی ہے۔ خدا ہی باپ کی ماہیت سے عالموں کے پیشتر مولود اور انسان ہے۔ اپنی ماں کی ماہیت سے عالم میں پیدا ہوا، کامل خدا اور کامل انسان نفس ناطقة اور انسانی جسم کے ساتھ الہیت کی راہ سے باپ کے برابر اور انسانیت کی راہ سے باپ سے کم تر۔ وہ اگر خدا اور آدمی بھی ہے۔ پر دو نہیں بلکہ ایک صبح ہے ایک ہی طور پر نہیں کہ الہیت کو جسم سے بدل ڈالا۔ بلکہ انسانیت کو خدا میں لیا۔ سب طرح سے ایک ہی ماہیت کے لانے سے نہیں، بلکہ اقوام کی یکتاں سے، کیونکہ جس طرح نفس ناطقة اور جسم ایک انسان ہے

اسی طرح خدا اور انسان ایک سچ ہے جس نے ہماری نجات کے واسطے دکھایا۔ عالم ارواح میں جاتا رہا تیرے دن مردود میں سے جی اٹھا۔”۔۔۔۔۔ (دعائے عیسیٰ از صفحہ ۲۳۲)

**برادران!:** یہ ہے سمجھی مذہب کا بنیادی پتھر اور اس کا تاریخی پس منظر۔ پادری فذر حاصب ہندوستان میں سب سے پہلے انگریز پادری ہیں، جن کا مباحثہ مولوی رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی مرحوم سے ہوا تھا۔ یہ مشہور پادری صاحب اپنی کتاب ”میزان الحق“ میں سچ کی بابت لکھتے ہیں۔

”انجیل سے صاف ظاہر و یقین ہے کہ یوں سچ مرف تظییم کی راہ سے خدا کا بینا نہیں کھلاتا بلکہ فی الحقيقة الوبیت کے مرتبہ میں ہے اور صفات الوبیت اس میں پائی جاتیں (ہیں) اور وہ خدا کے ساتھ ایک ہے اور خود خدا ہے۔“۔۔۔۔۔ (میزان الحق مطبوعہ ۱۸۹۲ء صفحہ ۱۳۶)

یہی پادری صاحب اپنی دوسری کتاب ”مفتاح الاسرار“ میں سچ کی شخصیت کی بابت یوں رقم طراز ہیں۔

”وہ جو جنگل میں بلتے ہوئے بوئے میں موئی پر ظاہر ہوا سچ تھا۔“۔۔۔۔۔ (صفحہ ۳۸)

**مجب:** ان حوالہ جات کا نتیجہ ہم اپنے لفظوں میں نہیں بلکہ پادری فذر صاحب ہی کے الفاظ میں بتاتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

”اس (سچ) نے ہم بندوں پر واجب کیا کہ جیسا باپ کو ویسا ہی اس کو مانیں اور اس کی بندگی کریں۔۔۔۔۔ (مفتاح الاسرار صفحہ ۷۷)

قارئین غور کریں کہ کسی پیچیدہ تعلیم ہے جو انسان کی عقل سلیم کے صریح خلاف ہے ایک طرف خدائے واحد حی القیوم کی عبادت کریں، دوسری طرف اس کے ساتھ سچ کی بھی عبادت کریں۔ جس کی پیدائش اور موت کی بابت انجیل متی میں لکھا ہے کہ

”اب یوں سچ کی پیدائش یوں ہوئی ان۔ یوں سچ (سچ) نے بڑے شور سے چلا کر جان دی۔“

(انجیل متی باب ۱:۱۸-۱۹، ایضاً باب ۲۷:۵۰)

سچ کی زندگی پر غور کرو، ساری عمر دشمن اس پر غالب رہے۔ آخر حسب شادست انجیل اس کو گرفتار کر کے کاتنوں کا تاج پہنالیا، اور چنانی کے تختے پر لٹکا دیا۔ وہ مظلوم اس کی حالت میں عاجزانہ دعائیں کرتا رہا۔ چنانچہ انجیل متی میں لکھا ہے کہ

”مسیح کچھ آگے بڑھ کر منہ کے بل گرا اور ذہن اگئے ہوئے کہا کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پالہ (موت) مجھ سے گزر جائے۔“---- (متی باب ۲۶، ۳۹)

ہم اس امر میں زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ خود پادری فذر صاحب لکھتے ہیں۔

”عقل انسانی یوسع مسیح کی الوبیت کا مرتبہ دریافت کرنے اور پہچاننے میں عاجز و قاصر ہے۔“  
---- (میزان الحق: صفحہ ۷)

ہمارے خیال میں پادری صاحبان کو اس معقولی مسئلہ میں غلطی لگی ہوتی ہے۔ عقل کا کسی چیز کے ادراک سے قاصر رہنا اور بات ہے اور کسی چیز کو مردود قرار دینا اور بات، عیسائی حضرات ان دونوں میں فرق نہیں کرتے، اس کی مثال سنئے! عقل دو دو نے پانچ کے ادراک سے قاصر نہیں ہے۔ بلکہ اس کو غلط جان کر مردود قرار دیتی ہے۔

ٹھیک اسی طرح مخلوق کو خالق سمجھنا یا عابد کو معبدوں ٹھہرانا عقل کے صریح خلاف ہے۔ یہ بات نہیں کہ عقل اس کے فہم سے قاصر ہے۔ قرآن مجید نے اس علمی نکتہ کو ان مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے۔

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمْنَ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ---- (پ ۱۳:۴)

**ترجمہ** کیا خالق اور مخلوق دونوں معبدوں ہو سکتے ہیں۔

ہماری مخاطب مسیحی پارٹی کے ایک رکن پادری عبدالحق صاحب اسی مغلق عقیدہ کو یوں حل کرتے ہیں۔

”کلام مقدس سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ ذات الوہیم میں باپ بیٹا اور روح القدس تین اقوام ہیں۔“---- (متی ۱۸:۱۹) اور ان اقانیم کا امتیاز بطن ذات میں ہے کسی خارجی مابہ الامتیاز کا گذر نہیں اور نہ کسی بیرونی تفریق کو اس میں رہا ہے۔ اقوام اول کو لفظ باپ، اقوام ثانی کو کلام، اقوام ثالث کو روح القدس سے تعبیر کیا گیا ہے۔“----

(رسالہ ابیات الشیعیت صفحہ ۱۶)

**مجیب:** بہت خوب! پادری صاحب موصوف چونکہ مطلق تقریر کیا کرتے ہیں۔ اس لئے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی شے کے بطن میں تین مختلف اقانیم کا ہونا ان

اقدام کے منشاء کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے۔ جب تک کسی شے میں تین چیزوں کا منشاء<sup>①</sup> مختلف نہ ہو وہ تین نہیں کہلا سکتیں۔

اہل منطق کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ بے شک اس کے خارجی وجود میں ان جزوں کے درمیان ایسا امتیاز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم کشتی میں لو ہے اور لکڑی کی صورت میں امتیاز پاتے ہیں۔ مگر عقل انسانی انسان کے باطن میں ان دو چیزوں کا منشاء الگ الگ پاتی ہے، کسی امتیازی اور اک کی وجہ سے عقل انسانی حیوانیت کو عام سمجھ کر اسے جس کے نام سے موسم کرتی ہے اور ناطق کو فصل سے تعبیر کر کے مقوم نوعیت تھیڑاتی ہے۔ اور ان دونوں جزوں میں عمومی خصوص مطلق کی نسبت قرار دیتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ عقل ایسا کیوں کرتی ہے تو عقل کی طرف سے اس کا جواب یہ ہو گا کہ میں انسان کی ماہیت میں دو چیزیں پاتی ہوں ایک چیز حیوانیت ہے۔ جس میں وہ دوسرا جانداروں کے ساتھ شریک ہے۔ دوسری چیز انسان کا اور اک ہے جو دوسرے حیوانوں میں نہیں پایا جاتا۔ پادری عبدالحق صاحب کامانی الصیری غالباً یہی ہے کہ جس طرح انسان کے باطن میں دو مختلف اجزاء موجود ہیں، اسی طرح خدا کے باطن میں تین مختلف اجزاء بپ، بیٹا اور روح القدس پائے جاتے ہیں۔

اس تمثیل کے بعد ہم اہل منطق کے قادھے سے پادری صاحب سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ انسان اپنی ماہیت میں اجزاء ذہینہ کے لحاظ سے مرکب ہے یا بسیط۔

سب اہل منطق اس پر متفق ہیں کہ انسان مرکب ہے اور اس کی ترکیب کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے دو جزوں میں عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے جو اثنینیت پر منی ہے۔ پس اب حسب عقیدہ سیمیاں خدا کے مرکب ہونے میں کوئی شک باقی رہا؟ (ہرگز نہیں) یہ بحث تو خدا تعالیٰ کی ذات کی تسبیت ہے۔ سچ کی ذات کی نسبت تو مطلع صاف ہے۔ سچ کے حق میں مقدس اتحان اسیں کا حساب ذیل عقیدہ بالکل واضح ہے۔

”جس طرح نفس ناطقه اور جسم ایک انسان ہے اسی طرح خدا اور انسان ایک سچ ہے۔“  
(حوالہ مذکور)

<sup>①</sup> منشاء سے فراد منطقی اصطلاحی منشاء ہے، یہ معنی صدر رہنے معنی مرضی ۱۲ مند۔

پس مسیح کے حق میں کیا صاف فیصلہ ہے کہ وہ دو جزوں سے مرکب ہے۔ اس سے زیادہ واضح بیان کیا ہو گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسائیوں کا ایک معبود (مسیح) یا تسلیث کا ایک اقوام (رکن) مرکب ہے اس کے ساتھ یہ منطقی قضیہ بھی ملا جائے کہ جو مرکب ہے وہ حادث ہے۔ ”پس مسیح اپنی ذات میں حادث (خلوق) ہے۔ دیکھئے قرآن مجید کسی پتہ کی بات بتاتا ہے۔ ارشاد ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ..... (پ ۳ : ع ۱۲)

**ترجمہ** عیسیٰ علیہ السلام کی مثال (پیدائش میں) حضرت آدم کی ہے۔ ۱۲ من۔

قارئین کرام!: کیا مسیح کے متعلق یہ عقیدہ عالمگیر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا وہ جو عیسائی سکھاتے ہیں۔ جس کی تفصیل بھی مذکور ہوئی ہے۔

بَنْ نَجَّ نَهْ كَرْ نَاصَ نَادَنْ نَجَّيْ إِنَّا  
يَا چَلْ كَرْ دَكَهَا دَعَ دَهَنْ إِيَّا كَرْ إِيَّى

نوٹ: نزول قرآن کے زمانہ میں عیسائیوں کے دو گروہ زیادہ مشور تھے جو حضرت مسیح کی نسبت مختلف خیالات رکھتے تھے، ایک گروہ کا قول تھا کہ خدا تعالیٰ جسم ہو کر بیکل انسان دنیا میں آیا، یہی دو گروہ آج بھی موجود ہیں۔ پہلے گروہ کا عقیدہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے کہ

خدا تعالیٰ گنگاروں کی نجات کا انتظام اپنی صن پیش بنی سے کیا اور تجھم اختیار کر کے انسان پر اپنی پاک مرضی ظاہر کی۔ ..... (دیباچہ کتاب ”کلام اللہ“ صفحہ ۳)

اس گروہ کا رد قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

لَقَدْ كَفَرُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

-----(پ ۶ : ع ۱۲)

**ترجمہ** ”کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی جسم ہو کر مسیح ابن مریم کی شکل میں آگیا ہے۔“

دوسرے گروہ کا عقیدہ اصل الفاظ میں وہ ہے جو پادری عبدالحق صاحب نے عبارت مرقومہ بالا میں ظاہر کیا ہے۔ جس میں آپ نے تثیث کی تصویر دکھائی ہے۔ گروہ کارہ قرآن مجید نے بالفاظ ذیل کیا ہے۔

**لَقَدْ كَفَرَ الظِّنُونَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ** ---- (پ ۶: ع ۱۲)

**ترجمہ** "کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا کے باطنی حصے تین ہیں جن

میں سے ایک باپ (خدا) ہے"

تیرا گروہ عیسایوں میں وہ ہے جو مسیح کے ساتھ اس کی والدہ مریم کی بھی عبادت کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے۔

سکندر آباد کن میں، میں نے رومان کیتموں کے عیسایوں کا گرد جائیکھا، جس میں مریم صدیقہ کا مجسم نصب ہے، اس کے سامنے عیسائی لوگ ہندوؤں کی طرح ڈنڈوت، (سلام) کرتے ہیں، نزول قرآن کے زمانہ میں یہ گروہ عرب میں بکثرت پایا جاتا تھا ان کا رد قرآن مجید میں ایک خاص پیرائے کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

**مَا الْمُسِيْخُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّشْلُ وَأَمْمَةً صَدِيقَةً كَانَا يَا كَلَانِ الظَّعَامُ أَنْظَرَ كَيْفَ نَبِيَّ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اَنْظَرَ أَنْثِي يُؤْفِكُونَ** ---- (پ ۶ : ع ۱۲)

**ترجمہ** "مسیح ابن مریم اللہ کا ایک رسول تھا۔ اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے تھے اس کی ماں خدا کی نیک بندی تھی، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھلایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح دلائل بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ بسکے پڑے جاتے ہیں۔"

اہل منطق کے نزدیک دلیل کی دو قسمیں ہیں ایک الہی اور دوسرا انی علت کے علم سے معلوم کا علم حاصل ہو تو وہ دلیل الہی کمالاتی ہے۔ جیسے سورج کا وجود دون کلے دلیل ملنی ہے۔ معلوم سے علت کا علم ہونا دلیل انی ہے۔ جیسے سرعت بعض سے بخار کا علم حاصل ہوتا ہے۔ کوئی شخص کھانے کا محتاج ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ معینہ نہیں ہے۔ یہ دلیل انی اور لمی دونوں قسم کی ہو سکتی ہے۔ مگر اس کو انی کہتا زیادہ راجح ہے۔ بہر حال یہ ایک یقینی دلیل ہے، کیونکہ خدا کی ذات کھانے پینے سے بالکل پے نیاز ہے۔ "وَهُوَ يَنظِعُمْ وَلَا يَظْعِمُ" اسی لئے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم میسیحیوں کے عقائد کی اصلاح کے لئے دلائل بیان کرتے

ہیں۔ مگر پھر بھی یہ لوگ بکھے چلے جاتے ہیں۔  
الحاصل یہ کہ قرآن مجید میں مسیح کی شخصیت کی بابت الفاظ ذیل میں جو  
ارشاد ہوا ہے۔

**إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِنْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ**

(پ:۳:ع۴)

**وَجِئْنَاهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُفَرَّيِنَ** ---- (پ:۳:ع۱۳)  
اس کو تو عقل سیم مان سکتی ہے۔ لیکن میسمی لوگ ان کی نسبت جو اعتقاد رکھتے ہیں  
جس کا ثبوت عبارات مرقومہ بالا میں دیا گیا ہے۔ وہ اہل عقل کے نزدیک کسی طرح قابل قبول  
نہیں ہے۔ چنانچہ میسمی رسالہ ”اخوت“ ہمارے قول کی تائید میں لکھتا ہے کہ:

”مسیح نے کہا تھا کہ ”میں اور باپ ایک ہیں۔“ اس قسم کے بیانات نہایت وحشت انگیز اور  
رزہ خیز ہیں اور آج بھی انہیں سن کر اہل دنیا کے دلوں میں کچھ کراہیت اور نفرت پیدا نہیں  
ہوتی۔“---- (اخوت لاہور بابت جنوری ۲۰۱۴ء صفحہ ۳۱)

**مجیب:** معاصر موصوف نے بالکل صحیح کہا ہے۔ واقعی یہ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص  
بھی ازلی بھی ہو اور حادث، خدا بھی ہو اور انسان بھی، کھائے پے بھی، جنے مرے  
بھی، پھر بھی خدا کا خدا بنا رہے۔ متفاہد یا تیس پادری برکت اللہ اور ان کے ہم نواویں کے سوا  
کوئی دوسرا شخص نہیں مان سکتا۔ چنانچہ پادری برکت اللہ صاحب اسی رسالہ میں لکھتے ہیں۔  
”حقیقت عیسوی ایسی حقیقت ہے، جس کی وجہ سے ہم پادری صاحب ہی کے الفاظ میں بتاتے ہیں۔ ایک طرف  
آپ لکھتے ہیں کہ

”الوہیت کی ساری معموری اس (مسیح) میں بجم ہو کر سکونت کرتی ہے۔“--- صفحہ ۳۸

اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی لکھتے ہیں۔

”الوہیت اور کامل انسانیت آں خداوند (یہوی مسیح) کی شخصیت میں نظر آتی ہیں۔“

(صفحہ ایضا)

اس کے باوجود آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ:

”آپ (مُسیح) فرماتے ہیں کہ میں صرف خدا اور اس کی رضا کو ہی اپنی نظر وہ کے سامنے رکھوں گا اور صرف اسی کو سجدہ کروں گا۔“---- (صفحہ ۱۳۳)

پادری صاحب مزید فرماتے ہیں:-

”آپ (مُسیح) خدا سے کبھی ایک لمحے کے لئے بھی جانا ہوئے آپ میں اور خدا میں مختار نظر نہیں آتی۔“---- (صفحہ ۱۵۲)

قارئین کرام! یہ ہے مسیحی تعلیم جو خدا اور مسیح کی نسبت ہمیں بتائی جاتی ہے۔ ہم اس پر کیا سوال کریں۔ جبکہ ہمیں یہ کہہ کر روک دیا گیا ہے کہ اس مسیحی عقیدہ کو بخشنے سے عقل حیرت میں ہے۔ اگر پوچھیں تو جواب یہی ملے گا۔ کہ جس عقل سے آپ سوال کرتے ہیں وہ بے چاری تو حیرت زدہ ہے۔ لیکن ہم خدا کے فضل و کرم سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقل حیرت زدہ نہیں ہے بلکہ ہماری عقل صاحب الرائے ہے۔ اس لئے ہم پادری صاحب اینڈ پارٹی اور ان کی معرفت کل مسیحی ڈنیا سے سوال کرتے ہیں کہ۔

”انجیل متی کا یہ فقرہ کہ مسیح نے صلیب پر چلا کر جان دے دی۔“

اس ”چلا کر“ جان دینے کے وقت بھی مسیح مجسم خدا تھا یا نہیں، اور اس میں اور خدا میں کوئی مختار تونہ تھی، پھر چلا کر جان کس نے دی۔

یہاں پہنچ کر ہم تو رک جاتے ہیں آپ ہی بتائیے کہ وہ کون تھا؟

اگر گوم سوزو زبان

پادری صاحب آپ نے مسیحی مذہب کو عالمگیر ثابت کرنے کے لئے قلم اٹھایا ہے مگر مسیحیت کی تصویر ایسی دکھائی ہے۔ جسے دیکھ کر ہر ایک ادنیٰ و اعلیٰ بقول آپ کے محوجریت ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو گا۔

بوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بو الجھی است  
جلاء اور کم عقلوں کو تو آپ کہہ دیں کہ تم کو عقل نہیں۔ اگر عقل مند لوگ اعتراض کریں تو ان کو جواب دیں کہ عقل خود حیرت میں ہے، اور کہنے کا یہ دعویٰ کریں کہ۔  
”مسیحیت عالمگیر مذہب ہے“

مخقریہ ہے کہ مسح کے متعلق جو تعلیم قرآن مجید نے دی ہے وہ بے شک قبل قبول ہے۔ اس کے قبول کرنے میں عقل انسانی کو کسی قسم کی حیرت نہیں ہوتی۔ مثلاً ارشاد ہے۔

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثُلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔

(پ ۲۵:۴)

**ترجمہ** ”مسح ہمارا نیک بندہ ہے، ہم نے اس پر انعام کیا اور اس کو نبی اسرائیل کے لئے ہادی بنایا۔“

اس آیت کا مطلب صاف ہے۔ حضرت مسح خدا کے نیک بندے اور رسول تھے۔ الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اس مضمون کی تائید انجیل بھی کرتی ہے۔ چنانچہ مسح فرماتے ہیں۔

”بھیش کی زندگی (نجات) یہ ہے کہ وہ تجھے خدا نے واحد اور برحق کو اور یسوع مسح کو، جسے تو نے بھیجا ہے جائیں۔۔۔ (یوحنا: ۱۳: ۱۱) باہمیل مطبوعہ (۱۹۱۶ء)

اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ اعتقاد رکھیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَيِّسَى رَسُولُ اللَّهِ

قارئین کرام! خدا کی ذات و صفات میں توحید کا اقرار ہر ایک مذہب کا بنیادی اصول ہے جو اس میں پاس ہے۔ وہی کامیاب ہے اور جو اس میں فیل ہے۔ وہی ناکام ہے۔

قرآن مجید نے خدا کی ذات و صفات کا ذکر جن لفظوں میں کیا ہے۔ ان میں نہ کوئی الجھن ہے نہ حیرت، بلکہ ایسے شستہ اور شائستہ الفاظ ہیں کہ ہر سترے والے کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے۔

يَا إِيَّاهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

(پ ۲۲:۱۳)

**ترجمہ** ”اے لوگو! اپنے اوپر اللہ کی مہربانی یاد کرو کیا اس کے سوا کوئی اور

خالق ہے جو اپر سے (پانی برسا کر) اور زمین سے (پیدا کر کے) تمیس رزق دیتا ہے اس کے سوا کوئی چاہ معبود نہیں پھر ثم کہا ہے جاتے ہو۔ اس کے برخلاف مسیحی مذہب کے اقوال گذشتہ صفات میں نقل ہو چکے ہیں۔ ایک قول ان کے ساتھ اور ملا لجھتے جو ڈپنی آنکھ مسیحی مناظر نے مرزا صاحب قادری کے مقابلہ میں مباحثہ امر تسریں پیش کیا تھا کہ۔

”ہم سے جو استفسار یہ ہے کہ مسیح نے کیا بنایا تھا، خدا نے وزمین و آسمان اور سب چیزیں بنائیں۔ بجواب اس کے عرض یہ ہے کہ بحیثیتِ انسانیت کے تو اس نے کچھ نہیں بنایا، لیکن بحیثیتِ مظرا قومِ هلنی کے جو کچھ بنائے اس کے دلیل سے ہے اور باپ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ مگر بیٹے نے خلق کرنے کے دلیل سے اسے دکھلا دیا۔“

(جنگ مقدس مصنفہ مرزا صاحب صفحہ ۵۵)

یہ ہے مسیحی تعلیم کا بنیادی پتھر، جس پر پادری صاحبان کو ناز ہے، ایک طرف مسیح ابن مریم کی پیدائش اور موت کا ذکر کرتے ہیں، دوسری طرف اس کو زمین اور آسمان کا خالق ٹھہراتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ اسی بنیاد پر مسیحی مذہب کو عالمگیر تاتے ہیں اور اسلام کو اس کے خلاف محل اعتراض قرار دیتے ہیں۔ کیا یہی صحیح ہے۔

بت کریں آرزوِ خدائی کی شان ہے تیری کبریائی کی  
ایک علمی سوال

خاصۃ الشی ما یوجد فی شی ولا یوجد فی غیره  
یہ ایک منطقی اصول ہے کہ ہر ایک چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو کسی ایک چیز میں پایا جائے اور اس کے غیر میں نہ پایا جائے یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک منفک اور دوسرے غیر منفک، مثلاً غالب علی الکل ہونا خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے اور یہ غیر منفک ہے۔ یعنی کہ وقت یا کسی آن میں یہ غلبہ اس کی ذات سے عیینہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ انسان کا زور اس ذات سے منفک ( جدا ) ہو جاتا ہے کہ ایک وقت شہ زور پہلوان ہوتا ہے اور دوسرے وقت کمزور، ایک وقت اگر ذی شان پادشاه ہے تو دوسرے وقت ایسے ( قیدی ) الہ علم کے نزدیک جب یہ اصول معقول اور مقبول ہے تو ہم پادری صاحب سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جس وقت

خداوند تعالیٰ مجسم ہو کر مجھ کی ٹھکل میں نمودار ہوا تو غلبہ کاملہ جو اس کا خاصہ ہے۔ اصول مذکور کے ماتحت اس وقت بھی ضرور اس کی ذات نہیں موجود ہو گا۔ پھر کیا واجہ ہے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اسیر ہوا۔ کافیوں کا تماج پہنیا گیا۔ اس کی پہلی میں بھلا مارا گیا۔ آخر اس نے ”ایلی ایلی لاما بقتی“ کتے ہوئے سولی پر چلا کر جان دی۔۔۔۔۔ (انجیل متی باب ۲۷: ۲۵)

یہاں پہنچ کر عیسائیوں کے سامنے دوراستے آ جاتے ہیں۔ جس کو چاہیں اختیار کریں اول یہ کہ اعلان کر دیں۔ کہ مجھ جس نے یہ الفاظ کے تھے وہ خدا نہ تھا۔ بلکہ ایک انسان تھا۔ دوسرے یہ کہ دیں کہ غلبہ کاملہ خدا کا خاصہ نہیں ہے اگر ہے تو قائل افکاں ہے۔ پہلی شق اختیار کرنے کی صورت میں کلیسا میں دہرات کی بنیاد پر جاتی ہے۔

اور ایسا عاجز خدا جس سے غلبہ منفک ہو جائے کسی داشمن دندا انسان کے ماننے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ کم از کم ہم مسلمان تو ایسے خدا کو ماننے سے قطعاً معذور ہیں۔ ایسا کہنے والوں کو قرآن شریف میں سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقُّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
وَالسَّمَوَاتُ مَظْوِيَّاتٌ بِإِيمَنِهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ①

(پ ۳۲: ۴)

پادری صاحب نے اپنا گھر شیشے کا بنا کر قرآن جیسے مضبوط قلعے پر جو گولے بر سائے ہیں اس کا ذکر قارئین کے لئے قائل شنید ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔

### اسلام کے اصول اور مسیحیت:

”جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس میں جتنی خوبیاں موجود ہیں وہ سب کی سب کتاب مقدس میں اعلیٰ ترین ٹھکل میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن پارہار اقرار کرتا ہے کہ جو صداقت اس میں پائی جاتی ہے وہ محض کتب سابقہ سے ماخوذ ہے اور اس حقیقت کو اپنی صداقت کی دلیل میں پیش کرتا ہے اور کرتا ہے کہ قرآن عربی میں

① مشرکوں نے کماجخ خدا کی قدر نہیں کی۔

صرف اس واسطے آیا ہے تاکہ سابقہ کتب مقدسہ کی صداقتوں کو اہل عرب کے لئے سلیں عربی زبان میں پیش کرے تاکہ اہل عرب پر اتمام جنت ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ”قرآن ہم نے نازل کیا۔ اس لئے کہ ہم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے صرف دو ہی فرقوں (یعنی یہود اور عیسائیوں) پر کتاب نازل ہوئی تھی اور ہم (ان کتابوں کی عبرانی اور یونانی زبانوں کی وجہ سے) ان کے پڑھنے سے غافل تھے۔ یا یوں کہو کہ اگر ہم پر کتاب (عربی میں) نازل ہوئی تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ سواب تمہارے رب سے تمہارے پاس (عربی) میں جنت آئیں اور ہدایت اور رحمت ہے، سواں سے زیادہ ظالم کون جس نے اللہ کی آیات کو جھٹالیا۔“۔۔۔ انعام آیت ۱۵۶، نیز دیکھو سورت محل آیت ۵، احمد بجہہ ۲۳۴، یوسف ۳۰، رعد ۷، ط ۱۱۲، زمر ۲۹، شوری ۵، زخرف ۲، احتفاف (اوغیرہ) دورہ حاضرہ کے مسلم علماء اس حقیقت کے معرف ہیں کہ قرآن کی تمام صداقتیں کلت اللہ کی تعلیم میں پائی جاتی ہیں۔ ہم انشاء اللہ یہاں یہ ثابت کریں گے کہ وہ صداقتیں قرآن میں صرف غیر کامل حالت میں موجود ہیں۔ لیکن انجیل میں وہ کامل ترین اور پاکیزہ ترین شکل میں موجود ہیں۔

(صفحہ ۱۰۲ تا ۱۰۰)

**مجیب:** اسلام کی توحید بقول پادری صاحب ناقص اور انجیل کی تئیش کامل ہے۔ بس یہ ہے ایک امر تشقیق، ازروئے قانون مناظرہ اور قانون انصاف ہم کہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم پر دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ پادری صاحب اس کو کتب سابقہ میں منزل مانتے ہیں۔ باقی رہا تئیش کا مسئلہ تو اس کا ثبوت پادری صاحب جیسے مسیحیوں کے ذمے ہے۔ جو اس کے قائل ہیں۔ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ کی کتابوں سے اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام کے صحف سے اس کا ثبوت دیں۔ پھر اس کو عقلی طور پر ثابت کریں۔ برعکس اس کا ثبوت اہل تئیش کے ذمے ہے۔ کیونکہ وہ مزیت کے قائل ہیں اور ہم بلا خوف تردید اعلان کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے تئیش کے ابطال پر جو دلائل قاہرہ پیش کئے ہیں۔ ساری مسیحی دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی پادری میں ہمت ہے تو زبانی باقی مچھوڑ کر معقولیت کے ساتھ ان دلائل کا جواب دے۔

مختصر یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم متعلقہ توحید کتب سابقہ میں موجود

تھی مگر مسیحیوں نے جب اس کو بگاڑ دیا تو خداوند تعالیٰ نے ان بگاڑنے والوں کو تحریف کا الزام دے کر اہل دُنیا کو خالص توحید کا سبق دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

**يَا هَلَّ الْكِتَابَ لَا تَعْلُمُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرُ الْحَقِّ وَلَا تَشْعُرُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلَّوْا مِنْ قَبْلٍ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ**

(پ: ۶۴ ع: ۱۱۳)

**ترجمہ** اے اہل کتاب! اپنے دین میں بے جا زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔

پادری صاحب نے اس اعتراض کے باوجود کہ قرآنی تعلیم کتب سابقہ سے ماخوذ ہے۔ اس کی تردید بھی کرتے جاتے ہیں۔

### دوسرा اعتراض:

”سب سے بڑا دعویٰ جو اسلام کا ہے وہ شرک کی نہست اور وحدتِ الٰہی کی دعوت ہے، لیکن اسلامی توحید کا تصور ایک بے معنی شی ہے اور ازروئے منطق و فلسفہ یہ تصور ناکارہ ہے، لہذا توحید کے اس ناقص پہلو کو مسیحیت میں دخل نہیں۔“..... (صفحہ ۱۰۲)

**مجیب:** منطق اور فلسفے کا نام سن کر ہم خوش ہوئے تھے اور بے ساختہ ہمارے منه سے نکلا تھا۔

شکاٹوں کے کھلیں دفتر ادھر تمہارے ادھر ہمارے

گرافوس ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کر کے پادری صاحب خاموشی سے گزر گئے۔ پادری صاحب کی جرات قابل ملاحظہ ہو کہ آپ ایک قوم کو منطق اور فلسفے کا نام سن کر ڈراستے ہیں۔ جس نے ان دونوں علموں پر ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ بغیر اطلاع پائے کسی کو خیال تک نہیں گزرتا کہ یہ علوم یونان کی ایجاد ہیں۔ کیونکہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ عربوں کی ایجاد ہیں۔ ایسی قوم پر ان علوم کا نام لے کر رعب ڈالنے کی جرات پادری صاحب جیسا شخص ہی کر سکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ پادری صاحب کے اس معقول مقولہ کا جواب خود انہی کے قلم سے نکل

گیا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ

”اسلام کا یہ ماہیہ ناز عقیدہ اپنی پاکیزہ ترین حالت میں کتاب مقدس میں موجود ہے۔ لیکن کلمہ اللہ کی تعلیمِ اسلامی نظریہ کے ناقص عناصر سے پاک ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۰۲)

مجیب: صاف لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم متعلقہ توحید کتب انبیاء کے عین مطابق ہے بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن مجید بھی یہی فرماتا ہے۔ منتهی ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الظَّاغُوتَ  
(پ ۳۴: ۱۱)

**ترجمہ** ”ہم نے ہر قوم میں ایک رسول یہی پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بناوی معبودوں سے بچو۔“

قرآن مجید نے بطور تکمیل توحید حضرت عیسیٰ کا یہ قول انہی معنی میں نقل کیا ہے۔  
مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ۔

(پ ۷: ۱۶)

**ترجمہ** اے خدا! میں نے اپنے اتباع کو وہی بات کہی تھی۔ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔

حضرت مسیح کی اس حکایت کا اصل حوالہ انجیل یوحنائیں ملتا ہے جہاں مسیح فرماتے ہیں کہ

”بیشہ کی زندگی (نجات کا ذریعہ) یہ ہے کہ دے تمہ کو سچا خدا اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں۔۔۔۔۔ (انجیل یوحناباب ۱: ۱۳ ازانجیل مطبوعہ ۱۸۸۳ء)

مسیح نے اس قول میں اپنی رسالت کا واضح لفظوں میں اقرار کیا ہے۔

نوٹ: خود پادری صاحب نے یہ حوالہ اپنی کتاب ”دین فطرت“ کے صفحہ ۱۳۰ پر نقل کیا ہے۔

مسیحی دوستو! قرآن، تورات اور انجیل کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر جو بھی راستہ کوئی اختیار کریگا وہ جنم کو لے جانے والا ہو گا۔ پس یہ بات یاد رکھو

کہ ایسا شخص اپنی ذات کے علاوہ خلوق خدا کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری بھی اپنی گردن پر لیتا ہے۔

قریب ہے یارو روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیونکر

جو چپ رہے گی زبان خجراً لو پکارے گا آستین کا

محقری ہے کہ اس فقرہ میں بھی آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کا ثبوت آپ کے ذمے باقی ہے۔ کیونکہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ اسلامی توحید کتب مقدسے سے ماخوذ ہے۔ مگر بقول آپ کے وہ نامکمل ہے اور اس کی تکمیل آپ کے زعم میں الوہیت مسیح کی صورت میں ہوتی ہے جس کی تفصیل ہم پہلے کرچکے ہیں۔ زراغور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ تکمیل ویسی ہی ہے۔ جیسی آگ رو غنی لکڑی کی تکمیل کرتی ہے۔ پادری فذر سے لے کر آج تک تو کسی پادری سے اس دعوے کا ثبوت ہو نہیں سکا۔ آئندہ دیدہ باید! ہماری تحقیق میں دو مسئلے ایسے ہیں جو بالکل مساوی ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ ایک مسئلہ تثبیث ہے اور دوسرا مسئلہ دودوئے پانچ ناممکن ہے کہ ان دونوں مسئلوں کو کوئی ریاضی دان یا منطق دان پادری صحیح ثابت کر سکے۔ خواہ وہ اپنی کتاب کا نام ”اثبات الشیث“ ہی رکھے۔ اہل عقل جانتے ہیں کہ نام اور چیز ہے۔ اور کام اور چیز ہے۔

شیر قلین و گراست و شیر نیتائ و گر

آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں۔

”خدا اور اس کے باہمی رشتہ اور تعلقات کے متعلق جو تعلیم قرآن اور اسلام میں ہے۔ ان میں جو صداقت کے پبلو ہیں۔ وہ تمام کے تمام مسیحیت میں بوجہ احسن موجود ہیں مثلاً قرآن کی تعلیم ہے کہ خدا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے وغیرہ وغیرہ (انعام آیت ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰) یہ تمام باقی کتاب مقدس میں بطرزاً احسن موجود ہیں۔ لیکن قرآنی تعلیم کا جو غلط پبلو ہے کہ خدا ایسی جابر ہستی ہے۔ جو اپنے قرے سے گناہگار انسان کو فا کر دیتی ہے اور دوزخ میں ڈال کر خوش ہوتی ہے (خلع ۲۵، اتفاق ۱۹، جاہی ۲۰، مومن ۲۳، طلوع وغیرہ) اس قسم کی باطل تعلیم سے مسیحیت سراسر پاک ہے۔“۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۰۲، ۱۰۳)

**مجیب:** خالق اور مخلوق کا تعلق جیسا قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس سے اچھا تو کیا اس کے برابر بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ آپ نے قرآن کی کمی اور نقص بتانے کو خدا کے متعلق جابر اور قاہر دل لفظ منتخب کیے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ آپ ان عربی لفظوں کا ترجمہ کسی عربی دان پادری سے پوچھ لیتے تو آپ سے یہ غلطی سرزد ہو کر موجب ندانست نہ ہوتی۔ جابر جبر سے مشتق ہے۔ جس کے معنی اصلاح حال کے ہیں۔ جبیرہ مرہم والی ڈپٹی کو کہتے ہیں۔ جوزخم پر لگائی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی اصلاح کرتی ہے۔ اس نے احادیث کی دعاوں میں ایک لفظ ”واجْبَرْنِي“ بھی آیا ہے۔ جس کے معنی ہیں اے خدا میری حالت سنوار دے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ خدا جابر ہے۔ انہی معنی میں کسی عارف کا قول ہے۔۔۔

میرے مولا میری بگزی بنانے والے  
میرے ہادی مجھے بھولے کو چلانے والے

قاہر کے معنی ضابط کے ہیں۔ ضابط اس بادشاہ کو کہتے ہیں۔ جس کی رعایا سر تابی نہ کر سکے۔ یہ وصف خدا کی ذات میں علی وجہ الکمال پایا جاتا ہے۔ اس نے قرآن میں ارشاد ہوا ہے۔

وَهُوَ الْفَاعِلُ فَوْقَ عِنْدِهِ

اللَّهُ تَعَالَى أَنْهَى بَنْدُولَ پَرِ ضَابِطٍ هُ

چنانچہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب مرحوم نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ البتہ اردو زبان میں ان دونوں لفظوں کے معانی میں تبدیل آگئی ہے۔ جیسے عزیز اور مشق وغیرہ الفاظ کے معانی تبدیل ہو گئے۔ عربی زبان میں عزیز کے معنی غالب کے ہیں۔ ارشاد ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَامٍ“ اردو میں فارسی کے وسیلے سے چھوٹے رشتہ دار کو کہا جاتا ہے۔ اسی نے انشاۃ میں اصطلاح ہے کہ بڑا چھوٹے کو عزیز من لکھتا ہے اور چھوٹا بڑے کو عزیز نہیں، بلکہ بزرگوار من لکھ کر خطاب کرتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں مشق کے معنی ہیں ڈرنے والا جیسا کہ ارشاد ہے ”وَهُمْ مِنْ خَشِيبِهِ مُشْفِقُونَ“ اردو میں مشق اور میراں ایک معنی میں ہیں۔

ایک اردو شاعر کہتا ہے۔۔۔

مشق لکھوں شیق لکھوں دربا لکھوں

جیت میں ہوں کہ آپ کے القاب کیا لکھوں

پس آپ کے یہ دونوں اعتراض عربی زبان سے ناداقیت پر مبنی ہیں۔ درحقیقت یہ دونوں وصف جو قرآن مجید نے خدا کی ذات میں بتائے ہیں۔ ان کی شان کے لئے نہایت موزوں ہیں اور آپ کا اعتراض اس شعر کا مصدقہ ہے۔

چو بشنوی سخن اہل دل مگو کہ خط است  
سخن شناس ا دلبر اخطا این جا است  
اسی طرح آپ کا یہ کہنا کہ

”خدا ایسی ہستی ہے جو انسان کو فنا کر دیتی ہے اور دوزخ میں ڈال کر خوش ہوتی ہے۔“  
قرآن اور تورات دونوں کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کی جن آیات کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان میں اس مضمون کا اشارہ تک نہیں ہے کہ خدا انسان کو دوزخ میں ڈال کر خوش ہوتا ہے۔ البتہ کافروں کی سزا کا ذکر ہے۔ سوا س کا ثبوت چاہو تو تورات کا مرقومہ ذیل حوالہ دیکھ لو۔

حضرت موسیٰ کو کافروں کے متعلق حکم ہوتا ہے۔

”جب کہ خداوند تمرا خدا انہیں تیرے حوالے کرے تو انہیں ماریو اور حرم<sup>①</sup> کی ہجتوں توان سے کوئی عمد کریونہ ان پر رحم کریونہ ان سے بیاہ کرنا۔“-----(اشتباہ باب ۷)  
بتابیے کہ یہ احکام کس قسم کے ہیں۔ یہ رحم ہے یا جبر ہے؟ قرآن کے موافق ہیں۔  
مجیب: یا مخالف؟ اور آپ کی کتب مقدس میں یہ حوالہ ہے یا نہیں؟

پادری صاحب! شیشے کا گھر بنانا کر دو سروں پر پتھر بر سانا  
کار خرد منداں نیست

اس کے متعلق پادری صاحب مزید فرماتے ہیں۔

خدا اور انسان کے باہمی تعلق کی بنا خوف اور دہشت نہیں بلکہ محبت ہے انجلی جیل میں ارشاد ہے کہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔“-----(روم ۸/۱۵، ایوہ ۱۵/۵، ۱۳/۲ اور غیرہ)  
پس مسیحیت میں یہ تمام اصول اپنی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین شکل میں موجود ہیں جو قرآن میں

صرف مکمل طور پر ہی پائے جاتے ہیں اور یہ بھی حق ہے کہ قرآنی تعلیم کے ناقص اور غلط پبلو مسیحیت میں موجود نہیں ہیں۔“

**مجیب:** یہ بالکل صحیح ہے کہ خدا اور انسان میں باہمی تعلق محبت کا ہے۔ قرآنی ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُفْ رَجِيمٌ (ص:۲، ع:۱)

کو غور سے پڑھئے۔ مگر مجرموں کو نافرمانی کی سزا دینا بھی خدائی عدل کے عین مطابق ہے۔ ورنہ قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے تورات کے ساتھ صحف انبیاء کو بھی دیکھ لجئئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مصرع صادق آئے کہ:

اَيْنِ گُنَا نِیتٌ کَہ در شر شا نیز کنند  
آگے چل کر پاری صاحب لکھتے ہیں۔

اسلام نے خدا کے متعلق یہ تعلیم دی ہے کہ خدا اپنی مخلوقات سے بلند و بالا ہے (نحو ۶۲ نساء ۳۸ وغیرہ) اور اس صداقت کے عضر پر اس قدر زور دیا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک وسیع خلیج پیدا کر دی ہے۔ مسیحیت میں بھی یہ تعلیم موجود ہے کہ خدا کائنات سے بلند و بالا ہے (زبور ۱۸/۳۸، اعاما ۷/۳۹ وغیرہ) لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ناقص پبلو کو اپنے اندر لے کر اس نے خدا اور انسان میں کوئی خلیج پیدا نہیں کی۔ خدا کے بلند و بالا ہونے اور اس کے حاضر و ناظر ہونے میں جو صداقت کے پبلو ہیں وہ مسیحیت میں نہایت دلکش اور پسندیدہ حالت میں موجود ہیں۔ اسلام نے خدا اور انسان کے درمیان خلیج پیدا کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ خدا فرشتوں کے ذریعہ انسان سے کلام کرتا ہے اور یوں اپنی مرضی انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن جبرائیل فرشتہ کے ذریعہ رسول علی پر نازل لیکن مسیحیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ جس کی ذات محبت ہے، لہذا اس میں اور انسان میں کوئی خلیج واقع نہیں۔

(صفحہ ۱۰۳، ۱۳۰)

**مجیب:** مقام شکر ہے کہ قرآن مجید نے خدا کی نسبت جو تعلیم دی ہے کہ اس کی ذات مخلوق سے بلند اور بالا تر ہے۔ پاری صاحب کو کیلتا تعلیم ہے۔ ہاں بڑی وجہ فرق

یہ بتائی ہے کہ قرآن جبرائیل کو پیغام رسانی کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ لیکن مسیحیت کہتی ہے کہ خدا ہمارا باپ ① ہے۔ خدا اور انسان میں کوئی خلیج نہیں ہے۔ خلیج کا لفظ تشریح طلب ہے۔ اس سے پادری صاحب کی مراد اگر یہ ہے کہ قرآنی تعلیم کے بوجب خدا اور بندے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ ہے۔ جیسے خلیج نشکلی کے دو نکڑوں کے درمیان حد فاصل ہوتی ہے۔ تو ایسا کہنا بالکل غلط ہے کیونکہ خدا کے متعلق ارشاد ہے۔

**ہو مَعْكُمْ أَيْتَمَا كُنْثُمْ** ---- (پ ۲۷ : ع ۱۷)

**ترجمہ** خدا ہر وقت اور ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔

نیز ارشاد ہے۔

**نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** ---- (پ ۲۶ : ع ۱۶)

**ترجمہ** اور اللہ انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔

اگر مراد یہ ہے کہ بقول قرآن جبرائیل پیغام رسانی کا ذریعہ ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ سلسلہ انبیاء علیہم السلام میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ باشیبل شادوت دیتی ہے کہ حضرت لوط کی قوم پر عذاب لانے والے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس خدا کا فرشتہ آیا اور ان کو بیٹی کی خوشخبری دی۔ ذرا اور قریب آئیے اور میں آپ کے گھر کی بست بڑی خلیج کا پتہ بتاؤں۔ انجلیل واقعیں لکھا ہے کہ۔

”چھٹے مینے جبرائیل فرشتے خدا کی طرف سے ملیل کے ایک شرمن جس کا نام ناصرت تھا۔

بھیجا گیا۔ ایک کنواری کے پاس جس کی یوسف ہاں ایک مرد سے ملنگی ہوئی تھی اور اس

کنواری کا نام مریم تھا۔ اس فرشتے نے اس کے پاس اندر آگر کہا۔ اے پنڈیدہ سلام!“!

(انجلیل لوقا: باب اول)

پادری صاحب فرمائیے! فرشتے کی خلیج حاصل کرنے والی پہلی کتاب باشیبل ہے۔ یا

قرآن؟ خج ہے۔

ایں گناہ است کہ در شر شما نیز کنند

① خدا کو اب (باپ) اور رب کرنے کی بحث کتاب ہذا کے گذشتہ صفات میں درج ہے۔

مسیحیت کی خصوصیت جو پادری صاحب نے بتائی ہے۔ وہ قابل دید و شنید ہے۔ فرماتے ہیں۔

”مسیحیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ جس کی ذات محبت ہے لہذا اس میں اور انسان میں کوئی خلیج واقع نہیں اور خدا کا کلام خود مجسم ہوا اور اس نے سچ ہو کر اپنے آپ کو نبی نوع انسان پر ظاہر کیا (یوختا باب عبرا-۸ وغیرہ) اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں انسان خدا کے ساتھ حقیقی رفاقت نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ قرآن کے مطابق خدا ”بے نیاز“ ہے۔ (سورہ اخلاص وغیرہ) لاپرواہی اور محبت دونوں ایک جگہ ہو نہیں سکتے۔ محبت ایک رکرشت ہے، جو محب اور محبوب کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن جہاں بے نیازی ہو وہ نہ کوئی محب ہو سکتا ہے اور نہ محبوب اور نہ محبت کی رفاقت کا امکان ہو سکتا ہے۔“۔۔۔۔۔ (صفہ ۱۰۳)

**مجیب:** علیم اور دیگر عقولاء اس پر طالا۔ پہلے ہم اس کی تفصیل بیان کر جکے ہیں۔ پہلے حوالوں میں آپ نے خود خدا کو مجسم کما اور یہاں خدا کے کلام کو مجسم کما ہے۔ یہ دور نگی قابل غور ہے۔ ”خدا کا کلام مجسم ہوا“ یہ فقرہ قابل تشریح ہے۔ اس کی تشریح اگر یہ ہے کہ جو کلام متكلّم کے ساتھ عرض کے درجے میں تھا۔ وہ مجسم ہوا۔ تو یہ بالبداهت غلط ہے۔ کیونکہ یہ فلسفہ کا مسئلہ ہے کہ عرض جو ہر سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مراد ہے کہ خدا کے کلام (حکم) سے سچ کا وجود ظمور پذیر ہو تو یہ صحیح ہے۔ قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ مگر انہی معنی میں دنیا کے کل اعراض و جواہر موجود ہوئے۔ چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے۔

إِنَّمَا أَمْزَهَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

(پ ۲۳:۴)

خدا جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ”ہو جا“ پس وہ ہو جاتی ہے۔

ان معنی سے خدا کے کلام سے سچ کے مجسم ہونے میں کوئی خاص امتیاز نہیں رہتا۔ اگر آپ کو یہ بات کھلکھلے کہ اگر خصوصیت نہیں ہے تو سچ کا نام لے کر قرآن مجید نے کیوں کہا۔

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاهَا إِلَى مَرْيَمَ

وَرُؤْخٌ مِنْهُ --- (بِعْدَ ۖ ۳)

تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ عام سلسلہ توالد کے خلاف خدا کے حکم سے بن باپ محض ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی لئے آپ کی شان میں مذکورہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اس میں یہود کی تردید بھی مقصود ہے جو ممدوح کی شان میں ناجائز مولود وغیرہ الفاظ کہہ کر اپنا اعمال نامہ سیاہ کرتے تھے۔

ہاں آپ نے یہ خوب کہا کہ قرآنی تعلیم کے مطابق خدا بے نیاز ہے۔ ”لَا يَرْوَى إِلَّا وَمُبْتَدَأٌ جَمِيعٌ هُوَ عَلَيْهِ عَلِيمٌ۔“ پادری صاحب! معاف فرمائیے آپ نے خدا کی بے نیازی کا مطلب نہیں سمجھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ سورہ اخلاص کے جس لفظ کو آپ نے مد نظر رکھا ہے۔ اس کے معنی بھی نہیں سمجھے تو بے جا نہیں ہو گا۔

سُنْنَةُ اللَّهِ اس لحاظ سے بے نیاز ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ جس کو بہادر شاہ (بادشاہ دہلی) نے ایک محض میں یوں ادا کیا ہے۔

نَهْ پُرْسَشْ كَاتِمْ محتاج نَهْ عِبَادَتْ      نَهْ عَنَيْتْ تَجْهِيْزْ درِ كَارِكَسِيْ كَيْ نَهْ حِمَایَتْ  
نَهْ شَرَاكَتْ كَيْ سَمْنَهْ كَيْ سَهْ قِرَابَتْ      نَهْ نِيَازَتْ نَهْ وَلَادَتْ نَهْ بَغْرِ زَمْنَهْ تَوْحِاجَتْ

تو جلیل الجبروتی تو امیر الا مرائی

اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ دونوں گروہ مانتے ہیں کہ دنیا کی کل کائنات حادث ہے۔ جس کا نتیجہ صاف ہے کہ ایک زمانہ تھا۔ جب کہ اللہ اکیلا ہی تھا۔ اس کے ساتھ کوئی مخلوق نہ تھی۔ یہ ہے اس کی بے نیازی کا مطلب۔ اس کی مثال بھی (گوگھیا ہی سی) دے سکتے ہیں۔ غور سے سنوا!

ایک شخص صاحب اولاد ہے۔ وہ اپنی اولاد کا کسی بات میں محتاج نہیں ہے۔ بلکہ اولاد اس کی محتاج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اپنی شفقت پدری کے تقاضا کی وجہ سے سب پر یکساں نوازش کرتا ہے۔

پادری صاحب! اگر آپ خود بھی صاحب اولاد ہیں تو اپنے ضمیر سے پوچھئے۔ اگر نہیں ہیں تو کسی صاحب اولاد دوست سے پوچھئے کہ وہ اپنی اولاد سے بے نیاز ہونے کے باوجود ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے یا نہیں؟

اس مثال سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے بے نیازی اور محبت میں جو مغافرہ سے سمجھی ہے وہ غلط ہے۔

آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ اخلاص کی آیت "اللہ الصمد" کے اصح معنی وہ ہیں جو حضرت حسن بصری سے منقول ہیں یعنی "اللہ المقصود" صمد کے معنی مقصود کے بھی آتے ہیں اس کی شادت میں معلقہ کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔

### انطلقت الجمع العظيم تلاقني على ذروة البيت الكريم الصمد

پس آیت زیر بحث کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں انسان کا اصل مقصود خدا کی رضا جوئی ہے دگر یعنی اسی بنا پر حضرت مسیح نے کیا ہی صحیح فرمایا ہے۔

"اے میرے باپ اگر میرے پیٹے بغیر (موت کا) یہ پیالہ نہیں گزرا سکتا تو تمہی مرضی ہو۔"

(متی ۳۲:۲۶)

اللہ اللہ! کیسی عبودیت اور کسی رضا جوئی ہے۔ کیا ہی صحیح ہے۔  
تنقیح گرفت بکف و گفت کہ نازم ایں است  
سرفرو بردم و سکنتم کہ نیازم ایں است  
باوجود اس کے پادری صاحب نازاں ہو کر لکھتے ہیں۔

"پس خدا کے بلند و بالا ہونے اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق جو تعلیم قرآن میں پائی جاتی ہے وہ کامل طور پر انجیل جیلیں میں موجود ہے۔ لیکن کلمۃ اللہ کی تعلیم اسلام کی تعلیم کے ناقص سے پاک ہے۔"---- (صفحہ ۱۰۳)

قارئین کرام! یہ ہے پادری صاحب کا زور قلم یا بالفاظ دیگر بے جا خد و تھب اور تعصب اس امر کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ قرآن کی تعلیم کامل طور پر انجیل میں پائی جاتی ہے۔ پھر اس کو ناقص بتانے میں کیا نقصان ہے، وہی مرکزی نقطہ کہ "مسیح مجسم خدا ہے۔" جس کی تردید پہلے کافی ہو چکی ہے (کتاب ہذا صفحہ ۶۹) پادری صاحب کو اسی پر ناز ہے، آپ کے خیال میں یہ تعلیم انجیل کی خوبی اور بے نظری کا ثبوت ہے۔ صحیح ہے۔

اگلی داغ اس کے دل میں یہ غور  
شکل ہے دنیا میں لاثانی میری

”قرآن کے مطابق خدا رحمان اور رحیم ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔“  
(ماں کہہ ۳۲۳ وغیرہ) صداقت کا یہ پہلو اپنی بہترن شکل اور پاکیزہ ترین صورت میں انجلیل جلیل کی  
تعلیم میں پیلا جاتا ہے۔ (مر ۱۱: ۲۵، اف ۳: ۳۲، کل ۳: ۱۳ وغیرہ) لیکن اسلامی تعلیم میں بڑا  
نقش یہ ہے کہ خدا کی رحمت کا اخلاقیات سے تعلق نہیں۔ اس میں اخلاقی عنصر موجود نہیں،  
کیونکہ رحم کرنا اور گناہوں کا بخشنا اس کی مطلق العنان مرضی پر موقوف ہے۔“۔۔۔۔۔

(صفحہ ۱۰۳)

مجیب: پہلے ہم بتا آئے ہیں کہ انجلیل نے گناہ کی سزا بڑی سخت تباہی ہے۔ حتیٰ کہ از روئے  
انجلیل کسی کو احمد کہنا دخول جنم کا موجب ہے (متی باب ۲۲: ۵) اس کے علاوہ  
انجلیل کی سخت مندرجہ ذیل حوالہ سے بھی ثابت ہے، مسیح فرماتے ہیں کہ  
”اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلا دے اسے نکال ڈال کر خدا کی بادشاہت میں کاناڈ خل ہونا تیرے  
لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے جنم کی آگ میں ڈال جائے، جہاں ان کا کیرا  
نہیں مرتا اور آگ نہیں بھچتی۔ کیونکہ ہر ایک شخص آگ سے نہیں کیا جائے گا۔“

(قرص ۹ باب کی ۳۹)

ہاں آپ نے قرآن کے مضامین پر اچھی طرح غور نہیں کیا اور غور کر بھی نہیں سکتے  
کیونکہ آپ کاملاً عیوب جوئی ہے، سنتے جن الفاظ پر آپ کو اعتراض ہے۔ وہ یہ ہیں۔  
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ---- (پ ۳ : ع ۳)

یہ ایک بجمل کلام ہے جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مجرم کی بڑی شخصیت بھی اس  
کو عذابِ ایتی سے نہیں بچا سکتی اور محض (نیکو کار) کی ادنیٰ شخصیت اس کی ترقی  
میں رکاوٹ نہیں ہے۔ باقی رہایہ مطلب کہ اللہ کس پر رحم کرے گا اور کس کو  
عذاب دے گا۔ اس کا ذکر دوسرا آیت میں مفصل ملتا ہے۔ سنتے! ارشاد ہے۔

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورًا ---- (پ ۷: ع ۱۹)

خدا کسی مغلکر اور مفرور سے محبت نہیں کرتا۔

وَ إِنَّى لَفَقَارٌ لِمَنْ تَابَ وَأَمَنَ ---- (پ ۱۶ : ع ۱۳)

**ترجمہ** خدا آپ لوگوں کے لئے ٹھن ہار ہے۔

اس آیت کو آپ اپنے فقرہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔

لہذا خدا کی ذات تقاضا کرتی ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرے اور تائب گناہگار کو اپنی جوار

رحمت میں جگہ دے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۰۵)

کہنے اب بھی آپ کی غلطی رفع ہوئی یا نہیں؟

مزید سنئے! قرآن مجید کا عام قانون ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَوَءٌ وُفْ رَّحِيمٌ ۔۔۔ (پ ۲:۶)

**ترجمہ** خدا اسپ لوگوں پر براہمیان اور شفیق ہے۔

مگر خدا تعالیٰ چونکہ باوجود رحیم کریم اور غفار ستار ہونے کے عادل اور انصاف پسند

بھی ہے اس لئے وہ طاعی اور طاغی (فرماتبردار اور نافرمان) کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا اپنے  
عدل و انصاف کے خلاف جانتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ أَمْتَنَّا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقْبِلِينَ كَالْفَجَّارِ ۔۔۔ (پ ۲۳:۱۲)

**ترجمہ** کیا ہم مومن اور نیکو کار لوگوں کا انعام ملک میں فساد کرنے والوں

جیسا کہ دیں گے یا پر ہیز گاروں کو انعام کے لحاظ سے بد کاروں جیسا بنا دیں گے۔

ایسا ہرگز نہیں ہو گا۔

بس یہی وہ پاک تعلیم ہے، جس کو پادری صاحب محل اعتراض کہتے ہیں۔ مگر اہل

نظر اس کی خوبی اور حسن کے پیش نظر کہتے ہیں۔۔۔

اسلام!:

کیا جانے تھے میں کیا ہے کہ لوٹے ہے تھے پہ جی

یوں اور کیا جہاں میں کوئی حسین نہیں!!

آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں۔

”قرآن کے مطابق خدا گناہ کا بانی ہے (اعراف آیت ۷۴)“ نبی اسرائیل یہ اشوری ۳۵، ہود

(۳۶، ۴۰ اورغیرہ) کلمتہ اللہ کی تعلیم اس باطل عقیدہ سے پاک ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۰۵)

**مجیب:** معلوم ہوتا ہے کہ پادری برکت اللہ صاحب پادری عما الدین صاحب کا ترجمہ قرآن سامنے رکھتے ہیں۔ اسی لئے آپ کو قرآن فہمی میں غلطی لگ جاتی ہے۔ ان ساری آیتوں میں صرف سورہ اعراف کی آیت زیر بحث آسکتی ہے۔ باقی آیتوں کا مضمون بالکل صاف ہے، آیت موصوفہ کے الفاظ یہ ہیں۔

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَّنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْأُنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَنْفَقُهُنَّ  
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذْانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ  
كَالْأَنْعَامَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ---- (پ:۹:ع:۱۲)

**تفصیل:** عربی زبان میں لام جارہ دو معنی کے لئے آتا ہے ایک تو معنی علت کیلئے دوسرے معنی غایت کے لئے، جس کو انجام کرتے ہیں علت کا لام وہ ہوتا ہے، جس کا مدخل دوران فعل میں فاعل کی نیت میں موجود ہو۔ جیسے ”ضربته للتدابیب“ (میں نے اس کو ادب سکھانے کے لئے مارا) اس سے معلوم ہوا کہ فاعل کی نیت میں ادب سکھانا داخل ہے۔ غایت کی مثال یہ آیت ہے۔

فَالْتَّقَطَةُ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَّوًا وَ حَزَنًا ---- (پ:۲۰:ع:۳)  
یہ آیت حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصہ میں ہے۔ اس کا ترجمہ پادری عما الدین نے یوں کیا ہے۔

پھر اسے فرعون کے لوگوں نے اٹھایا تاکہ ان کے لئے ایک دشمن اور باعث غم ہو جائے۔  
..... (ترجمہ عما الدین صفحہ ۱۸۳)

**مجیب:** یہ ترجمہ اس لئے غلط ہے کہ فرعون والوں کی نیت میں یہ داخل نہیں تھا کہ وہ بچہ (موسیٰ) ان کا دشمن بن جائے۔ کیونکہ آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تا آخر شود برائے ایشان دشمن

بعض لوگ لام علت اور لام عاقبت میں امتیاز نہیں کرتے بلکہ سرسی طور پر ایسا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ لام عاقبت لام علت کے معنی میں نظر آتا ہے۔ پس آیت زیر بحث کے معنی یہ ہونے کے۔

خدا کی خلوق میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا انجام جنم ہو گا، جس کی وجہ یہ ہے

کہ ایسے لوگ اپنے دل، آنکھ اور کان سے وہ کام نہیں لیتے جن کے لئے یہ اعضاء پیدا کئے گئے ہیں۔ اور نہ دل سے صحیح بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ الٹا اعتراض کئے جاتے ہیں۔ جس کی طرف شیخ سعدی نے اشارہ کیا ہے۔

گل است سعدی و در چشم دشمن خاراست

ہاں پادری صاحب! اپنے گھر کی بھی خبر بیجھے، خدا نے موسیٰ کو فرعون کے مقابلہ میں بیجھے ہوئے کہا تھا۔ میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور اپنی نشانیوں اور عجائب کو ملک مصر میں زیادہ کروں گا، لیکن فرعون تمہاری نہ سے گا۔۔۔۔۔ (خروج باب ۷)

پس جس وجہ سے فرعون کے دل میں یہ سختی پیدا کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں معاذین حق کی گمراہی کی خبر دی گئی ہے۔ جس کا منظر مگر جامع ذکر اس آیت میں ہے۔  
کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قَلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۔۔۔۔ (پ ۳۰: ع ۸)

ترجمہ: ”بد کار لوگوں کے دلوں پر ان کی بد کاری بست بر اثر پیدا کردیتی ہے۔“

آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں۔

”قرآن میں نماز اور دعا کا حکم ہے۔ لیکن وہ زمان و مکان کی قیود سے آزاد نہیں (ناء ۳۶ روم ۱۸، ہود ۲۶، بنی اسرائیل ۸۰، ط ۱۳۰، بقرہ ۱۲۹)۔ چنانچہ حکم ہے کہ نماز خاص اوقات پر اور ایک خاص جگہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے۔ لیکن مسیحیت میں یہ حکم زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے۔ کلمتہ اللہ نے فرمایا کہ ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہئے۔ (لوقا ۱:۸-۲:۱، تینیتی ۵:۷-۸، تمظا ۲:۸ وغیرہ) آپنے کسی خاص جگہ کو قبلہ نہ بنایا (یوحننا ۲:۲۰، ۲۵:۲۰)، اسلام میں دعا سے پہلے ظاہری اور رسکی پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے۔ مائدہ ۹:۸، بقرہ ۱۸۳ وغیرہ لیکن کلمتہ اللہ کی تعلیم میں ظاہری مخالفات کا ناقص پلودور کر دیا گیا ہے۔“

دل کہ پاکیزہ بود جامعہ ناپاک چہ سود

سرکہ بے مفرز بود لغزی دستارچہ سود

اس اقتباس کا جواب کتاب ہذا کے صفحہ ۲ پر درج ہو چکا ہے۔ جس میں بتایا گیا ہے کہ عیسائیوں کی عبادات میں بھی کون و مکال کی پابندی برابر پائی جاتی ہے۔

**لطفہ:** پادری صاحب نے جو فارسی میں شعر لکھا ہے۔ اسے پڑھ کر ہمیں ایک پر اناقصہ بیاد آگیا۔ کسی شاعر کے شعر پر طلباء مدرسہ نے اعتراضات کیے تو شاعر نے کہا کہ

شعر مرا بدرسہ کہ برد  
یہی مثال پادری صاحب کے اس شعر پر صادق آتی ہے۔ پہلے مصرع کو ایسا خراب کیا کہ اگر شاعر سن پائے تو یہی کہے کہ

شعر مرا بگر جا کہ برد  
کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ اس شعر کو پادری سلطان محمد خاں افغان سے صحیح کرالیتے۔  
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی  
آگے چل کر آپ فرماتے ہیں۔

”کلمۃ اللہ (تعزیز) نے فرمایا کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔“ ..... (صفحہ ۱۰۵)

آپ کے سارے اعتراض کا جواب قرآنی لفظ ”خاشعون“ میں ملتا ہے۔ ارشاد

ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاطِعُونَ

(پا: ۸۷)

**ترجمہ:** کامیاب ہو جائیں گے وہ ایماندار لوگ جو خشوع کی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں۔

خاشعین کی تشریع ایک دوسری آیت میں یوں آئی ہے۔

إِنَّهَا لِكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ۝ الَّذِينَ يَطْمَئِنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ..... (پا: ۵)

**ترجمہ:** نماز بے شک ممکن ہے مگر خاشعین پر مشکل نہیں جو جانتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے۔

پادری صاحب کیا اچھا ہوتا کہ آپ قرآن مجید پر اعتراض کرنے سے پہلے کسی قرآن دان استاد سے مطلب سمجھ لیتے۔ میں سچ کرتا ہوں کہ قرآن میں یہ بڑی خوبی ہے کہ مخالفین کے

اعتراضوں کا جواب وہ خود ہی دیتا ہے۔

میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں  
کمر پتلی صراحی دار گردن  
آگے چل کر پادری صاحب نے روزہ کے متعلق اعتراض کیا ہے جس کا جواب اس  
سے پہلے اسی کتاب کے صفحہ ۲۸ پر ہو چکا ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کے حجہ بیت اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ  
”یہودیت اور اسلام میں یہ ممائنت ہے کہ جو جگہ اہل یہود کے مذہب میں یہود و خلم کی ہیکل  
دی گئی ہے۔ وہی جگہ اسلام میں کم کو دی گئی ہے۔ جس طرح یہود اپر و خلم کی ہیکل میں رہتا  
تھا۔ اسی طرح اسلام کا اللہ رب کعبہ ہے۔ انجلیل جلیل کی تعلیم اس اصول سے پاک ہے۔“  
(صفحہ نمبر ۱۰۶)

مجیب: پادری صاحب نے اگر سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی غور سے پڑھی ہوتی تو آپ یہ  
اعترض نہ کرتے، خیر ہم خود ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کا اللہ کون ہے۔  
بزبان قرآن سننے ارشاد ہے۔

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الْرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ ۝  
 بتائیے کہ ان آیات میں رب العالمین کس کی صفت ہے۔ ہم سے پچھیں تو ہم  
بتاتے ہیں کہ

”رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْرَّحْمَانُ، الرَّحِيمُ“ اور ”مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ“ یہ  
چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ہاں ہاں سننے! اسلام کا اللہ وہ ہے جو عیسائیوں کے دونوں  
معبودوں مریم صدیقہ اور اہن مریم (مُحَمَّد) کو بلکہ ساری دنیا کے چھوٹے بڑے انسانوں کو لکار  
کر فرماتا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الظَّاهِرُونَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۝ قُلْ فَمَنْ  
يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۝ إِنَّ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّةً  
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۝ وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْتَهُ  
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ۝ (پ ۶۴: ۷)

**ترجمہ** جو لوگ مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے مکر ہیں اے نبی تم ان لوگوں کو کہ دو کہ خدا اگر چاہتا تو مسیح اور اس کی ماں اور تمام ذینا کو ہلاک کر دیتا، پھر کون تھا جو اس کو روک سکتا، آسمان، زمین اور کل حقوقات کی بادشاہی اسی کے لئے ہے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

**قارئین:** یہ اعلان کیسا باہیت اور پرشکوہ ہے۔ اس میں کسی قسم کا کلف اور قمع فارسی کے اس شعر میں ملتا ہے۔

ہست سلطانی مسلم مرورا

نیت کس را زہر چون وچرا

پادری صاحب! یہ ہے اسلام کا اللہ جو مسیحیت کے معبد اور اس کی ماں کو بھی لکھاتا ہے اور وہ دونوں اس کے سامنے سرجھکائے ہوئے ہیں۔ غور سے سنئے۔

لَنْ يَسْتَنِكُفَ الْمُسِيَّخُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ ---- (پ ۶:ع ۲)

**ترجمہ** مسیح کو اللہ کا بندہ بننے میں ہرگز کوئی عار نہیں ہے۔

یہ ہے اسلام کا اللہ جس کی شان میں مسدس حالی کا ایک بندہم بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔

فرد اور اور اک رنجور ہیں وال مہ و مرادی سے مزدور ہیں وال جہاندار مغلوب و مقمور ہیں وال نبی اور صدیق مجبور ہیں وال

نه پرسش ہے رہبان و احبار کی وال

نه پروا ہے احرار و ابرار کی وال

پادری صاحب! یہ ہے ہمارا اللہ۔ جس کی شان کبریائی کا تھوا ساحمال ہم نے آپ کو

نیایا ہے۔ ذرا پنے معبد کو بھی سامنے لائے اور اسلام کے اللہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کیجئے۔

بس نگ نہ کر ناص ناداں مجھے اتنا

یا چل کے دکھا دے دہن ایسا کمر ایسی

غنیمت ہے کہ پادری صاحب اسلام کے اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے اسلامی تعلیم

کو یہودی تعلیم کے مثال مانتے ہیں اور پھر اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہودی تعلیم تو موسوی شریعت کا نام ہے۔ جس کو مسیح نے تسلیم کر کے واجب العمل قرار دیا ہوا ہے۔ جس کا ذکر ہم کتاب ہدایت کی تہمید میں صفحہ ۲۳ پر کر آئے ہیں۔ ”فتنزک!“ آگے چل کر آپ قربانی پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اسلام میں قربانی کا حکم پایا جاتا ہے۔ لیکن کلمۃ اللہ کی تعلیم اور زندگی نے ایک طرف قربانی کے تصور کو کامل کر دیا اور دوسری طرف اس قسم کے ناقص اور باطل تصورات کو خارج کر دیا۔“..... (صفحہ نمبر ۱۰۷)

مجیب: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے جتنی قسم کی قربانیاں تورات وغیرہ کی تعلیم سے مروج ① تھیں۔ مسیح نے صلیب پر اپنی قربانی دے کر ان سب کو منسوخ یا مرفوع الحکم کر دیا، بت خوب! اسی لئے اب عیسائیوں میں قربانی کا رواج نہیں ہے بلکہ مسیح کی قربانی پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ انہی معنوں میں پلوس کا قول ہے۔

”یہوں نے ہم کو شریعت کی لخت سے چھڑایا، وہ ہمارے لئے لختی ہوا (کلیتیوں باب ۳۰) حالانکہ خود مسیح نے موسوی شریعت کی قربانیوں کو بحال رکھا، ملاحظہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں۔“

”اگر تو قربانگاہ پر اپنی نذر گزارتا ہو تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نذر چھوڑ دے۔ اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کرتب آگر اپنی نذر گزاران۔“..... (متی ۵، ۲۳)

مجیب: اس عبارت سے بالفاظ صریح قربانی کے حکم کی بحال ثابت ہوتی ہے کیونکہ آپ کے نزدیک اگر قربانی کا حکم منسوخ ہوتا تو یوں نہ فرماتے کہ تب آگر اپنی نذر گزاران، بلکہ ارشاد عالی یوں ہوتا کہ قربانی کو ترک کر دے، یہ ایک بری رسم ہے، اچھے بھائی سے صلح کر، یہ کام بت ضروری ہے۔

**قارئین:** یہ ہے موسوی شریعت کی قربانیوں کی محکیل۔ اللہ اللہ کتنی دلیری اور کتنی جرات ہے۔ اس پر منزد لکھنے سے ہمارا دل کاپتا ہے اور قلم لرزائی برا ندام ہے۔

معنقریہ ہے اسلامی قربانی موسوی شریعت کے قربانیوں کے مشابہ ہے۔ مگر شمار میں بہت کم، یہ تخفیف اسلام کی خوبی ہے نہ کہ برائی۔ مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں آگے چل کر پادری صاحب فرماتے ہیں۔

”قرآن میں حرام و حلال خواراک میں تمیز کی گئی ہے۔ (ماہِ ۹۰ءے، انعام ۱۴۲۶ء، وغیرہ) اس قسم کی تعلیم ہم پر عیال کر دیتی ہے کہ قرآن صرف خاص ممالک و اقوام پر ہی حاوی ہو سکتا ہے لیکن کلمۃ اللہ نے اس قسم کی تعلیم کے نقش کو رفع کر دیا اور فرمایا کہ کوئی شے بذاتِ حرام نہیں، انجلیں میں ارشاد ہے کہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی محبت اور إلتاق اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ مسیحیت اس قسم کے باطل عناصر سے یک سر فالی ہے۔“۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۰۸)

**مجیب:** اللہ رے حق سے عداوت! پادری صاحب کو اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے شریعت موسوی کی بھی پروا نہیں ہوتی۔ آپ اگر موسیٰ کی کتاب اتنا نا بد کو سامنے رکھ لیتے تو یہ جرات نہ کرتے، جو آپ نے یہاں کی ہے، دیکھنے خدا حضرت موسیٰ کو حکم دیتا ہے۔

”تو کسی گھونٹی چیز کو مت کھائیو، وہ چارپائے کہ جنیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہمیں اور جنڈ میں سے بھیڑ اور بکری اور ہرن اور آہو اور حمیور اور ہن کوہی اور ریم اور گاؤں میش اور سکنہ کوہی، اور ہر ایک چارپایہ جس کے کھرجے ہوئے ہوں۔ اور اس کے کھر میں شفاف ہوا یا کہ اس سے دو نیچے ہوتے اور جگالی کرتا ہو تو تم اسے کھاؤ گے۔ لیکن ان میں سے کہ جگال کرتے ہیں۔ یا ان کے کھرجے ہوئے نہیں ہیں، تم انہیں مت کھائیو، جیسی اونٹ اور خرگوش اور بیبوع، اس لئے کہ جگالی کرتے ہیں۔ لیکن انکے کھرجے ہوئے نہیں ہیں، پھر یہ تمہارے لئے نیا کا ہیں اور سور بھی کہ اس کے کھرجے ہوئے ہیں پر جگال نہیں کرتے وہ تمہارے لئے

نپاک ہے تم ان کا گوشت نہ کھائیونہ ان کی لاش کو ہاتھ لگائیو!

آبی جانوروں میں سے یہی کھاؤ گے، جتوں کے پر ہوں اور چلکے، تم انہیں کھاؤ گے، مگر جس کے پر اور چلکے نہ ہوں، تم اسے مت کھائیو، وہ تمارے لئے نپاک ہے۔

ہر ایک پر نہ ہو نپاک ہے، تم اسے کھاؤ گے لیکن وہ جن کا کھانا حرام ہے یہ ہیں۔ عقاب اور استوان خوار اور سحری عقاب اور چبلہ اور سفید چبلہ اور گدھ اور جوان کی جنس سے ہیں۔ ہر ایک جنس کو کوا اور شتر منغ اور الہ اور سحری بگلا اور باز کی ہر ایک قسم اور بوم اور چوہے مارا اور کچورا۔ اور حوصل اور رشم اور ماہورا اور لک لک اور بگلا اور جوان کی جنس سے ہوں اور ہدہ اور چگادڑ اور ہر ایک حیوان جو ریگ کے چلے اور اڑے تمارے لئے نپاک ہے تم اسے مت کھائیو۔ سب وہ پر نہ ہو نپاک ہیں، تم انہیں کھاؤ گے۔ جو حیوان آپ سے مر جائے تم اسے مت کھائیو۔”۔۔۔۔۔ (استثناء: باب ۱۲)

**مجیب:** پادری صاحب! آپ نے اسی تعلیم پر ہاتھ صاف کیا ہے یا کسی اور پر۔ غور سے سنئے حرام و حلال کے درمیان امتیاز کی نفی کا اثر دور نہ کپنچتا ہے۔ ایک مسلمان ایک عیسائی دو شخص ہیں۔ ان دونوں نے ہوٹل میں جا کر کھانا طلب کیا۔ مسلمان نے تویرے سے کما۔ میرے لئے بکری کا گوشت اور پانی کا گلاس لاؤ۔ مگر عیسائی نے کما کہ میرے لئے سور کا گوشت اور شراب کا گلاس لاؤ۔ دونوں نے اپنا اپنا من بھاٹا کھانا کھلایا۔

پادری صاحب! فرمائیے کیا یہ دونوں شخص آپ کی نظر میں یکساں ہیں۔ کتاب احbar میں سور کی حرمت دیکھ کر جواب دیجئے، جس میں لکھا ہے کہ

”سور کے کھراں کا وہ حصہ ہوتا ہے اور اس کا پاؤں چڑا ہے۔ پر وہ جگالی نہیں کرتا۔ وہ بھی نپاک ہے تمارے لئے۔ تم ان (جانوروں کے) گوشت سے کچھ نہ کھائیو۔“۔۔۔۔۔ (احباب باب ۱۹)

حرمت شراب کی بابت باشیں کا ارشاد سنئے۔

”سخنہ ہناتی ہے اور سخت کرنے والی ہر ایک چیز غصب آلوہ کرتی ہے۔ جو اس کا فریب کھاتا ہے۔ وہ داشتند نہیں۔“۔۔۔۔۔ (امثال ۱:۲۰)

مسیحی دوستو! پادری برکت اللہ صاحب سے پوچھو کر تم اسلام کی تردید کرنے میں اتنے دلبر کیوں ہو گئے کہ باشیں معنفس پر بھی ہاتھ صاف کر دیا۔ جس سے اہل مذاق کو یہ کہنے کا

موقع ملکہ۔

بازی باریش بیا بازی  
آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں۔

”اسلام میں نعمائے بہشت اور عذاب ہائے دوزخ کی تعلیم موجود ہے۔ اس تعلیم میں صداقت کا جو عنصر ہے وہ مسیحیت میں اپنی پاکیزہ ترین صورت میں پایا جاتا ہے۔“ ..... (یو ۱۳:۲۰، ۲۳:۷) مکا ۷-۲۰، (لو ۲۰:۷-۸، ۲۷:۳، متی ۲۵:۲۵-۳۰) باب باب (وغیرہ) قرآن میں بہشت کی تصویر شراب اور نہروں، عورتوں، غلاموں وغیرہ پر مشتمل ہے، جس سے سلیم الطبع اشخاص تنفس ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسیحیت کے مطابق یہ تمام باتیں ناقص اور باطل ہیں (مرقس ۲۵:۱۲ وغیرہ) یہ تعلیم صرف ان لوگوں کو ہی بھلی معلوم ہو سکتی ہے جو ترقی کی ابتدائی منازل پر ہوں۔ لیکن اس طبقہ کے باہر یہ تعلیم دیگر ممالک و اقوام کی رہبری نہیں کر سکتی اور یہ وجہ ہے کہ اس قسم کے اباطیل کو مسیحیت میں جگہ حاصل نہیں۔“ ..... (سفرہ ۱۰۸)

**مجیب:** بے شک قرآن مجید میں بہشت اور دوزخ کا ذکر ہے اور مفصل ذکر ہے اور انہیل میں دوزخ کا لفاظ اور سورے لفظوں میں ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعی فرماتے ہیں۔

جو پہنچانی کو حقن کئے گا وہ آگ کے جنم کا سزاوار ہو گا۔ ..... (متی ۵:۲۳)

اسی طرح بعض اور مخفمات میں بھی کسی قدر جنم کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں بہشت کا مفصل ذکر کر کے ایک مقام پر مجمل الفاظ میں بھی فرمایا ہے۔  
**وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ** ..... (پ ۷:۱۴)

اس آیت میں زمین کے وارث صالحین کو فرمایا ہے اور زبور کا حوالہ دیا ہے پادری صاحب اگر محققانہ اعتراض کرتے تو یوں پوچھتے کہ قرآن مجید نے زمین کی وراثت نیک بندوں کو دینے کا جو ذکر کیا ہے زبور میں وہ کہاں ہے؟ تو یہ ایک معقول سوال ہوتا۔ خیر آپ نے تو نہیں پوچھا۔ ہم خود ہی بتاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک فیصلہ کن عبارت ہے۔  
حضرت داؤد فرماتے ہیں۔

”صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اب دیک اس میں بھیں گے۔ صادق کامنہ دانائی کی بات

کرتا ہے۔ اس کی زبان سے عدالت کا کلمہ لکھتا ہے اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے۔”۔۔۔۔۔ (زبور ۳۹:۲)

**مجب:** اس کلام حسن التیام میں جن صادقوں کی تعریف بہت اچھے لفظوں میں کی گئی ہے۔ انہیں کو قرآن مجید نے ”الصالحون“ کے لفظ سے یاد کیا ہے اور قرآن مجید نے صادقوں کو جس زمین کی وراشت دینے کا وعدہ کیا ہے وہ وہی ہے۔ جس کا ذکر اس اقتباس میں آیا ہے قرآن میں بہت سو کے لئے جملہ ”خالدین فیہا“ آیا ہے۔ مگر زبور کی مرقومہ عبارت میں کہا گیا ہے۔ کہ وہ صادق ہمیشہ بیسیں گے، مطلب ان دونوں جملوں کا ایک ہی ہے۔ پس ثابت ہوا جنت اور دوزخ کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں کتابوں میں برابر ملتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بائبل میں یہ ذکر بلا جمال ہے اور قرآن میں بالتفصیل، ہاں پادری صاحب کا یہ فقرہ بھی محل افسوس ہے۔ جو آپ نے سلسلہ انبیاء کے مکرین آریہ وغیرہ کے اثر سے لکھ دیا ہے۔

”قرآن میں بہت کی تصویر نہروں، عورتوں، غلاموں شراب وغیرہ پر مشتمل ہے۔“

ان چیزوں کے ذکر میں لفظ شراب نے دانتہ بڑھایا ہے۔ کیونکہ شراب اردو زبان میں نشہ آور پانی کا نام ہے۔ جو ہر عقلمند کے نزدیک بہت بری چیز ہے۔ عربی زبان میں شراب کے معنی ہیں پہنچنے کی چیز، دودھ، پانی، شربت، لی وغیرہ، جنت میں جو شراب الٰہ جنت کو ملے گی وہ نشہ آور نہیں ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يَنْتَفُونَ • ..... (پ ۶۳:۶)

پادری صاحب نے بہت میں عورتوں کے وجود پر بھی اعتراض کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ پیش قرآن مجید نے نعمائے بہت کے سلسلہ میں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا بائبل کے حوالے سے آپ نے مرد عورت کو بڑے فخر سے ایک تن نہیں کہا

۔۔۔۔۔ (دین نظرت صفحہ ۳۵)

پھر جو چیز یہ ملت ہے اسی کو وہاں رحمت قرار دے کر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے غلاموں کا ذکر بھی آپ نے کسی خاص نیت سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ غلام بے شک آیا

① اس میں نہ نہیں ہو گا۔ جس سے الٰہ جنت کے سرچہرا جائیں۔

ہے۔ سنتے! غلام غلام کی جمع ہے۔ اس کے معنی چھوٹے بچے کے ہیں نہ کہ مملوک کے غلام معنی مملوک فارسی زبان کا محاورہ ہے۔ اس لئے دوسری آیت میں ولدان کا لفظ آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ “يَظْلُفُ عَلَيْهِمْ وَلَدُّهُ أَنْ مُخْلَدُونَ”۔۔۔۔۔ (پ ۲۹: ع ۱۹)

ان آجتوں کے معنی یہ ہیں کہ اہل جنت کی اولاد جو دنیا میں بحالت نابالغی مرچکی ہے یا وہاں ان کے حسب خواہش پیدا ہوگی۔ ان کے پاس پھرے گی جوان کے لئے موجب راحت ہوگی۔ اقفالے عقلی یہ ہے کہ جو چیز اس دنیا میں نعمت ہے۔ وہ آخرت میں بھی نعمت ہوگی مرد عورت کا ملاپ قدرتی امر ہے اور دونوں (میاں یوں) کے لئے ایک قسم کی نعمت ہے۔ بس یہ چیز جس طرح دنیا میں نعمت ہے اسی طرح آخرت میں بھی نعمت ہی ثابت ہوگی۔ اسی لئے فرمایا۔

**وَلَهُمْ فِيهَا أَذْوَاجٌ مُّظَهَّرَةٌ** ..... (پ ۱ : ع ۳)

**ترجمہ** یعنی اہل جنت کے لئے جنت میں پاک و امن یوں یا ہو گی۔

انجیل مرقس کے حوالہ مذکور میں یہ توبے نیک لکھا ہے کہ دوسری دنیا میں لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، یعنی نیک کاموں کی جزا روحانی ہوگی۔ لیکن برے کاموں کی سزا جنم میں جسمانی ہوگی۔ ملاحظہ ہو حضرت مسیح کا پہاڑی وعظ۔ آپ فرماتے ہیں۔

”جو کوئی شوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے۔ وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر پکا۔ سو اگر تیری دامنی آنکھ تجھے خور کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک۔ لے کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا۔۔۔۔۔ بدن جنم میں نہ ڈالا جائے۔۔۔۔۔ (متی باب ۵: ۲۷-۲۹)

پس آپ کا یہ کہنا کہ سلیم الطبع اشخاص اس سے تنفسیں ہم تو ایسے لوگوں کے تنفس ہونے کے قابل اس وقت ہوں گے۔ جب کہ وہ دنیا میں بھی اس کام سے تنفس کریں گے ورنہ ان کے حق میں کما جائے گا۔۔۔۔۔

مکرے بودن وہم رنگ متاثر زستن

آگے چل کر پادری صاحب فرماتے ہیں۔

”اسلام میں جہاد کی تعلیم موجود ہے (توبہ ۲۹، ۱۵، ۱۴، ۱۳)“، محمد (ص) وغیرہ) جو صرف خاص قوم اور ملک سے ہی متعلق ہو سکتی ہے، بذریعہ جنگ و جدل لوگوں کو کسی مذہب میں جریہ داخل کرنے

اور لوٹ کامل بقدر میں رکھنے (انفال ۲۰ وغیرہ) کی تعلیم ہرگز اس قسم کی نہیں جس کا اطلاق کل اقوام اور ممالک عالم پر ہو سکے، یہ تعلیم سراسر باطل ہے۔ لہذا کلمۃ اللہ کی تعلیم میں دفع نہیں پاتی، علی ہذا القیاس قران قصاص و انتقام کی تعلیم درستا ہے۔ (بقرہ ۱۹۰، مائدہ ۳۹، شوریٰ ۳۲، نحل ۲۷۲ وغیرہ) لیکن کلمۃ اللہ نے جیسا ہم گذشتہ فصل میں بیان کرچکے ہیں۔ اس قسم کی تعلیم کو باطل قرار دے دیا ہے۔”۔۔۔۔۔ (صفحہ نمبر ۱۰۸، ۱۰۹)

**مجیب:** جہاد کا مسئلہ ہم گذشتہ صفحات میں لکھ آئے ہیں اور باشبل کی شادوت سے اس کا ثبوت دے آئے ہیں اور یہ بھی بتا آئے ہیں کہ مسیح نے جہاد کو پسند کیا ہے، پھر اگر بقول پادری صاحب مسیح کلمۃ اللہ نے اس تعلیم کو باطل قرار دیا ہے تو اسلام کو نہیں بلکہ باشبل مقدس کو باطل قرار دیا ہے۔ حالانکہ پادری صاحب خود لکھتے ہیں کہ ”اس دنیا میں باشبل مقدس ہی ایک واحد کتاب ہے جو صدیوں سے ہزاروں ملکوں اور قوموں کے کروڑوں افراد کے نزدیک آج بھی دیکھی ویسی ہی وقت کے قاتل ہے جیسی وہ اس زمانہ میں تھی۔ جب وہ تحریر میں آئی۔“۔۔۔۔۔ (صفحہ نمبر ۶۷)

ہاں یہ بات بھی آپ نے سنتے سنائے لکھ دی ہے کہ ”جہاد سے غرض لوگوں کو بہراہدہ بہ میں داخل کرنا ہے۔“ ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف میں صاف ارشاد ہے۔ ”لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ“ یعنی دین میں کسی پر کسی قسم کا جبر جائز نہیں ہے۔

اسی طرح آپ کا یہ کہنا کہ لوٹ کے مال پر بقدر کرنے کی غرض سے جہاد کا حکم دیا گیا۔ بالکل غلط ہے۔ جہاد سے مقصود یہ ہے کہ کفار کی طرف سے اہل اسلام پر جو ظلم روا رکھا گیا ہو اس کو دفع کرنے کے لئے حکومت ایسیہ قائم کی جائے۔ جس کو آج کل کی اصطلاح میں پورن سوراجیہ یا مکمل آزاد کتے ہیں۔ جس کے لئے آج کل ہندوستان سخت جانشناہی اور سرفروشی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس جدوجہد میں مسیحی لوگ بھی شامل ہیں۔

مال غیرمت کی بابت باشبل مقدس کا ارشاد ہے! حضرت موسیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ”جب تو کسی شر کے پاس اس سے لڑنے کے لئے آپنے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر، تب یوں ہو گا کہ اگر وہ تجھے جواب دے تو صلح منظور اور دروازہ تیرے لئے کھول دے تو ساری

غلق جو اس شر میں پائی جائے۔ تیری خراج گزار ہو گی اور تیری خدمت کرے گی اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کر۔ اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تکوار کی دھار سے قتل کر۔ مگر عروتوں اور لڑکوں اور مواثی کو اور جو کچھ اس شر میں ہواں کا سارا لوٹ اپنے لئے لے اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھایو۔

(اشناع باب ۱۰۲)

**مجیب:** دیکھئے اس اقتباس میں زیر خط الفاظ کس صفائی سے مال غنیمت کو مبالغ (جاائز) قرار دے رہے ہیں۔ ہم نے یہ الفاظ میسیحوں کی شائع کردہ بائبل سے نقل کئے ہیں۔ کیا مسیحی حضرات نے یہ الفاظ بائبل سے خارج کر دیئے ہیں تو نبی بائبل کا ایک نسخہ ہمیں بھی بھیج دیں۔

قرآن مجید نے مسلمانوں کو جو حسب ضرورت جہاد کا حکم دیا ہے آج ساری ڈنیا یورپی واشیائی قومیں اپنی اغراض کے ماتحت اس پر عمل کر رہی ہیں، کیا اچھا ہو کہ پادری صاحب یورپ جا کر اٹلی کے پوپ کے ہمراہ ہو کر ان لڑنے والی قوموں کو لڑائی سے منع کریں۔ مگر روانگی سے پسلے اپنے پرانے سے میل ملاقات کر لیں، کیوں؟۔ پہنچ کر کے وہیں کے ہو نہ رہنا کوئی جا کر کے کہہ دے نامہ برے باوجود اسلام کا دامن جہاد کے مسئلہ میں ان بد نماد ہبھوں سے بالکل پاک ہے۔ جو آج کل یورپ واشیائی کی جنگ جو اقوام کے دامن پر نظر آرہے ہیں۔ کہ نہ عورتوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ نہ بچوں کو نہ بوڑھوں کو نہ بیماروں کو۔ اس کے برخلاف اسلامی تعلیم جہاد کے متعلق یہ ہے۔

قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللہِ الَّذِينَ يَنْقَاذُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

(پ ۳۴)

**ترجمہ** ان لوگوں سے لڑو جو ثم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو۔

پادری برکت اللہ صاحب نے خدا جانے کس نیت سے (بھول کر یا حق کی عداوت کی وجہ سے) قرآنی حکم قصاص پر بھی اعتراض کیا ہے، قصاص بدله لینے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے

قصاص کے مسئلہ میں تورات کو بھی شامل کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنفُ  
بِالأنفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجَرْوَحَ قِصَاصٌ

(پ ۶:۴۱)

**ترجمہ** ہم نے نبی اسرائیل کو تورات میں حکم دیا تھا کہ جان کے بد لے جان اور آنکھ کے بد لے آنکھ اور کان کے بد لے کان، دانت کے بد لے دانت اور زخم بھی قتل بد لے ہیں۔

اگر پادری صاحب حق کے متلاشی ہوتے تو ہم سے پوچھتے کہ اس حکایت کا مخفی عن تورات میں کہاں؟ مگر وہ ایسا کیوں کرتے۔ جب کہ ان کو تحقیق حق سے مطلب ہی نہیں ان کو توبقول۔

مجھے تو ہے منظور مجنوں کو لیلی نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی مسیحیوں میں مسیحیت کی فضیلت کا اظہار منظور ہے۔ خیر وہ جانیں اور ان کا کام ہم تو اپنا فرض ادا کئے دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے کا ثبوت درج ذیل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

”بِبُو إِنْسَانٍ كُوْمَارَ ذَالِجَانَے گا اور جو کوئی حیوان کو مارَ ذَالِجَانَے تو وہ اس کا عوض حیوان کے بد لے حیوان دے اور اگر کوئی اپنے ہمسایعے کو چوٹ لگائے تو جیسا کریکا ویسا ہی پائے گا۔ تو زنے کے بد لے تو زنا، آنکھ کے بد لے میں آنکھ، دانت کے بد لے دانت، جیسا کوئی کسی کا نقصان کرے اس سے ویسا ہی کیا جائے اور وہ جو حیوان کو مارَ ذَالِجَانَے اس کا بدلہ دے وہ جو انسان کو مارَ ذَالِجَانَے مارا جائے۔“..... (کتاب الاخبار باب ۲۳:۱۷)

اسی کے ساتھ ہی حضرت مسیح کا ارشاد ذیل بھی سن لیجئے۔

”میں تم سے بچ کتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین میں نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوش تورات میں ہرگز نہ مٹے گا۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔ پس جو کوئی ان حکموں میں سے سب سے چھوٹے حکم کو ٹال دیوے اور ویسا ہی آدمیوں کو سکھا دے (چاہے سکھانے والا کوئی بڑا پادری ہو) وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کھلائے گا۔“..... (متی باب ۵:۱۸)

قارئین!: قرآن، تورات اور انجیل کے حوالہ جات مرقومہ پڑھ کر پادری صاحب کی جرات ملاحظہ کیجئے۔ کس دلیری سے لکھتے ہیں کہ کلمۃ اللہ نے اس قسم کی تعلیم کو باطل قرار دیا ہے مگر یہ نہ سوچا کہ ہمارا یہ حملہ صرف قرآن پر نہیں بلکہ تورات، انجیل اور حکف انبیاء سب پر ہے۔ جیرت ہے کہ آپ مسیحیت کو عالمگیر ثابت کرتے ہوئے قصاص کے حکم کو باطل قرار دے رہے ہیں کیا ذینیا کے ممالک متعددہ ایسی مسیحی تعلیم کو جو قصاص و انقام کے خلاف ہو۔ منظور کر لیں گے، حاشاد کا کیا خوب قرآنی مجہزہ ہے کہ پادری صاحب خود ہی اپنے مدعا مقصود کے خلاف لکھتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

البجا ہے پاؤں یار کا ڈاف دراز میں  
لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا  
آگے آپ صفحہ ۱۰۹ پر لکھتے ہیں۔

”عورت کی حیثیت کے متعلق احکام قرآن میں پائے جاتے ہیں (نماء ۲۳، بقرہ ۲۲۳ وغیرہ) یہ احکام عرب جاہلیت کو سدھارنے کی خاطر وضع کئے گئے تھے۔ ان میں سے جو صداقت کے پہلو ہیں وہ بدرجہ احسن انجیل جلیل میں موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم اس باب کی فصل اول میں ذکر کرچکے ہیں۔ لیکن قرآنی تعلیم کے ناقص پہلو مثلاً تعداد ازوایج، طلاق وغیرہ (نماء آیت ۳، بقرہ ۲۳۱ وغیرہ) صرف خاص ملک قوم اور طبقہ کے ساتھ ہی تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اور ان کے اصول کا اطلاق کل ذینیا کے ممالک و اقوام پر نہیں ہو سکتا۔ لذایچ تعلیم عالمگیر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور یہی وجہ ہے کہ مسیحیت ان تمام ناقص غیر مکمل اور باطل عناصر سے پاک ہے۔“..... (صفحہ ۱۰۹)

پادری صاحب نے فصل اول کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے۔ وہ درج ذیل ہیں۔

”کلمۃ اللہ کے زمانے میں جنسی تعلقات کا فیصلہ مردوں کے ہاتھوں میں تھا۔ تمام روئے زمین کی عورتوں کی قسمت کی بآگ دوڑ مردوں کے ہاتھ میں تھی۔ دیگر مذاہب عالم یہ فرض کر لیتے تھے کہ عورت ذات کو کسی نہ کسی کے قبیلے میں ہوتا ضرور ہے منوری کی طرح ان مذاہب کے مطابق عورت کا بچپن، عالم شباب غرض کر اس کی زندگی کی تمام منزیلیں آدمیوں کے ہاتھوں میں تھیں اور یہ ضروری خیال کیا جاتا تھا کہ جس طرف مردان کی بآگ کو موڑیں وہ چلیں۔ یہ

بھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آیا تھا۔ کہ عورت کا وجود کسی مرد کے جبالہ نکاح میں آئے بغیر ممکن ہو سکتا ہے۔ دنیا کے تمام غیر مسیحی مذاہب یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس دنیا میں عورت کا وجود اس واسطے ہے کہ وہ کسی کی ملکوود یہوی بن کر اپنی زندگی بر کرے۔ وہ قوم اور ملک کے لئے پچ پیدا کرنے والی مشین خیال کی جاتی ہے، مسیحیت ہی اکیلا واحد مذہب ہے جس میں یہ تعلیم وی گئی ہے کہ عورت بغیر نکاح کے اور بغیر مال منقولہ متصور ہوئے اپنی زندگی عزت کے ساتھ بر کر سکتی ہے۔ ایک سورخ کہتا ہے کہ مسیحیت کا بڑا مجزہ یہ ہے۔ کہ اس دنیا میں ایک کنواری عورت مدت العر کنواری رہ سکتی ہے۔ گلمتہ اللہ کی طفیل عورت بذات خود ایک مستقل ہستی ہو گئی ہے۔ وہ خود غرض انسان کے جنسی تعلقات کو پورا کرنے اور اس کی شہوت کا آلہ کار نہیں رہی بلکہ وہ مرد کی طرح خدا کی فرزند بن گئی ہے اور مرد کے ساتھ خدا کی پادشاہت کی ہم میراث ہو گئی ہے اور مسیح کے ساتھ روحانی رفاقت رکھنے والی ہو گئی ہے اور مرد کے بدن کی طرح عورت کا بدن بھی روح القدس کا مسکن بن گیا ہے۔

(صفحہ ۳۲)

**مجیب:** ان عبارتوں میں جو کچھ پادری صاحب نے کہا ہے۔ وہ صرف ان کا ذریعہ قلم ہے حقيقة یہ ہے کہ قرآن مجید نے عورت کو جو درجہ دیا ہے۔ اس سے پہلے کسی نہ ہبی کتاب نے نہیں دیا۔ اور یہ مجیب بات ہے کہ قرآن نے یہ درجہ اس وقت دیا جب کہ ساری دنیا میں عورتوں کو مال موروث کی طرح سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ پادری صاحب نے مسیح زمانہ کا نقشہ دکھلایا ہے۔

بس اب عورت کی حیثیت کے متعلق قرآنی ہدایت سنئے۔ ارشاد ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَئِنْ خِيَّبَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ  
(پ ۲: ع ۱۲)

**ترجمہ** کوئی مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کرے ہم اس کو پاک زندگی دیں گے، ازدواجی زندگی کے متعلق ایک ہدایت یہ ہے۔ غور سے سنئے!

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ --- (پ ۲: ع ۱۲)

**ترجمہ** جس قدر حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں اسی قدر عورتوں کے

مروع پڑیں۔

**اطلاع:** تورات و انجیل بلکہ وید وغیرہ نے بھی عورتوں کو جس قدر کم درجہ دیا ہے۔ کسی اور کتاب نے اس قدر کم درجہ نہ دیا ہو گا۔ اصولاً عورت کی چار حیثیتوں ہیں۔ کسی کی ماں ہے تو کسی کی بیٹی، کسی کی بن ہے تو کسی کی بیوی، قرآن مجید نے ان چاروں حیثیتوں میں عورت کو ترکہ میت سے مالی حصہ دلایا ہے۔ مگر غیر قرآن کتب نے ان چاروں مراتب میں عورتوں کو اپنے موروں کے ترکہ سے محروم رکھا ہے۔

**اس پر ستم ظرفی:** ملاحظہ ہو کہ عورت کو جو بچہ جتنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بھی گناہ کی وجہ سے بتائی جاتی ہے نہ اس کے اپنے گناہ سے، بلکہ بہت اوپر چل کر ملائی حوا کے گناہ کے سبب عورت کو بتلائے عذاب کہا گیا ہے۔ چنانچہ بقول مسیحی حضرت آدم و حوا کی نافرمانی کی وجہ سے خدا نے عورت کو جو سزا دی اس کے متعلق موجودہ تورات کے الفاظ یہ ہیں۔

”اس (خدا) نے عورت سے کماکہ میں تیرے حمل میں تیرے درد کو بڑھاؤں گا اور درد سے تو لڑ کے جنگی اور اپنے خصم کی طرف تیار شوق ہو گا اور وہ تھجھ پر حکومت کرے گا۔“

(پیدائش ۱۶:۳)

**قارئین:** کیا مزید اربابات ہے اور کیا انصاف ہے، اسی کو کہتے ہیں۔

کرے داڑھی والا اور پکڑا جائے موچھوں والا

خدائی حکم کی خلاف ورزی کرے ملائی حوا اور سزا بھکتیں مسیحی لیڈیاں ①

ہاں قرآن مجید عورت پر جبر نہیں کرتا کہ وہ ضرور شادی کرے، کوئی عورت اگر کنواری رہنا چاہے تو بے شک رہے۔ مگر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک شادی کی بجائے کئی ایک خفیہ تعلقات پیدا کریں ② پس آپ کا یہ کہنا کہ۔

① مسیحی عورتیں دروزہ کی تکلیف میں بھلاہوتی ہیں۔ پھر ہم نے مسیحی لیڈیوں کی تخصیص کیوں کی؟

محض ان کے نہ ہی معتقد کے لحاظ سے۔ درود خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں۔ منہ

② آیتے کرید ”وَلَا مُثْقِلَّاتٍ أَخْدَدَن“ کی طرف کوئی اشارہ ہے۔ منہ

”ذینا کے تمام غیر مسکنی مذاہب یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس ذینا میں عورت کا وجود اس واسطے ہے کہ کسی کی منکود بیوی ہن کر زندگی بسر کرے، وہ قوم اور ملک کے لئے بچے پیدا کرنے کی مشین خیال کی جاتی ہے۔“---- (صفحہ ۳۲)

ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، ہمارے علم میں کسی مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے۔  
ہاں آجکل اخباروں میں یہ پڑھا ہے کہ

جرمنی کے ڈائیٹری ہٹلنے اپنے ملک میں یہ سرکلر جاری کیا کہ  
عورت کا کام بچے پیدا کرنا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔

سو یہ اس سے پوچھنا چاہئے۔ ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں۔ البتہ ہم یہ کہنے سے نہیں رک سکتے کہ قانون قدرت کی مخالفت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بس سمجھ لجئے کہ آئندہ قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے قدرت کا لحاظ کریں۔ ورنہ قدرت کی مشین کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ کسی نچپل شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ہم ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں  
جب آنکھیں چار ہوتی ہیں محبت آہی جاتی ہے  
عورت کی حیثیت کے متعلق مزید بحث گذشتہ صفات پر گزر چکی ہے۔  
**نوٹ:** آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں کہ

”قرآن میں اصول مواغات صرف مسلمانوں کے دائرة تک محدود کیا گیا ہے۔“---- ( مجرات: ۱۰)  
مسیحیت میں اخوت کا اصول بدرجہ احسن موجود ہے (متی ۹: ۲۲، ۸: ۲۳ وغیرہ) اس مضبوط پر ہم گذشتہ فصل میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔ صداقت کا وہ عنصر جو قرآن کی تعلیم اخوت میں اپنی اعلیٰ ترین صورت میں انجلیل شریف میں موجود ہے (یوحتا ۱۳: ۳۲، ۳۵: ۳۴) کر دیا گیا ہے ( مجرات ۱۰) اور دوسروں سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔  
”فتح ۲۹، اफال ۷، مائدہ ۶۲، مسیحہ ۸ وغیرہ) کلتہ اللہ کی تعلیم نے اس ناقص اور غیر مکمل حد کو توڑ کر نوع انسانی کی اخوت کا سبق دیا ہے۔“---- (متی ۵: ۲۳، ۳۰: ۱۰، ۳۷: ۳ مئی ) (صفحہ ۱۰۹، ۱۱۰)

**محبب:** اخوت کا ذکر بھی کتاب ہذا کے گذشتہ صفحات پر آچکا ہے۔ اس کے آگے آپ لکھتے ہیں۔

”ہم نے اسلام اور قرآن کے اہم اصول پر نظر کر کے دیکھا ہے کہ ان اصولوں میں جو صداقت کے پہلو ہیں وہ سب کے سب مسیحیت کی پاکیزہ ترین صورت میں پائے جاتے ہیں لیکن قرآنی تعلیم کے ناقص، غیر مکمل اور باطل پہلوؤں کو مسیحیت میں کہیں دخل نہیں، لہذا مسیحیت ان تمام صداقتوں کو اپنے اندر جمع رکھتی ہے۔ جو اسلام کی کامیابی کا باعث ہیں۔ لیکن ان تمام اباظل سے پاک ہے۔ جو اسلام کی ناکامی کا باعث ہیں، ہم نے اس مضمون پر ایک اور کتاب میں مفصل بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسلام ان ناقص اور غیر مکمل عناصر کی وجہ سے عالمگیر نہ ہب نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ مسیحی نہ ہب تمام صداقتوں کا مجموعہ ہے اور ان میں باطل اصول ہرگز دخل نہیں پاتے، لہذا صرف وہی عالمگیر نہ ہب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔“۔۔۔۔۔ (صفہ ۱۱۰)

**محبب:** آپ نے قرآن کی جس جس تعلیم پر یہاں اعتراض کیا ہے۔ ہم سب کا جواب دے چکے ہیں آپ کی اس مادیہ ناز کتاب کا جواب تیرے باب میں آئے گا۔  
انشاء اللہ تعالیٰ

ہمیں پادری صاحب سے یہ سخت شکایت ہے کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو نباہتے نہیں، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ آپ یا تو مدعاً کا منصب جانتے نہیں یا بھول جاتے ہیں۔ اس کتاب کا نام آپ نے ”مسیحیت کی عالمگیری“ رکھا ہے، یہ نام آپ کے دعویٰ کی تشریح کرتا ہے کہ آپ اس بات کے مدعاً ہیں کہ صرف مسیحیت عالمگیر نہ ہب ہے۔ مگر ہم نے آپ کی جتنی عبارتیں پیش کی ہیں۔ ان سب کا مضمون قرآن مجید پر حملہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کتاب کا نام اور منصب یاد نہیں رہا مہا شہ دھرم پال لی۔ اے نے رسالہ ”ترکِ اسلام“ لکھا تھا۔ وہ ہر ایک نمبر میں قرآن مجید پر اعتراض کرتا تھا اس کی ہمیں شکایت نہ تھی۔ کیونکہ اس کی کتاب کا نام ہی اس کے دعویٰ کے اظہار کے لئے کافی تھا۔ اس کا منصب مسیحیت کی برتری ثابت کرتا ہے۔ اس لئے از روئے علم مناظروہ آپ کے اور مہا شہ دھرم پال کے منصب میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ خود یا آپ کا کوئی مددگار یہ کے کہ اس رسالہ میں قرآن

مجید کا ذکر ہم نے اس لئے کیا ہے تاکہ اس کے مقابلے میں مسیحیت کی عالم گیری ثابت ہو سکے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال بھی غلط ہے کیونکہ مسیحیت کی عالمگیری کا مقابلہ ہر ایک دین بلکہ لادینی سے بھی ہے، پھر خاص اسلام پر حملہ کرنے سے اصل دعویٰ کو کیا تقویت پہنچ سکتی ہے۔ ایک آریہ یاد ہے آپ کے مضمون کو سن کر پہنچ دے گا، ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن مجید پر اعتراض نہ کریں بلکہ کریں اور جی کھول کر کریں۔ اسی لئے قرآن مجید ڈنیا بھر کے مخالفین کو لکار کر کرتا ہے۔

ہاں تامل دم نادک ٹھنڈی خوب نہیں  
میری چھاتی ابھی تیروں سے چھنی خوب نہیں  
پادری صاحب اپنا اصل دعویٰ یوں بیان کرتے ہیں۔

**مسیحیت کی جامعیت:** مختلف مذاہب کے اصول کے مطالعہ سے قارئین پر واضح ہو گیا ہو گا کہ مختلف مذاہب حق اور صداقت کے صرف مختلف پہلوؤں پر بھی زور دیتے ہیں۔ اور باقی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً ہندو مذہب میں ہمہ اوتی عقیدہ کا قائل ہو کر خدا کے رفع اور بلند بالا ہونے پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ خدا اور انسان میں ایک وسیع خلیج حاصل کر دی گئی ہے۔ علی ہذا القياس اگر اسلام ایک صداقت پر زور دیتا ہے تو دوسری کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر ہندو مذہب ایک قسم کی صداقت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور دوسری کی صداقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن مسیحیت میں صداقت کے مذکورہ بالادنوں عناصر پہلو بہ پہلو ایک ہی نظام میں منظم ہو کر ہم کو نظر آتے ہیں۔ کلمۃ اللہ کی تعلیم کے مطابق خداوند قدوس محبت کا خدا ہے جو بنی آدم سے بلند بالا بھی ہے اور اپنی ازلی محبت کی وجہ سے ہر فرد و بشر کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے۔ بدھ مت میں عدل و انصاف پر بے حد زور دیا گیا ہے۔ لیکن اس مذہب میں محبت کو جو انسان کے دل کو فی الحقیقت بدل دیتی ہے۔ نظر انداز کر دیا گیا ہے، مسیحیت میں خدا کی محبت اور خدا کا عدل دونوں پہلو بہ پہلو پائے جاتے ہیں۔ چین کے کنفوشیش کا مذہب دنیوی تعلقات کی پاکیزگی پر زور دیتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ تعلقات اس ازلی تعلقات کا عکس ہیں جو خدا اور انسان کی ذات سے متعلق ہیں مسیحیت میں ازلی اور دنیاوی تعلقات دونوں پر زور دیا گیا ہے۔

جلپاں کا شنونہ بہب حب الوطنی کا سبق سکھاتا ہے لیکن اس مذاہب کے نزدیک ملک کی محبت صرف ایک ملک یعنی جلپاں تک محدود ہے۔ لیکن مسیحیت صداقت کے اس عصر کو کامل کر کے تعلیم دیتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے ملک اور قوم کے ساتھ بلکہ تمام ممالک و اقوام کے ساتھ محبت کریں۔”۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۰۰)

مجیب: اس جامیعت کا جواب ہم گذشتہ صفحات میں دے چکے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سب کا خالق اور مالک ہے۔ ذینا کی ساری خلق اس کے سامنے عاجز و بے چارہ ہے۔ باوجود اس کے خدا اور بندے کے درمیان کوئی خلیج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ صاف لفظوں میں فرماتا ہے۔

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ  
ترجمہ ”خدا انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔“

ہُوَ مَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنْشِمْ

ترجمہ ”تم جہاں کہیں ہو گے، خدا تمہارے ساتھ ہو گا۔“

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

ترجمہ ”خدا سب لوگوں کے حال پر مریمان ہے۔“

چین و جلپاں کے متعلق آپ نے جو کچھ لکھا ہے۔ اس کے جواب وہ ہم نہیں۔ بلکہ وہی لوگ ہیں۔ گوہم اس اعتراض کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔  
آگے چل کر آپ فرماتے ہیں۔

”حق تو یہ ہے کہ ادیان عالم کی مختلف صداقتیں صرف مسیحیت میں ہی جمع ہو کر محفوظ رہ سکتی ہیں۔ کیونکہ ان مذاہب میں صداقت کا عنصر بطالت کے عناصر کے ساتھ اس قدر ملا جلا ہوتا ہے کہ صداقت کے عنصر کی ہستی یہیش معرض خطر میں رہتی ہے۔ ان مذاہب میں صداقت اور بطالت کے عناصر ایک جگہ باہم غلط ملط پائے ہیں۔ مثلاً اگر کسی الہامی کتاب میں ایک صفحہ پر خدا کی قدوسیت کی تعلیم دی گئی ہو اور اس کے اگلے صفحہ پر ایسی باتیں ہوں جو مغرب اخلاق ہیں تو صداقت کا عنصر انسانی زندگی کو کس طرح متاثر کر سکے گا؟ ان مذاہب میں غلط تصورات کے بادل اور کالی گھٹائیں صداقت کے عناصر کی شاعروں کو چھپائی ہیں اور صداقت کی طاقت

کمزور پڑ جاتی ہے اور روحلی تاریکی چھا جاتی ہے۔”۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۱۲)

**مجیب:** یہ اعتراض تو الٹا مسیحیت پر وارد ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مسیح کی شخصیت کو خدا نے مجسم تباہی جاتا ہے۔ جسکے معنی یہ ہیں کہ وہ سب قدرتوں اور طاقتلوں کا مالک ہے۔ ادھر اس کو دشمنوں کے ہاتھوں چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ جس پر یہ صادق آتا ہے۔

پسندیدہ اندر راجہ حنو جاگت حنو کنگال  
مسیح اس عاجزانہ حالت میں صلیب پر لٹکے<sup>①</sup> ہوئے گویا یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔  
ضعف نے غالب نکلا کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے  
بلور نتیجہ پادری صاحب لکھتے ہیں۔

”کلمتہ اللہ کے اصول کی روشنی میں کل ذینا کے مذاہب اس بات کی سرتوڑ کو شش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اصولوں کی اصلاح کریں۔ ہندو و هرم اب وہ نہیں رہا جو پچاس سال پلے تھا۔ اسلامی تعلیم اب وہ نہیں رہی جو بچپنی صدی میں مکتبوں اور مسجدوں میں ممبروں پر سے دی جاتی تھی۔ دیناونی ملannoں کے وعقولوں پر اسلامی ممالک مثلاً مصر، ایران، ترکی وغیرہ میں کوئی صحیح العقل شخص دھیان نہیں دیتا۔ چین اور جاپان کے مذاہب کا بھی یہی حال ہے۔ مسیحی تصورات نے ان کے عقائد اور رسوم کی بطالات کو ایسا ظاہر کر دیا ہے۔ کہ ان کے پیرو مسیحیت سے متاثر ہو کر ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں۔“۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۱۳)

**مجیب:** پادری صاحب ایسے روشنی کے زمانہ میں آپ جیسے تعلیم یافتہ کے قلم سے ایسے الفاظ کا لکھنا عجب العجائب سے ہے۔ سب سے زیادہ مسیحی مذہب کے حامی زار اور اس کی رعایا برایا تھی جو ترکی سلطنت کی عیسائی رعایا کی ہمدردی کی آڑ لے کر ہمیشہ ترکی سے بر سر پیکار رہتے تھے کہ ہم چونکہ عیسائی مذہب کے پیرو ہیں اس لئے ترکی کی عیسائی رعایا کی امداد کرنا ہمارا فرض ہے۔ بتائیے آج کل روں میں مذہب کی جو مشی پلید ہو رہی ہے وہ کلمتہ اللہ کے اثر سے ہے؟ اس کے بعد جرمی میں دیکھئے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں پائیں کی بجائے

① صلیب پر مسیح کی تصویر کتاب بد امیں صفحہ ۱۲۰ پر دیکھو۔

کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، پھر اٹلی میں آجائے اور دیکھئے کہ پوپ اعظم چلا رہا ہے اور کوئی اس کی بات نہیں سنتا، پھر فرانس، یونان اور انگلستان کی سیر کیجھے۔  
آہ! کلمۃ اللہ کی یہ تعلیم کیسی صاف، سُنْری اور چمک دار ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔  
”میں تمیں کہتا ہوں کہ ظالم کا مقابلہ نہ کر بلکہ تیرے داہنے گال پر طماچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔“---- (متی باب ۳۹:۵)

موجودہ جنگ (۲۰۱۴ء) میں یورپ جو آتشِ فشانی کر رہا ہے۔ شاید کلمۃ اللہ کی اسی تعلیم کی روشنی میں کرتا ہو گا وہ قیانوی ملنوں کو غلط تعلیم کے ترک ہونے سے اسلام کی اصلی تعلیم پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔

ہم نے یورپ کے ان ممالک کی جو مثالیں دی ہیں ان میں کسی دیقانوی پادری کی تعلیم نہیں چھوڑی گئی۔ بلکہ خود مسیح کلمۃ اللہ کی پاکیزہ تعلیم کے اصول چھوڑے کئے ہیں اسی طرح پادری صاحب نے یہ کیا معقول فقرہ فرمایا ہے کہ ”کلمۃ اللہ کی تعلیم نے ہندوستان کو اس قدر متاثر کر رکھا ہے کہ ہندو اور مسلمان اپنے اپنے مذہب کی کاثر چھانٹ کر کے ان کو مسیحی تصورات کے مطابق کرنے کی کوشش میں مشغول ہیں۔“

(صفحہ ۱۱۵) مسیحی مذہب کا اعلیٰ تصور اور بنیادی پھر مسیح کی شخصیت (الوهیت) ہے جس کا ذکر آپ نے بار بار سینکڑوں صفحات پر کیا ہے، کیا مسلمان اس تصور کی روشنی کو تسلیم کر چکے ہیں، ہم نے جہاں تک دیکھا اور دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان علی الاعلان کرتے ہیں۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

---- (پ ۶:ع ۱۳)

ترجمہ کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔

معلوم نہیں آپ کو ایسے مسلمان کہاں ملے جو مسیحی مذہب کی روشنی میں اسلامی تعلیم کی کاثر چھانٹ کر رہے ہیں۔ البتہ ہم اس کتاب کے تیرے باب میں دکھائیں گے کہ بعض اشخاص جو مختلف اسلام لفظیات کے مصنف ہیں آیت موصوفہ ”لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ“ کی

تصدیق کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔  
آگے چل کر پادری صاحب فرماتے ہیں۔

ہم نے اس رسالہ کے باب اول میں لکھا تھا کہ عالمگیر مذہب کے لئے ضروری ہے کہ اس کا  
بانی ایک عالمگیر نمونہ ہو۔ نوع انسانی کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لئے ایک کامل انسانی نمونہ کی  
ضرورت ہے۔”۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۶، ۲۷)

**مجیب:** بالکل ٹھیک ہے اور رسولہ آنے صحیح ہے۔ اس کے ساتھ اپنا یہ فقرہ بھی ملا جائے۔  
**مجیب:** ”جب ابن اللہ اس ذیلیا سے آسمان پر صعود فرمائے تو آپ ورش کے طور پر اپنے پیچے کوئی  
کتاب نہ چھوڑ گئے۔ ① جو اصول پر مشتمل ہو۔ بلکہ آپ نے مسیحی کلیسا کو ورش کے طور پر  
کو ورش کے طور پر اپنا کامل نمونہ دیا (صفحہ ۲۷) باقی تمام نما اہب اپنی دینی کتب کو پیش  
کرتے ہیں۔ جو مختلف اصولوں کا مجموعہ ہیں۔ لیکن مسیحیت کسی کتاب یا اصول پر مشتمل نہیں۔  
اگرچہ اس کے اصول اعلیٰ وارفع اور ہمہ گیری ہیں۔ مسیحیت کا تمام دارود مدار کلمۃ اللہ کی زندہ  
شخصیت پر ہے۔”۔۔۔۔۔ (۱۸)

**مجیب:** ہم پادری صاحب کے شتر گزار ہیں کہ وہ اس بحث کو اب مرکز بر لے آئے ہیں۔  
**مجیب:** حقیقت یہی ہے کہ مسیحیت مروجہ کامدار کار مسیح کی شخصیت ہی ہے۔ اگر پوچھو  
کہ مسیح کی شخصیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہم اپنے لفظوں میں نہیں بلکہ پادری صاحب ہی  
کے اصل الفاظ میں بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

”برنخ کبری اور انسان کامل اور مظہر جامع صرف وہی شخص ہو سکتا ہے۔ جو کہ کامل خدا اور  
کامل انسان ہو۔ صفات تدبیہ الیہ اور صفات مکمل انسانیہ کے ساتھ متصف ہو۔ کیا اہل اسلام  
آنحضرت میں ان صفات کا وجود مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں کیونکہ نبی اسلام کو مظہرات قرار دینا

❶ قرآن مجید میں حضرت مسیح کو جو انجیل ملنے کا ذکر آتا ہے۔ عیسائی لوگ اس کے ثبوت میں آیات  
قرآنیہ پیش کر کے کہا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں مذکور ہے۔ ”آئینۃ لِأنجیل“ (خدانے مسیح کو  
انجیل دی) مسلمان یہ مسلموں کے ہو اب میں پادری برکت اللہ صاحب کا یہ مقولہ پیش کر دیا کریں  
کہ مسیح نے کوئی کتاب نہیں چھوڑا۔ یہ چار کتابیں حقیقت مسیح کے خواریوں کی تصنیفات ہیں۔ ہم  
پادری صاحب کے شتر گزار ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا یہ بوجہ بلکا کر دیا۔۔۔۔۔ (غیب)

اصول اسلام کو بدلتا ہے۔ لیکن رہنا مسیح ان تمام اوصاف سے متصف ہیں اور وہ آپ میں انسب اور اکمل طور پر موجود ہیں۔”۔۔۔۔۔ (یو حنا: ۳۰، صفحہ ۱۲۹)

اسی مضمون کو عیسائیوں کے رسالہ ”اخوت“ لاہور نے ذرا واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔  
چنانچہ لکھا ہے کہ

”مسیحی نہ ہب نے نہایت ہی وضاحت اور بے باکی کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے کہ خدا نے انسانی شکل اختیار کی۔ انسانوں کے درمیان خیس زن ہوا اور اپنے جملہ الٰہی اوصاف کا کامل مظاہرہ یسوع ناصری میں ہو کر کیا۔“۔۔۔۔۔ (اخوت لاہور بابت دسمبر ۱۹۷۰ء صفحہ ۲۳)

مجیب: الٰہی اوصاف کا نمونہ تصویر کی شکل میں دکھائیں۔ کیونکہ الفاظ کی شکل میں مفصل بحث ہم اس کتاب میں گذشتہ صفحات پر کرچکے ہیں۔

شاعر لوگ اپنا دلی جذبہ اور محبت اکثر اوقات لفظوں میں بیان کیا کرتے ہیں۔ مگر گاہے گاہے مصوروں سے تصویر کشی کی درخواست کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں۔۔۔۔۔

مصور کچھی وہ نقشہ جس میں یہ رسائلی ہو  
ادھر توار کچھی، ہو ادھر گردن جھکائی ہو  
اسی بناء پر ہم بادل تجوہ است بقول نصاری مسیح کی شخصیت الیہ کا خوفناک انجام تصویر  
میں دکھاتے ہیں۔ یہ تصویر خود عیسائیوں نے شائع کی ہوئی ہے۔

اعتراض: مسلمان قارئین ہمیں معاف رکھیں۔ کیونکہ ہم ایک مکروہ فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسلامی حیثیت سے ہماری مثال اس صلح کی ہوگی جو دو شخصوں کے درمیان صلح کرتا ہو اور خود کو مصلحت آمیزیات کہہ دیتا ہے۔

انجیل متی میں لکھا ہے کہ  
”یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اس کے ہاتھوں کو تختے کے بالائی حصے کے ساتھ ملا کر میغیں گازی گئیں اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ اس حالت میں اس نے نہایت عاجزی و زاری کے ساتھ چلا کر جان دی۔“۔۔۔۔۔ (انجیل متی باب ۷)

جس کا نقشہ ص ۱۲۲ کی تصویر دیکھنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔  
 بالاضاف قارئین اگر اس تصویر کو غور سے ملاحظہ فرمائیں گے تو ہماری اس آواز سے متفق ہوں گے کہ ہم حسب مضمون آیہ کریمہ "لَا أَبِثُ الْأَجْيَالِنَّ" ایسی کمزور شخصیت کو خدائی کے لئے پسند نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہمارا یقین ہے کہ کوئی بھی اہل بصیرت اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اسی لئے مسیحی رسالہ اخوت کے فاضل ایڈیٹر نے انجلیل سے مسیح کا قول کہ "میں اور باپ ایک ہیں۔" نقل کر کے نہایت راتی سے اس پر ان الفاظ میں ریمارک کیا ہے۔  
 بلا ریب اس قسم کے بیانات نہایت وحشت انگلیز اور لرزہ خیز ہیں اور آج بھی انہیں سن کر اہل دنیا کے دلوں میں (مسیحیت سے) کچھ کم کراہیت اور نفرت پیدا نہیں ہوتی۔۔۔۔۔

(اخوت لاہور بابت جنوری ۲۳ صفحہ ۱)

**معاصر "اخوت"** کا یہ ریمارک بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ باوجود اختلاف ملک زبان محبیب اور معاشرت کے ہر ایک قوم بلکہ ہر ایک شخص کا خدا کی نسبت یہ یقین ہے کہ۔  
 پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ نیستد آنچہ ہستی توئی  
 قرآن شریف نے خدا کی بہت سی صفات بیان کی ہیں۔ مگر ایک آیت میں ایک ہی صفت ایسی بیان کی ہے۔ جس پر سارا مدد ہے اور اسی صفت پر الوہیت کو متყع کیا ہے۔  
 ارشاد ہے۔

هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ .۔۔۔ (پ ۲۳ : ع ۱۲)

**ترجمہ** خدا تعالیٰ ازلی ابدی طور پر زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سوا

کوئی معبد نہیں۔

پس کوئی مسلمان بلکہ کوئی عقائد انسان ایسی ہستی کو خدا نہیں مان سکتا جو چلا کر جان دے۔

مولانا حالی مرحوم نے اس مضمون کی ایک رباعی کیا ہی اچھی لکھی ہے۔۔۔  
 ہستی سے ہے تیری رنگ و بو سب کیلئے طاعت میں ہے تیری آبر و سب کے لئے  
 ہیں تیرے نسوا سارے سارے کمزور سب اپنے لئے ہیں اور تو سب کے لئے

اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔

(مقولہ مسیح درا نجیل)



(یسوع مسیح صلیب پر)

ع

دیکھئے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہے

قارئین: باتین کرنے کو توبت ہیں جو انسان کر سکتا ہے اور قلم بھی چلا سکتا ہے۔ لیکن مرکزی نقطہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جس سے دنالوگ رمز پاجاتے ہیں۔ باقی سب زبانی ہیر پھیر ہوتا ہے۔

حکایت ماضیہ! میر عبدالرحمان خاں مرحوم والی کامل فرزانہ روزگار تھے ہم نے ان کی زندگی میں ان کی پابت ایک حکایت سنی تھی کہ کسی شخص نے ان کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ فلاں شخص کے پاس میں نے اتنا روپیہ امانت رکھا تھا۔ اور وہ واپس نہیں دیتا۔ عدالت کی طرف سے مدعاویہ کو طلب کیا گیا۔ اپنے بیان میں اس نے روپیہ لینے سے انکار کیا۔ اس پر مدعاوی سے گواہ طلب ہوئے، اس نے کہا ”حضور! جس پیڑ کے نیچے میں نے اس کو روپیہ دیا تھا۔ وہی گواہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی گواہ نہیں ہے۔“ امیر موصوف نے بظاہر غصے کے لمحے میں مدعاوی سے کہا کہ جاؤ اسی پیڑ کو گواہ لاو اور مدعاویہ کو کہا کہ یہیں بیٹھے رہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے مدعاویہ سے پوچھا کہ وہ اس پیڑ کے پاس پہنچ گیا ہو گا؟ مدعاویہ نے کہا نہیں جناب! وہ پیڑ بست دور ہے یہ جواب سن کر امیر موصوف حقیقت حال سمجھ گئے اور آپ نے فوراً مدعاوی کو تلاش کرایا۔ جب وہ واپس آگیا تو اس سے کہا۔ تیری اس پر ڈگری ہو گئی ہے۔ کیوں ہوئی۔ مدعاویہ اتنا تو جانتا ہے کہ وہ پیڑ بست دور ہے۔

یہ ہے فرزانگی۔ اسی فرزانگی کے ماتحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ان ڈوبنے والوں کو خدائی کے لئے پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ڈوبنے یا تنزل کرنے والوں کو خدائی کے لئے پسند نہیں کیا تھا۔ ہم ان کے اتباع ہو کر مرنے والوں کو کیسے خدا مان سکتے ہیں۔ جس حال میں کہ خدا کے متعلق ہمارا عقیدہ رائخ یہ ہے۔

ن تجھے کام ہے نہ شیوه تیراشیون  
ن تجھے دوست کی حاجت ہے نہ اندیشہ دشمن

ن تجھے چاہئے مادی ن تجھے چاہئے مسکن

بری از خوردن و خفن بری از تمث مروان

بری از نیم و امیدی بری از رنج بلائی!! ظفر شاہ دہلی۔

قرآن مجید نے دنیا کے لوگوں کو جس خدا کی طرف بلایا اس کا وصف اعلیٰ (خلقیت)

مکمل بیان کیا، پھر اس وصف کو دوسرے معبودوں سے پودے طور پر منفی کر کے حقیقت حال پر یوں اطلاع دی۔ غور سے نہیں!

يَا إِيَّاهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ  
بِرَزْقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُؤْفَكُونَ

(پ ۲۲:۱۳)

**ترجمہ** (اے لوگو! اپنے حال پر اللہ کی مہربانیاں یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو تم کو اپر (بادلوں) سے اور پیچے (زمین) سے رزق دیتا ہے۔ (کوئی نہیں کیونکہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں (جو ایسا کر سکے) پھر تم کہاں برکاتے ہو۔

پھر اپنے سوا غیروں سے خالقیت کی نقی کرنے کو فرمایا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝  
آمُواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ۝ (پ ۱۳:۸)

**ترجمہ** جن جن معبودوں کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں۔ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ محل موت ہیں (بعض مردھے ہیں اور بعض مردھائیں گے) دام الیات نہیں ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔

یہ ہے خداۓ برحق کے متعلق اسلامی تعلیم کہ وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ ہے اور ساری مخلوق کو زندگی بخشتا ہے۔ جس میں یہ صفت نہیں ہے۔ وہ معبود نہیں ہو سکتا اسی لئے قرآن مجید میں سچ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے متعلق ارشاد ہے۔

كَانَ أَيْأً كُلَّا لِنِ الظَّعَامَ ۝ (پ ۶:۱۳)

**ترجمہ** سچ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی غذا کے محتاج تھے۔ پھر معبود کیسے ہوئے؟ اسی واضح حقیقت پر اظہار تعجب کرتے ہوئے فرمایا۔

أَنْظُرْ كَيْفَ تُبَيِّنُ لَهُمُ الْأَيَّاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنْتَى يُؤْفَكُونَ

(پ ۶:۱۳)

**ترجمہ** دیکھو ہم کس طرح لوگوں کے لئے اپنے دلائل بیان کرتے ہیں۔ پھر۔

دیکھو مجع کو مانے والے کس طرح بہکائے جاتے ہیں۔

اسی مضمون پر تفریغ کرنے کو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مریم انما انا عبدالله  
ورسوله۔ (--- الحدیث)

جس کا مطلب مولانا حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں یوں لدا کیا ہے۔

نصاریٰ نے جس طرح کھایا ہے دھوکہ کہ سمجھے ہیں عیسیٰ کو بیٹا خدا کا  
مجھے تم سمجھنا نہ زنمار ایسا میری حد سے رتبہ بڑھانا نہ میرا

سب انسان ہیں واں جس طرح سرگندہ

اسی طرح ہوں میں بھی اک اس کا بندہ

قارئین کرام!: یہ ہے اسلام اور مسیحیت کی تعلیم۔ اب اس امر کا فیصلہ کہ کون سا  
مذہب اہل عقل کے نزدیک قابل قبول ہے اور کون سا قابل ترک،

آپ کے ہاتھ میں ہے۔

### پادری صاحب:

میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر

بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر



## میسیحیت کا دوسرا بنیادی پتھر یا کفارہ مسیح

میسیحیت مروجہ کا دوسرا بنیادی پتھر مسیح کا کفارہ ہے۔ شروع سے احکام شریعت خدا تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام پر نازل ہوتے رہے تاکہ لوگ ان پر عمل کر کے نجات حاصل کریں۔ چونکہ شرعی احکام پر عمل کرنا نفس پر بہت مشکل ہے۔ اس لئے ابتداء ہی سے بت سے لوگ ان احکام کے نافرمان رہتے چلے آئے ہیں۔ ان نافرمانوں کو دیکھ کر میسیحیت کی اشاعت کرنے والوں کو یہ تجویز سو جبھی کہ مصلوب قرار دے کر گنگاروں کے لئے کفارہ مان لیا جائے۔ کفارہ سے مراد ایسا معاوضہ ہے جو گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہو۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد پولوس کے کلام میں ملتی ہے۔ جس نے اپنے ایک خط میں اپنے مکتوب الیہ (گلیوں) کو لکھا کہ۔

”مسیح جو ہمارے لئے لعنتی ہے۔ اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔“

(گلیوں باب ۳: ۱۱۳ از باطل مطبوعہ ۱۹۶۲ء)

اسی لئے عیسائیوں کی اصطلاح میں مسیح کا نام منجی جہاں ہے۔ چنانچہ پادری برکت اللہ صاحب نے اپنی کتاب ”میسیحیت کی عالمگیری“ کا چوتھا باب مسیح منجی جہاں کے عنوان سے معنوں کیا ہے۔

قارئین کرام! زیر نظر کتاب کے نام ”میسیحیت کی عالمگیری“ کو ملحوظ رکھئے اور مسیح کفارہ پر غور کیجئے۔ جو اس مذہب کا اصل الاصول ہے۔ پادری صاحب نے احکام شریعہ کو بے حقیقت بتانے کے لئے تمدید میں لکھا ہے۔

اصول اور احکام نجات نہیں دے سکتے:

”روئے زمین کے تمام مذاہب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو شرعی احکام تلاویں۔ اور ساتھ ہی نصیحت کر دیں کہ اگر ان پر ثم عمل کرو گے۔ تو نجات حاصل کرو گے۔ مثلاً یہودیت اور اسلام شریعت پر اور شرعی احکام پر زور دیتے ہیں اور یہ تلقین کرتے ہیں کہ بنی

نوع انسان ان اُنی احکام کو اپنا نصب الحین بنا کر ان پر عمل کریں (استثناء ۲۳-۱۳، حرفی ۱۳-۱۲، سورہ توبہ ۱۰۶) سورہ کف (اوغیرہ) اگر کوئی انسان صالح اعمال کرے گا تو اس کا جرپائے گا (حرقی ۵-۱۸، سورۃ بقرۃ ۲۳-۲۷، سورہ نساء ۲۷-۲۸ اوغیرہ) اگر وہ اعمال بد کار مردکب ہو گا تو اس کو سزا طے گی۔ (ایوب ۲۰-۱۱، سورہ طہ ۲۷، قمر ۷-۳)۔۔۔۔۔ (میحیت کی عالمگیری ۳۰۶، ۳۰۷)

**مبیب:** احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی تأکید صرف موسوی شریعت (تورات) اور اسلامی شریعت قرآن ہی سے مخصوص نہیں۔ بلکہ مسیح بھی یہی فرماتے ہیں۔  
اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔۔۔۔۔ (یوہ ۱۳:۱۵)

بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ

”پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا۔ وہ آسمان کی پادشاہت میں سب سے چھوٹا کملائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا۔ وہ آسمان کی پادشاہت میں بڑا کملائے گا۔۔۔۔۔ (متی ۵:۱۹)

معلوم نہیں کہ مسیحیوں کو حضرات انبیاء خصوصاً مسیح سے بلکہ خود خدا سے کیا احمد ہے کہ احکام شرعیہ کو بے کار اور فضول قرار دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ بلکہ بقول مقدس پولوس شریعت کو لعنت قرار دیتے ہیں۔۔۔۔۔ (گلیتوں ۲:۱۳)

”اس سے آگے پادری صاحب اپنانی الاضیر ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ لیکن یہ مذاہب اور دیگر مذاہب عالم گناہگار شخص کو کوئی موثر طریقہ نہیں بتلاتے جس سے وہ اپنے گناہوں پر فتح حاصل کر سکے۔ یہ مذاہب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اور روحانیت کی دنیا میں مختار ہے۔ لیکن کوئی ایسی راہ نہیں بتلاتے جس سے یہ مختار دور ہو سکے۔ وہ روحانی دنیا کے قوانین اور احکام کے بارے میں تلقین کرتے ہیں۔ لیکن کوئی وسیلہ نہیں بتلاتے۔ جس سے انسان گناہ اور بدی کو ترک کر کے نیکی کی راہ کو اختیار کرنے کے قابل ہو جائے۔ وہ صرف یہ تأکید کرتے ہیں کہ ایک کو ترک کرو اور دوسرے کو اختیار کرو۔ لیکن ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ گنہگار انسان کو قوت عطا کریں اور انسان ضعیف البیان کو طاقت عطا کرے۔ اس قائل بنا دیں کہ وہ اپنی اعلیٰ ترین آرزوں اور امنگوں پر عمل کر سکے، وہ نجات کے راستے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن تھکے ماندے کمزور اور مذہحال را ہر کو یہ طاقت اور

توفیق عطا نہیں کرتے کہ وہ اس شاہراہ پر چل سکے۔ ”۔۔۔ (صفحہ ۲۰۷)

مجیب: پادری صاحب کا یہ کلام نہ صرف اسلام کے خلاف بلکہ کل انبیاء علیہم السلام کی متفقہ تعلیم کی تردید کرتا ہے۔ جوانی کی بائبل میں بصورت صحف سابقہ موجود ہے۔ خیر ہمیں اس سے مطلب نہیں، آپ جانیں اور آپ کا اعتماد، ہاں ہمیں اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ آپ نے قرآن مجید سمجھنے پر کافی وقت نہیں لگایا۔ آپ کے اس شے کو قرآن مجید نے کتنی جگہ حل کیا ہے۔ لطف یہ ہے، نہایت مختصر لفظوں میں حل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا ہے۔

(۱) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِي يَنَّهُمْ سُبْلَنَا ① ..... (پ ۲۱: ع ۳)

(۲) فَامَّا مَنْ أَعْظَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُّيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ② ..... (پ ۳۰: ع ۷)

(۳) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ أَمْنَوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ③ ..... (پ ۳: ع ۲)

ان سب سے مختصر اور موثر ارشاد یہ ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ④

(پ ۳۰: ع ۲۳)

غور سمجھئے! اس آیت میں کیسے متواتر طریق سے انسان کو نیکی کرنے سے اور بدی سے بچنے کی راہ دکھائی گئی ہے۔ اگر ایسی ہدایات کو بھی کوئی شخص اپنے لئے کافی سمجھے تو اس کے حق

❶ جو لوگ ہمارے دین میں کوشش کریں گے۔ ہم اپناراست ان کو دکھائیں گے ۱۴ من

❷ جس شخص نے خدا کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی باتوں کی تصدیق کی تو بت جلد ہم اس کو آسانی کی توفیق دیں گے ۱۴ من

❸ اللہ تعالیٰ مونوں کا دالی ہے۔ ان کو کفر و شرک کے اندر ہمروں سے نور ہدایت کی طرف را ہنما کرتا ہے۔ ۱۴ من

❹ جس شخص نے ذرہ بھر تکی کی ہو گی۔ وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بیدی کی ہو گی۔ وہ اسے دیکھ لے گا۔ ۱۴ من

میں کہا جائے گا۔

اگر صد باب حکمت پیش نداش بخواہی  
آیدش بازیچہ درگوش

پادری صاحب اس مضمون کی مزید تشریح کرتے ہوئے حسب عادت خوب طول دیتے ہیں۔ چونکہ ان کا مضمون قارئین تک پہنچانے میں ہمیں بھل نہیں۔ اس لئے ہم ان کا اصل کلام نقل کر دیتے ہیں۔

”سطور بالا سے ظاہر ہو گیا ہو گا کہ مجرد اصول اس قابل نہیں ہوتے کہ کسی گنجائی انسان کی قوت ارادی کو از سرنو بحال کر سکیں۔ اصول بظاہر خوب صورت نظر آتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر ریے طاقت نہیں رکھتے کہ جس شخص کی قوت ارادی سلب ہو چکی ہے اس میں نی جان ڈال دیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی حادثہ کی وجہ سے نانگ نوٹ گئی ہو اور وہ نیم جان ہو کر سڑک کے درمیان مجبوری اور لاچاری کی حالت میں پڑا ہو اور سڑک پر ایک موڑبے تھا شا اس کی جانب چلی آتی ہو تو اگر تماشائی بر لب سڑک کھڑے ہو کہ اس کو چلا چلا کر آنے والے خطرہ سے آگاہ کرنے پر ہی اکتفا کریں تو اس غریب کو کیا فائدہ ہو گا؟ اس کی نانگ نوٹی ہوئی ہے۔ وہ چل پھر تو درکنار ہل نہیں سکتا اس کی آنکھ تیز رفتار موڑ کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن وہ لاچار پڑا ہے۔ موت اس کو سامنے نظر آرہی ہے۔ اس کو تماشیوں کی آگاہی کی ضرورت نہیں۔ وہ آنے والے خطرہ سے خود آگاہ ہے۔ اس کو کسی نذری کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ تماشائیوں میں سے کوئی شخص اس سے ایسی محبت رکھے کہ وہ اس کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور موڑ کے پہنچنے سے پہلے اس کو سڑک پر سے اٹھا کر سلامتی کی جگہ پر لے جائے۔ اسی طرح ہر گناہگار جو گناہ کی غلائی میں لاچار اور گرفتار ہے۔ جانتا ہے کہ اس کا حشر کیا ہو گا۔ بلکہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے اور اس کی قوت ارادی کو جو سلب ہو گئی ہے۔ از سرنو تقویت دے۔ دیگر نماہب میں یہ الہیت ہی نہیں ہوئی کہ گناہگار انسان کو اعمال صالح کی تحریک و ترغیب دے سکیں۔ اس سے پہنچ کر وہ اعلیٰ اصول پر عمل کر سکے۔ یہ لازم ہے کہ اس میں اس قسم کی تحریک پیدا ہو جائے۔ جو اعلیٰ اصول پر چلنے کی خواہشمند ہو۔ عالمگیر نہ ہب کے لئے ضروری امر ہے کہ وہ گناہگار انسان کی مردہ قوت

ارادی میں از سر نو زندگی کی روح پھونک دے اور اپنی قدرت سے اس کو قوت عطا کرے۔ گناہگار انسان اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے اور عادت کا غلام ہو کر بدی کا مقابلہ کر کے چور اور لاچار ہو جاتا ہے اور ایسا تحکم جاتا ہے کہ اس کی کمرہست نوث جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے۔ ایسے اشخاص کے سامنے خداوند سُج نہ صرف اعلیٰ اور ارفع اور اپنا کامل اور اکمل نمونہ پیش کرتا ہے۔ بلکہ علی الاعلان دعوت دیتا ہے۔ اے زحمت کش اور گناہ کے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں تم سب میرے پاس آؤ۔ میں تم کو آرام دوں گا۔”۔۔۔۔ (متی ۲۸:۱۰، یوحنا ۳:۲۷ وغیرہ)۔۔۔۔

(صفحہ ۲۰۹)

**مجیب:** آپ نے جو کسی لٹکڑے کی مثال دی ہے۔ وہ اول تو جسمانی مثال ہے۔ روحانی نہیں۔ نہ ہب روحانی طریق کا نام ہے۔ علاوہ اس کے وہ ہمارے مخالف بھی نہیں۔ قرآن مجید اس کا حل نہیت مختصر لفظوں میں پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

**یَهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ**۔۔۔۔ (پ ۲۵: ع ۳)

**ترجمہ:** ”جو شخص خدا کی طرف ذرا سماجی رجوع کرتا ہے خدا اس کو ہدایت کر دیتا ہے۔“

جس طرح یہ تائگ کٹا (لتگڑا شخص) جب چینچتا چلاتا ہے تو اس کو اٹھانے والا کوئی رحم دل آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص خدا کی طرف ذرا سماجی جھک جاتا ہے اور دل میں لٹکڑے کی طرح عذاب اللہ سے بچنے کی خواہش رکھتا ہے۔ خدا اس کی دلکشی کرتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس اقتباس میں آپ نے یہ فقرہ عجیب لکھا ہے کہ دیگر نہ ہب میں یہ الہیت ہی نہیں کہ گناہگار انسان کو اعمال صالح کی تحریک و ترغیب دے سکیں۔۔۔۔ (صفحہ ۲۰۹)

سبحان اللہ! جس مضمون سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ آپ اسی کا انکار کرتے ہیں غور سے نہ! ارشاد ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّّحِيمُ

(پ ۲۳: ع ۳)

**ترجمہ** ”اے پیغمبر! میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو کہ وہ میری رحمت سے نامید نہ ہو جائیں۔ بلکہ میری طرف آئیں۔ میں ان سب کے گناہ بخش دونوں گا۔ کیونکہ میں لختیار ہوں۔“

”میں میرے پاس آئیں تم کو آرام دون گا۔۔۔۔۔ (متی ۱۱:۸)

اس سوال کے جواب میں نہ ہم اپنی کہیں اور نہ آپ سے پوچھیں گے۔ بلکہ خود مسیح کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو اس کا جواب پالیں گے۔ جس کا خواہ اور نقل ہو چکا ہے کہ متلاشی نجات بڑی ترپ سے سوال کرتا ہے کہ نجات پانے کے لئے میں کیا کروں؟ تو مسیح کی طرف سے جواب ملتا ہے تو ہمکوں پر عمل کر۔

یہ تو ابھی مسئلہ کفارہ کی تمهید ہے۔ اس کی تصوری کیا ہے۔ بقول پادری صاحب تصویر

حسب ذیل ہے۔

”منجی عالمین نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگرچہ گناہگار انسان خدا کی محبت سے بغاوت کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تاہم خدا کی محبت اٹل ہے۔“۔۔۔۔۔ (سعیاء ۳۵-۵۱، ۳۶-۲۶ وغیرہ)

خدا کی محبت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا گناہگار فرزند ہلاک ہو (۱۸-۱۳) بلکہ اس بات کی خواہاں ہے کہ بدترین گناہگار ہمیشہ زندگی پائے (یوحننا ۳-۲) خدا کی محبت ہمیشہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ گناہگار اس کی طرف رجوع کرے (لوقا ۱۵:۱ا-ب) اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو وہ گناہگار کی تلاش میں نکلتی ہے (لوقا ۱۹-۱۰، ۳-۷، ۵-۷، متنی ۶-۱۰، ۸-۱۲ وغیرہ) جس طرح ایک باب اپنے گم گشته فرزند کو تلاش کرتا ہے۔ خدا کی محبت گناہگار کو تلاش کرتی ہے۔ (حرقی ۱۱: ۳۳-۲۰، لوقا ۱۵-۲۰، متنی ۹-۱۳، یو ۱۰-۲۸، پطہ ۲۵-۲ وغیرہ) جس طرح ماں کی متناپنے ناخلاف بیٹے کے لئے بے چین رہتی ہے۔ اور اس کا دل اپنے بچے کے لئے تزیباً رہتا ہے۔ جب تک وہ بچہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اسی طرح خدا کی محبت بے قرار اور بے چین رہتی ہے (سعیاء ۱۵-۳۹) جب تک اس کا گناہگار بیٹا اس کی لازوال محبت کو دیکھ کر توبہ کر کے یہ نہیں کرتا۔ ”اے باب میں تیری نظر میں گناہگار ہوا اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بینا کملاؤ۔“ (لوقا ۱۵-۲۲) جب گناہگار تائب ہو کر رجوع کرتا ہے تو منجی عالمین فرماتے ہیں کہ ایک توبہ کرنے والے گناہگار کی بابت آسمان کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔۔۔۔۔

(لوقا ۱۵-۱۰) پس خدا کی محبت گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ "خدا نے ڈنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بینا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ بلکہ ہیش کی زندگی پائے۔"

(یوحننا ۳-۲۱) صفحہ ۲۱۰

پادری برکت اللہ صاحب سے پہلے بھی مسیحی مصنفوں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ ہم ایک انگریز پادری ڈبلیو گولڈ سیک صاحب کے رسالہ اکفارہ سے چند فقرے نقل کرتے ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں۔

"جو لوگ توبہ کو گناہ کی معافی کافی ذریعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بے شک خدا کے رحم کو پیش کرتے ہیں۔ اس میں تو کلام نہیں کہ خدار حیم ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ منصف اور عادل بھی ہے وہ عادل ہو کر گناہگار کو کس طرح معاف کر سکتا ہے۔ جب تک کہ عدل کے تقاضے کو پورا نہ کر لے۔ حق تو یہ ہے کہ گناہگار انسان کی نجات صرف ایسے طریقے سے ہو سکتی۔ جس میں خدا کے تمام اوصاف قائم رہیں۔" (اکفارہ صفحہ ۳)

مجبیت: یہ اصول جو ہم نے اکفارہ سے نقل کیا ہے۔ پادری برکت اللہ صاحب کو بھی مسلم ہونا چاہئے۔ اس لئے اب پادری صاحب اور ان کے ہم نواہ مارے سوالات ٹھنڈے دل سے سن کر ان پر غور کریں۔

۱۔ کفارہ عدل خداوندی کے خلاف ہے۔ کیونکہ ایک بے گناہ شخص (مسیح) کو سزا دینا اور ان اصل گناہگاروں کو چھوڑ دینا عدل و انصاف کے صریح خلاف ہے۔

۲۔ تمام ڈنیا کے گناہگاروں کا شمار تکجھے۔ پھر ان کی عمروں کا حساب لگا کر گناہوں کا اندازہ تکجھے تو یہ گناہ عدد و شمار کی حد سے گزر جائیں گے۔ مگر ان سب گناہوں کے بدлے میں سزا صرف ایک شخص (مسیح) کو اتنی دی گئی جو چند منشوں میں ختم ہو گئی۔ خدا کا ایسا کرنا اپنے بیٹے کی رعایت میں قانون ٹھنڈی کرنا نہیں تو کیا ہے؟

۳۔ واقعہ صلیب سے پہلے کڑوڑ ہاگناہگار انسانوں کی بخشش کے لئے کیا انتظام ہوا؟ کیا ان کے حق میں رحم ہوا یا عدل کیا گیا؟ اگر کوئہ کہ ان پر رحم کیا گیا تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ کفارہ مسیح سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ پادری

برکت اللہ صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

”خدا کی محبت لگانے گاروں کی مغفرت کا باعث ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بینا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ ہلاک نہ ہو۔ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔“

(صفحہ ۲۱)

میسح سے پہلے لوگوں کو مسح کی خبر بھی نہ تھی۔ اس لئے وہ آپ کے کفارے پر ایمان کیسے لاسکتے تھے۔ نیز یہ کیا انصاف ہے کہ پچھلے لوگوں کو تو کفارے سے فائدہ دیا جائے اور پہلے لوگوں کو اس نعمت غیر مترقبہ سے بالکل محروم رکھا جائے۔  
۔۳ پادری ڈبلیو صاحب مصنف رسالہ اکفار لکھتے ہیں کہ

”جب کوئی جرم ایک بار ثابت ہو چکا تو قانونی تقاضا لازمی امر ہے۔ اگر قانونی تقاضا لمحظہ نہ رکھا جائے اور مجرم سزا نہ پائے تو قانونی اصول پامال ہوں گے اور انسان خاک میں مل جائے گا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عدل و انصاف کے تمام اصول و قواعد انسان کو خدا ہی نے سکھائے ہیں۔ پس کیا خدا خود ان قواعد و قوانین کے برخلاف کر سکتا ہے۔ جن کو اس نے خود بنایا ہے۔“ (اکفارہ صفحہ ۳)

مجیب: پادری ڈبلیو صاحب کے اس قول کی روشنی میں پادری برکت اللہ بتائیں گے کہ اگر جرم لوگ محض کفارہ مسح پر ایمان لا کر چھوٹ جائیں تو خدا کا عدل کیسے قائم رہ سکتا ہے۔

۔۴ بقول عیسائیاں عموماً اور بقول پادری برکت اللہ صاحب خصوصاً مسح کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ پھر اس مرکب کا کون سا جز کفارہ ہوا۔ الوہیت کفارہ ہے یا انسانیت یادوں کا مجموعہ؟ الوہیت کافرا ہو نا تو ناممکن ہے۔ کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ الوہیت بھی جرم ٹھہرے۔ اس لئے کہ جو مجرموں کے گناہ کو اٹھاتا ہے وہ حکماً جرم ہے ”تعالیٰ اللہ عن ذالک غلُوّا سَكِبْتُ“ اکیلی انسانیت بھی کفارہ نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی انسان جو مال کے پیٹ سے نکلا ہے بے گناہ نہیں ہو سکتا، (ایوب باب ۱۵۱، ۱۳) جو خود بے گناہ نہیں ہے۔ وہ گناہ گار انسان کا کفارہ کیسے ہو گا۔

۔۵ پادری برکت اللہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ

”خدا نے دنیا کو اپنا بیٹا بخش دیا۔“-----(صفہ ۲۱)

اس جملہ میں تین شخص نظر آتے ہیں (۱) واهب (۲) موهوب (۳) موہوب لہ۔ واهب تو خدا ہوا اور موهوب لہ سب بنی آدم۔ موهوب کیا چیز ہے۔ اگر آپ کہیں کہ موهوب سچ ہے تو یہ کہتا غلط ہے۔ کیونکہ آپ اسی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ سچ کا قول ہے کہ ”میں اور باپ ایک ہیں۔“ اس کے علاوہ رسالہ ”اخوت“ کی عبارت کتاب ہذا کے صفحہ پر نقل ہو چکی ہے۔ جس کا مضمون ہے کہ خود خدا نے تجسم اختیار کیا۔ ان دونوں قولوں کا مفہوم یہ ہے، واهب اور موهوب ایک ہی ہستی کے دونام ہیں۔ الگ الگ دو ہستیاں نہیں ہیں کیا اس پر یہ شعر صادق نہ آئے گا۔

وہی قاتل وہی مجرم وہی خود منصف نہرے  
اولیاء میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر  
کفارے پر ایک معنی خیز سوال: صاحب سے ایک معنی خیز سوال کرتے ہیں۔

سوال: انسان کی زندگی کے تین زمانے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ ان تینوں زمانوں میں انسان گناہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ فرض کرو آج کوئی شخص دن کے بارہ بجے مسجی ہو کر کفارے پر ایمان لایا ہے کیا اس کے صرف زمانہ ماضی کے گناہ معاف ہوئے یا ان کے ساتھ زمانہ حال اور مستقبل کے بھی؟ اگر صرف زمانہ ماضی کے گناہ معاف ہوئے ہیں تو اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ جس میں نہ کسی قسم کی رعایت ہے نہ بے انصافی چنانچہ صاف ارشاد ہے۔

فُلْ لِلَّهُدِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّهُؤُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ -----(پ ۹:۱۶)

مکروہ کو کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایسا کفارہ ہے کہ اس کے لئے نہ سولی کی ضرورت ہے نہ کسی بے گناہ کے کشت و خون کی۔ اگر کفارہ سے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو شریعت مطہرہ جوانبیاء کرام کی معرفت دنیا میں نازل ہوئی ہے بے کار ہو جاتی ہے۔ پھر عیسائیوں کا یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ

”بائبل مقدس اظہار کرتی ہے۔ خداوند تعالیٰ کی مرضی انسان کی حالت نجات کی راہ گناہگار کے انعام اور اہل ایمان کی خوشنودی کا اس کے قوانین جبراک آئین حاوی الحامہ اس کی تواریخ صادق و راست اور اس کے فیصلے لا تبدیل ہیں۔ اس کی تلاوت کروانا ہونے کے لئے اس میں روشنی ہے۔ تمہاری رہبری کے لئے خوراک ہے۔ تمہاری زندگی کے لئے اور راحت ہے۔ تمہاری خوشنودی کے لئے یہ سیاحوں کا نقشہ ہے۔ زائروں کا عصا اور جہاز رانوں کا قطب نما۔ سپاہیوں کی شمشیر اور مسیحیوں کا دستور العمل۔ اس کی طفیل جنت از سر نو نصیب ہو جاتی ہے۔ آسمانی بادشاہی کے در کھل جاتے ہیں اور جنم کے پھانک بند ہو جاتے ہیں۔“

(رسالہ المائدہ لاهور بابت فروری ۱۴۲۳)

قارئین! اس عبارت میں اس بائبل کی تعریف کی گئی ہے۔ جس میں انجلیل کے علاوہ تمام گذشتہ نبیوں کے صحیفے درج ہیں۔ نیز آپ کے رسالہ زیر جواب (مسیحیت کی عالمگیری) کے صفحے ۶ پر بائبل کی تعریف میں آپ کا رطب اللسان ہوتا کیا حقیقت رکھتا ہے کیا اسی کے حق میں یہ مثل مشور ہے۔

ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

پادری برکت اللہ صاحب سے پہلے ایک بڑے پادری (ثامس ہاول) نے اپنی کتاب اثبات اکفارہ میں جواب دیا ہے۔ وہ بھی قابل دید اور شنید ہے۔ موصوف لکھتے ہیں۔

” واضح ہو کہ کفارہ اس لئے نہیں ہوا کہ اس وقت گناہ کے امکان کو مٹاڈا لے بلکہ وہ تو اس

لئے ہوا ہے کہ گناہگار کو خدا کی سزا اور عدل کی حقیقی سزا سے بچائے اور گذشت حال و آئندہ

کے گناہوں کی معافی کے لئے تو کفارہ کافی ہو چکا ہے۔ لیکن انسان کی فعل مختاری جھپٹنی نہیں

گئی۔ اور نہ عرضی، عبرتی، تسمیٰ سزاوں کو جو جرام کے روہ تنزل کرنے کے لئے انتظامی

ہیں۔ وہ دور کرتا ہے۔ انسان کو اختیار رہتا ہے کہ جس گناہ سے بچایا گیا ہے۔ پھر اس میں پر کر

چاہے تو اپنا نقصان کر لے یا اس سے بچا رہے۔ سو کفارہ ہمیں گناہوں اور ان کی سزا حقیقی سے

بچاتا ہے۔ بشرطیکہ ہم ثابت قدم رہ کر اپنا ایمان خداوند یوسع الْمُسْعِ کفارہ دینے والے پر

رکھیں۔ پس کفارہ ہمیں سزا وہ عدل کی حقیقی سزا سے بچانے کے لئے ہوا نہ کہ گناہ کے امکان

کو مٹاڈا لئے کے لئے یا انسان کی خود مختاری کو چھین لینے کے لئے۔“

(اثبات کفارہ حصہ اول صفحہ ۲۰، ۲۳)

پادری برکت اللہ صاحب!

**بقول "گونگے کی بولی گونگے کی مال سمجھے":**

آپ ہی بتائیے کہ اس عبارت کے کیا معنی ہیں؟ پلے تو کفارے کے ذریعہ سے تینوں زمانوں (گذشتہ، حال اور آئندہ) کے گناہوں کی معافی کا اعتراف کر لیا۔ پھر گناہگار کو آئندہ کے گناہوں سے نقصان اٹھانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ عبارت مذکورہ میں دونوں فقرے (جو زیر خط ہیں) ملاحظہ ہوں۔

**شہادت ضمیر** ہر ایک انسان کا ضمیر شہادت دے سکتا ہے کہ جس شخص کو یقین ہو جائے کہ میرے پلے سب گناہ بخشنے گئے اور آئندہ بھی بخشنے جائیں گے۔ وہ بظاہر چاہے۔ کتنا ہی پرہیز کرے۔ مگر اس کی طبیعت میں گناہ سے خوف نہیں ہو گا۔ پھر معلوم نہیں کہ حضرت مسیح ایسے معمولی گناہوں پر کیوں اتنی سزا تجویز فرماتے ہیں۔

"جس کسی نے بڑی خواہش سے کسی عورت پر ٹھاک کی وہ دل میں اس کے ساتھ زنا کرچکا۔ پس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے۔ تو اسے نکال اپنے پاس سے پھینک دے۔ کیونکہ تم رے لئے یہی بہتر ہے کہ تم رے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جنم میں نہ ڈالا جائے۔"..... (متی: ۵: ۲۷-۲۹)

پادری صاحب ہمیں بتائیں کہ سزا کا یہ حکم جو انجلیل کی اس عبارت میں مذکور ہے۔ آپ جیسے راخ الاعقاد مسیحیوں کے لئے بھی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ حکم بے کار ہے۔ اگر سب کے لئے ہے تو کفارہ بے کار ہے۔ غرض کفارے کے حق میں یہ شعر صادق آتا ہے۔

مصیبت میں پڑا ہے۔ سینے والا چاک دامان کا

جو یہ ٹائکا تو وہ ادھڑا جو وہ ٹائکا تو یہ ادھڑا

**قارئین کرام!:** مسیحی مذہب کے دو ہی رکن ہیں۔ ایک الوہیت مسیح دوسرے کفارہ

مسیح، جن پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ اس بحث کو ملحوظ رکھ کر کوئی اہل

بصیرت ہم کو بتا سکتا ہے کہ مسیحی مذہب اہل فہم کے نزدیک قابل قبول ہونے کی وجہ سے عالمگیر ہو سکتا ہے ہمارے خیال میں دو دو نے پانچ اور پانچ دو نے گیارہ کا اعتقاد رکھنا اتنا غلط ہے جتنا غلط الوبیت مسیح اور کفارہ مسیح کا عقیدہ رکھنا۔

پادری صاحب! ایسے عقائد کی تعلیم دینے والے مذہب کو آپ عالمگیر کرنے ہیں بچ ہے۔

ہوا تھا کبھی سر قلم  
قادروں کا  
یہ تیرے زمانے میں دستور دیکھا  
الحمد للہ! ہم بجٹ کفارہ سے بھی فارغ ہو گئے ہیں۔



## باب سوم

### دین فطرت اسلام ہے

بجواب

### دین فطرت مسیحیت ہے

یہ باب پادری صاحب کی اس کتاب کے جواب میں ہے۔ جس کا نام ہے۔ ”دین فطرت اسلام یا مسیحیت“ اس کتاب میں (جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ پادری صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین فطرت مسیحیت ہے، اسلام نہیں، مضمون کے لحاظ سے تو یہ بحث پہلی کتاب کے ضمن میں آچکی ہے۔ مگر ظاہری صورت کے لحاظ سے یہ کتاب بھی عیسائی تسلیم کا اقتوم ٹالٹ ہے۔ اس لئے اس پر توجہ کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ کی گئی۔ خلاصہ اس کتاب کا یہ ہے کہ انسان میں جتنی فطری خصلتیں (نیچل عادات) ہیں۔ صرف مسیحیت ہی ان کے مناسب حال تعلیم دیتی ہے۔ اسلام اس تعلیم سے خالی ہے۔ مگر کس قدر تعجب کی بات ہے کہ قدرت بھی اپنا تصرف اندر ہی اندر کر جاتی ہے۔ چنانچہ قدرت نے پادری صاحب سے اسی کتاب میں لکھوا دیا کہ ہر شخص فطرة اکلاپے سے گھبرا آئے۔ اس میں کیا شک ہے کہ سچ ساری عمر مجرد رہے اور یہ تو پادری صاحب نے فخریہ لکھا ہے۔

”سچ نے اپنے پیچے کوئی کتاب نہیں چھوڑی بلکہ سمجھی کلیسا کو اپنا کامل اور اکمل نمونہ دیا (مسیحیت کی عالمگیری صفحہ ۷)“

اس کا نتیجہ صاف ہے کہ کسی مسیحی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تجد (کنوار اپن) چھوڑ کر کمال (خانہ داری) اختیار کرے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ اپنے ہادی کے نیک نمونہ سے مخفف ہو کر نجات سے محروم رہ جائے گا۔ پادری صاحب نے یہ بڑی مہربانی کی ہے کہ لفظ فطرت کی تشریح خود ہی فرمادی۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ:

”اس رسالہ میں ہم لفظ فطرت کو صرف ان جبلی قوئی کے لئے استعمال کریں گے جو انسان میں دویعت کے گئے ہیں۔ یہ جبلی قوئی وہ طبی میلانات ہیں۔ جو ہر انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ اور جن کے جائز اور مناسب استعمال سے ہر انسان اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ جو اس کی ہستی کی علت غالی ہے۔“۔۔۔۔۔ (دین فطرت صفحہ ۶)

**مجیب:** اس رسالے میں ہم مسیحیت اور اسلام کو صرف اس کسوٹی پر پرکھیں گے صفحہ ۶ اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں۔ مگر آپ کا یہ مقولہ بحث طلب ہے کہ:

”مسیحیت کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف خداوند سچ انسان کے جبلی قوی اور طبی میلانات کو خدا کے ازلی ارادے اور مقصد کے مطابق پایہ تھجیل تک پہنچا سکتا ہے۔ مسیحیت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان معنوں میں وہی اکیلانہ ہب ہے جو دین فطرت کھلانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔“

(صفحہ ۶، ۷)

ہم آپ کی اس خالی خولی عنایت کے بھی شکر گزار ہیں۔ جس کا اظہار آپ نے یوں کیا ہے۔

”مسیحیت اپنے مخالفین کو ہر طرح کی رعایت دینے کو تیار ہے۔ کیونکہ ان تمام مراعات کے باوجود اس میں اپنے سب حریقوں پر غالب آنے کی صلاحیت موجود ہے۔“۔۔۔۔۔ (صفحہ ۷)

**تشریح:** اس جسارت کو ہم ایک مثال کی صورت میں پیش کریں تو غالباً اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔

**مثال:** کسی منڈی میں کوئی ساہو کار اتنا مالدار ہے کہ باقی سب دو کانڈا راں کے مقروض ہیں اور وہ اپنے قرضداروں کو کافی رعایت دے کر کرتا ہے تو تم لوگ مجھے اصل رقم کا پچھاں سائٹھ فی صدی ادا کرو۔ باقی رقم میں تمیں چھوڑ دوں گا۔ اتنی رعایت دینے کے باوجود وہ اتنا مالدار ہے کہ باقی سب دو کانڈا راں میں اس کا نمبر اول ہے۔

اس مثال کے مطابق ہم خود دیکھیں گے اور اپنے قارئین کو دکھائیں گے پاوری صاحب ہم کو رعایت دیتے ہیں یا الٹا ہم سے سو دلیتے ہیں۔ آپ کامندرجہ ذیل مقولہ شائد رعایت ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ:

”ہم نے اس رسالہ میں اہل اسلام کو ایک اور رعایت دے دی ہے یعنی ہم نے اسلامی عقائد بیان کرتے وقت صرف قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے۔۔۔۔۔ صفحہ ۷)

شائند پادری صاحب کو معلوم نہ ہو گا کہ یہ طریقہ رعایت نہیں ہے۔ بلکہ مخاطب کو ایک نگہ دائرے میں محبوس کرنا ہے۔ ایسا کرنے میں آپ سوائی دیا نند کے تمعیں ہیں۔ جو سیار تھہ پر کاش کے دیباچہ میں مسلمانوں کو ایسی ہی رعایت دے چکے ہیں۔ رعایت ہم اس صورت میں سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں نہ ہوں (مسیحیت اور اسلام) کو ایک ہی ترازو میں تو لئے۔ اپنے لئے تو یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ مسیح کی تعلیم کے علاوہ حواریوں اور حواریوں کے شاگردوں کے خطوط بھی الہامی نوشتوں کے ساتھ پیش کرتے جاتے ہیں۔ جو اہل اسلام کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ یہاں تک بھی ہاتھ مارتے ہیں کہ مخفی عالمین کی تعلیم کے نام سے مسیحیہ کا حوالہ دیتے ہیں جو صحیح سے سینکڑوں برس پلے کی تفہیف ہے۔۔۔۔۔ (مسیحیت کی عالمگیری صفحہ ۲۱۰)

پادری صاحب نے جبلی میلانات کی تفصیل ضرورت سے بہت زیادہ طویل عبارت میں کی ہے۔ مگر پھر بھی فطرت کا تقاضا پورا نہیں ہو سکا۔ پادری صاحب لکھتے ہیں۔

”ہر ایک انسان کی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ خوفناک اشیاء سے ڈرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے۔ پس وین فطرت وہ مذہب ہے جو ہمارے جبلی قومی کو ان کی فطرت کی مطابق نشوونما پانے میں راہنمایا ہو اور ان کے جائز اور مناسب استعمال کے وسائل کو اختیار کرنے میں مدد و معادوں ہو۔ پس عالمگیر مذہب کا یہ کام ہے کہ ان جبلی قومی کو جو انسانی فطرت میں ولیعت کئے گئے ہیں۔ الہی فرشاد اور ارادے کے مطابق کامل کرے۔“

(وین فطرت صفحہ ۹، ۱۰)

مجیب: ہمارا بھی اس پر صاد ہے۔ قارئین اب پادری صاحب کا دعویٰ ممتازعہ سنئے آپ فرماتے ہیں کہ

”مسیحیت کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف خداوند مسیح ہمارے جبلی قومی کو خدا کے اذنی ارادے اور فرشاد کے مطابق پایہ تھجیل تک پہنچا سکتا ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۱)

پس یہ ہے ساری کتاب کا موضوع بحث۔ اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے

آپ نے کتاب کے انیں صفحے مخفی تمہید سے پر کر دیئے ہیں۔ آخر کار بڑی طول کلامی کے بعد اصل مضمون کے متعلق آپ کے منہ سے بمشکل الفاظ ذیل نکلے ہیں۔

”اسلام اور دیگر کل مذاہب اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ گناہگار کو نیکی کا درس دے دیں اور نصیحت کر دیں۔ اس سے زیادہ وہ نہیں کرتے اور نہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن ہر شخص تجربہ سے جانتا ہے کہ نصیحت کی قوت جلت کی زبردست طاقت کے سامنے بیچ ہوتی ہے۔ لہذا وہ کارگر نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔“..... (صفحہ ۱۹، ۲۰)

**مجیب:** اسلام کے ساتھ دیگر کل مذاہب کو شامل کرنے سے آپ کا مقصد غالباً اپنے مسلمہ صحف انبیاء پر بھی ہاتھ صاف کرنا ہے۔ اگر لفظ کل بے خبری میں لکھا گیا ہے۔ تو پادری صاحب اس کو واپس لے لیں۔ آپ کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہگار بندہ دربارِ محمدی میں آئے تو آنحضرت اس کو مخفی اتنا ہی فرمائیں گے کہ تو فلاں فلاں کام مت کر۔“ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر وہ مسیح کے پاس آئے گا تو آپ علاوہ اس نصیحت کے کہ اس کو گناہ چھوڑنے کی طاقت بھی بخشیں گے۔ جس سے وہ گناہ کی بری عادات کا مقابلہ کر سکے گا۔ آپ کا یہ دعویٰ دراصل اسی بنیادی پتھر (الوہیت مسیح) پر بنی ہے جس پر کتاب ہذا میں گذشتہ صفحات میں مفصل بحث ہو چکی ہے۔ چونکہ پادری صاحب اور ان کے ہم نوا بھی تک مسیح کو مجسم الہ مانتے ہیں۔ اس لئے وہ اسی اصول پر مسیح کو حقیقتہ ہدایت بخش اور توفیق بخش کے جاتے ہیں۔ مگر قرآن چونکہ پیغمبر اسلام کو درجہ الوہیت سے خالی اور منصب نبوت پر فائز ٹھہرا تا ہے۔ اس لئے وہ اس اصول کے ماخت صاف کرتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًاهُمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي نَّفْسًا يَشَاءُ --- (پ ۳: ع ۵)

**ترجمہ** اے پیغمبر! تم سارے اختیار میں ان کو ہدایت کرنا (منزل مقصود تک

پہنچانا) نہیں ہے بلکہ خدا جس کو چاہے خود ہی ہدایت کرتا ہے۔

تم سارا منصب تبلیغ ہے۔ ”إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ“۔۔۔۔ (پ ۲۵: ع ۶)

لیکن اس میں شک نہیں کہ آنحضرت کی تبلیغ اور ایک عالم کی تبلیغ میں بہت بڑا فرق ہے اور آپ کے مرتبہ کے لحاظ سے ایسا فرق ہونا ضروری ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جہاں تک انسانی کمال کی حد ہے آپ کے اثر صحبت سے متلاشیان حق پا کیزگی حاصل کرتے۔

جیسا کہ قرآنی ارشاد ہے۔

**هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَنْذِلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّسِيْرِينَ (پ ۲۸:۶۶)**

**ترجمہ** وہی خدا ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا پیغمبر مجیجا جوان کو خدا کی

آئین پڑھ کر سناتا ہے اور پاک کرتا ہے اور ان کو اللہ کی کتاب اور دانائی کی

باتیں سمجھاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ صرخ گراہی میں تھے۔

یہ آیت آنحضرتؐ کا منصب اور حیثیت صاف بتاتی ہے کہ آپؐ قرآن کو سمجھاتے اور روحانی حکمت سمجھاتے اور اپنے اثر صحبت سے اپنے متبوعین کو پاک کرتے۔ لیکن یہ ترکیہ اور تطہیر انسانی کمال کی حد تک ہوتا۔ الوہیت کی شان اس میں نہ ہوتی۔ جس کا ذکر اس شعر میں ہے۔

صحبت صلح ترا صلح کند صحبت طالع ترا طالع کند  
آگے چل کر پادری صاحب فرماتے ہیں۔

”مسیحیت ہی ایک واحد مذہب ہے جو یہ نبی پیدائش ہم کو عطا کرتا ہے۔ خداوند مسیح ہی اکیلا ہادی ہے جو نہ صرف ہم کو راہ ہدایت بتاتا ہے۔ (یو چنان ۱۳۰۶۱) بلکہ ہم کو وہ زبردست طاقت عطا فرماتا ہے۔ جس کی مدد سے ہم اپنی جبلت کی طاقت کو ایک جانب سے ہٹا کر دوسرا طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اس کے ہی فضل سے ہم کو یہ توفیق عطا ہوتی ہے۔“..... (صفحہ نمبر ۳۲)

**مجیب:** فضیلت کا ذکر ہے۔ خاص کر یہ فقرہ کہ۔

”مسیح ہی اکیلا ہادی ہے۔ وہ ہم کو زبردست طاقت عطا فرماتا ہے۔“

قابل غور اور محل بحث ہے، کیونکہ اس میں مسیحی مذہب کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اس لئے مسیحی کتب کے حوالوں سے ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں۔

ذینما کی تاریخ کتب اور مسیحی اناجیل بالاتفاق شادوت دینی ہیں کہ یہود مسیح کے ساتھ بڑی بختی سے پیش آتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے آپؐ کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر

آپ کو صلیب پر چڑھا دیا اور ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیں۔ اس حالت میں یوسع مجع کی یہ فریاد کہ:

”اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔“

آپ کا صحیح مقام (عبدیت) معین کرنے کے لئے ایک فیصلہ کن جملہ ہے۔

”یہودیوں پر آپ کی قوت بخشی نے کوئی اثر نہیں کیا، بلکہ آپ کے خاص حواریوں پر بھی اثر نہیں کیا۔ جنون نے یوم صلیب کی صبح ہونے سے پہلے ہی یوسع مجع پر لعنتیں بھیجیں اور ان سے اپنی علیحدگی کا اظہار کیا۔“---- (متی پاپ ۳۶)

کیا اس کا نام قوت بخشی ہے کہ اپنے صحبت یافتہ اشخاص کو بھی بے نصیب رکھا۔

جس پر انہوں نے بربان حال یہ شعر پڑھا۔

بس سمندر دیکھ لی ہم نے تیری دریا دلی

تشنه لب رکھا صدف کو بوند پانی کی نہ دی

ذرا اور نیچے آجائیے، مسیحی ڈنیا میں اول نمبر ورپ کا ہے۔ اس کی نیک بخشی اور

صلاحیت کی جو کیفیت شروع سے رہی ہے۔ وہ عیال راچہ بیال کی صدقائی ہے۔ شراب خوری،

خزیر خوری، زنا کاری، غلط کاری کوئی جرم ہی نہیں، شائد کفارہ مجع کے عقیدہ نے ان لوگوں

کو گناہوں کی سزا سے بے خوف کر دیا ہو۔ پادری صاحب۔

مصلحت نیست کہ از پرده بیرون افتاد راز

ورنه در مجلس رندال خبرے نیست کہ نیست

پادری صاحب کا یہ مقولہ کیسی ناواقفیت پر منی ہے کہ

”قرآن نیک اعمال کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن نہ تو نیک پیدائش کی تعلیم دیتا ہے کہ کسی شخص کو نیا

ملکوق بنانے پر قادر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وین فطرت کے لوازم اس میں سرے سے

نہیں ہیں، تمام ادیان عالم میں مسیحی دین کو یہ طفرائے امتیاز حاصل ہے۔“----- (صحیح ۲۲)

اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن اور ملم قرآن میں

مجیب: الوہیت کی طاقت نہیں ہے۔ ہاں اپنی کمال تاثیر کے لحاظ سے تمام ملکوق میں ان کا

درجہ سب سے بلند ہے یہ صرف ہمارا دعویٰ ہی نہیں، بلکہ اس کا واضح نمونہ بھی سنئے۔

قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ صاحب قرآن کے انقلاب انگیز اثر کے اظہار کرنے کو فرماتا ہے۔

وَإِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قَلْبِكُمْ  
فَاصْبِخُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَقَاقٍ حُقْرَةٌ فَنَقَدَكُمْ  
فِتْنَاهَا كَذَالِكَ يَبْيَنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيَّاتِهِ لَعْلَكُمْ تَهَتَّدُونَ -

(پ ۲:۴)

**ترجمہ** اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اسی کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، پھر اس نے تم سے افسوس میں افت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت (قرآن) کی برکت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گوشے پر تھے پھر اس نے تم کو بچا دیا۔ اسی طرح سے اللہ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے۔ تاکہ تم بدایت پاؤ۔

**قارئین:** اس انقلاب کو ملاحظہ کیجئے، قرآن مجید کی تأشیر کا کیسا میں ثبوت ہے۔ جس کا اطمینان مولانا حالی مرحوم نے مندرجہ ذیل بند میں کیا ہے۔

وہ دوین جس نے اعدا کو اخواں بنایا وحش اور بہائم کو انساں بنایا  
درندوں کو غم خوار دوراں بنایا گذریوں کو عالم کا سلطان بنایا  
وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا گلہ  
گراں کر دیا اس کا عالم سے پلہ

پادری صاحب! قرآن مجید نے دنیا میں جو روحاںی انقلاب پا کیا۔ اس کی شہادت تو تمام جہاں دے رہا ہے کہ صرف تیس سال کے عرصہ میں اپنے اتباع کو ذلت و خواری کے تحفظ سے اٹھا کر عزت و حکومت کے تحفظ پر بھا دیا اور ہر قسم کی غلط کاری میں بیتلاؤ گوں کو متقویوں کا امام بنایا۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ قرآن میں طاقت نہیں ہے۔ کس قدر بے انصافی پر منی ہے۔ ہاں مسیحیت نے اس قوت کا جو اظہار کیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ کفارہ مسیح کا سبزیاب دکھا کر مجرموں کو گناہوں کی پاداش سے بے خوف کر دیا اسی لئے اب ان کی زبان پر یہ کہاوت جاری ہے۔

سیاں مختے کوتوال اب ڈر کس کا

خوف کی جلت: پادری صاحب نے اس سرخی کے ماتحت بڑی طویل گفتگو کی ہے جلت خوف سے پادری صاحب کی مراد فطری خوف ہے، یعنی کسی زبردست طاقت سے ڈرنا جو انسان کی طبعی عادت ہے۔ پادری صاحب اس کو جلت خوف سے تعبیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”خوف کی جلت تمام حیوانات کی بقا کے لئے ضروری ہے۔ انسانی سرشت میں یہ جلت قوی

ترین جبلوں میں سے ہے۔“..... (صفحہ ۲۳)

اتنا مضمون تو فریقین کو مسلم ہے۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں کہ

”لازم ہے کہ دین فطرت کے عقائد ایسے ہوں جن سے اس جلت کی غیر معتدل

برانگیختگی واقع نہ ہوتا کہ انسان ہوں اور دہشت کا نشانہ بنا رہے۔“

اس پر بھی ہمارا صادہ ہے، اسی معیار پر پادری صاحب تفریج کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”حق یہ ہے کہ جس قدر کسی مذہب میں دہشت کا غیر غالب ہو گا۔ اسی نسبت سے وہ مذہب

ادیان عالم میں ادنی پایہ کا شمار کیا جائے گا۔“..... (صفحہ ۲۵)

یہ اصول بھی ہمیں مضر نہیں۔ ان تمهیدات کے بعد آپ خاص اسلام پر اوقتجھے

ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اسلام میں خوف کا عصر اسی طرح کار پر داڑ ہے جس طرح دھشی اقوام کے نماہب بالظہ میں

دیوتاؤں کا خوف کام کرتا ہے۔“..... (صفحہ ایضا)

مجیب: قرآن مجید نے خوف اور محبت کو ایسے اعتدال پر رکھا ہے کہ یا بید و شاید بہت سی

آیات نقل کرنے کی ضرورت نہیں، نمونہ کے طور پر ایک ہی کافی ہے۔

نَسْئِي عِبَادَتِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ  
الْأَلِيمُ

(پ: ۱۲:۴)

**ترجمہ** ”اے یتیخبر! میرے بندوں کو یہ اطلاع دے دو کہ میں بڑا ہی گلن

بار اور مہریاں ہوں اور یہ بھی کہہ دو کہ مجرموں کے لئے میرا عذاب بڑا ہی درد

ناک ہے۔

کیسا معتدل کلام ہے کہ خوف اور محبت کو اعتدال پر رکھا گیا ہے اس کے مقابلہ میں مسیحیت نے جو تعلیم دی ہے اسے ہم آگے چل کر نقل کریں گے۔ اس سے آگے پادری صاحب مسیحیت کا طغراۓ امتیاز بتانے کو لکھتے ہیں کہ

”مسیحیت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ خداوند کا خوف داش کی ابتداء ہے (مثال اے) خداوند کا

خوف پاک ہے (زبور ۹-۱۹) خداوند تمہارا تم سے سوائے اس کے اور کیا چاہتا ہے کہ تم اپنے

خدا کا خوف مانو اور اس کی سب را ہوں پر چلو اور اس سے محبت رکھو۔“..... (انتشار ۱۰-۱۴)

ان حوالہ جات کو پیش کر کے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ

”کتب مقدس کے ذکر وہ بالا اقتباسات بطور شستہ نمونہ از خودارے دیئے گئے ہیں ان سے

واضح ہو گیا ہو گا کہ مسیحیت میں خدا کا خوف کس قسم کا ہے۔“

”یہ خوف داش کی ابتداء اور پاک ہے اس سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔“

(صفحہ ۳۳)

**مجیب:** پادری صاحب! آپ کو اسلامی تعلیم متعلقہ خوف تو وحیانہ نظر آتی ہے۔ جو بالکل اعتدال پر مبنی ہے۔ جس کا ثبوت ہم قرآنی آیت کے حوالہ سے دے چکے ہیں۔ لیکن مسیحیت کی تعلیم آپ کی نظر سے کیوں او جھل رہی، یا جمل خدا کے غصب اور انقاص وغیرہ کے متعلق جو تعلیم دیتی ہے اسے توجہ سے سنئے اور اپنے ہم نوا ممبروں کے ساتھ بیٹھ کر غور کیجئے! خداوند موسیٰ کو فرماتا ہے۔

”خداوند خدا رحیم اور مریان قمر میں دھیمارب الغیض و دفایہ زار پتوں کے لئے نصل رکنے

والا گناہ اور تقصیر اور خطاء کو بخشنے والا۔ لیکن وہ ہر حال میں معاف نہ کرے گا۔ بلکہ باپوں کے

گناہ کا ان کے فرزندوں سے اور فرزندوں کے فرزندوں سے تیسری اور پوچھی پشت تک بدال

لے گا۔“..... (خرود ۳۲: ۶)

**مجیب:** اللہ اللہ کس قدر جوش غصب ہے کہ زار روں کے مظالم بھی اس کے مقابلہ میں یقین ہیں کہ گناہ کا بدلہ گناہگار کے بیٹوں پتوں اور پڑپتوں وغیرہ سے لیا جاتا ہے۔ میکی دوستو! دنیا کی کسی حکومت میں ایسا قانون دیکھایا تاہے۔ جیسا آپ کے مسیحیت خدا کے حق میں بتاتی ہے کہ ایک گناہگار کے گناہ کی سزا کی ایک بے گناہوں کو دی جائے۔ مگر

مذہب میں یہ پہلا ہی واقعہ نہیں ہے اور نہ اس کے لحاظ سے یہ کوئی عجیب بات ہے۔ کیونکہ مسیحیت نے دنیا کے بہت بڑے مهزز اور خدا کے مقرب اور معموم (ناکرده گناہ) بندے کو چھانی پر چڑھا کر گناہگاروں کی نجات کا ذریعہ سمجھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کو نہ تعدل و انصاف کا اصول مانع آیا اور نہ خدائی رحم نے اس کو اس ظلم سے باز رکا۔ پادری صاحب ایسے کمزور ہتھیاروں سے قرآن مجید کے مضبوط قلعے پر حملہ کر کے خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ یاد رکھئے کہ قرآن کا قلعہ ایسا مضبوط ہے کہ مٹی کے گولوں سے اسے کوئی صدمہ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس کا حملہ اتنا زبردست ہے کہ انورپ کا قلعہ بھی اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لئے اسلام اپنے مخالفوں کو لالکارت آہواز بیان حال کرتا ہے۔

ہاں تامل دم ناوک فگنی خوب نہیں  
میری چھاتی ابھی تیروں سے چھپنی خوب نہیں

اس سے آگے آپ لکھتے ہیں کہ

”اسلام کے خدا کی ذات صفات ایسی ہیں جن سے ہر لحظہ خوف اور دہشت پیشی ہے۔ لیکن مسیحیت کے خدا نے ہم کو دہشت کی روح نہیں، بلکہ قدرت محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔“..... (صفحہ ۳۶)

**مجیب:** ابھی ہم جواب دے چکے ہیں کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کو ہر جگہ غفور و رحیم کی (خدابسب لوگوں پر شفقت اور رحم کرنے والا ہے) رواف اور رحیم دونوں صفاتے مبالغے کے ہیں۔ جن کے معنی ہیں بہت بڑا میریان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا اس سے بھی زیادہ گناہگاروں کو تسکین دینے والی آیت سنئے۔ ارشاد ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو الْمَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى الظُّلْمِهِمْ ..... (پ ۱۳: ع ۷)

خدا گناہگاروں کے لئے مخفی ہار ہے۔

اللہ اللہ رحمت اور مغفرت کا سمندر کس قدر جوش مار رہا ہے کہ لوگوں کے ظلم و ستم کے باوجود خدا ان کے لئے مخفی ہار ہے۔ البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ مسیحیت جیسا رحم قرآن میں واقعی نہیں ہے کہ ظالم بدکاروں کی خاطر ایک بے گناہ انسان کو چھانی کے تختے پر لٹکا دیا

جائے اور غصے کی آگ بھڑک آئے تو بے گناہ بچوں کو بھی فنا کر دے۔ جس کے مقابلہ میں ظالم حملہ آوروں کے حملے بھی یعنی معلوم ہوں۔ ایسے خونخوار اور ظالم خدا کے حق میں بجراس کے کیا کما جائے۔ ۷

وفاکیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا  
تو پھر اے سنگل تیراہی سنگ آستاں کیوں وہ  
آگے چل کر پادری صاحب جلت تولید کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے آپ کی مراد ازدواجی تعلق ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ

”ز اور مادہ کے باہمی تعلقات اسی جنسی جلت کی وجہ سے ظہور میں آتے ہیں۔ انسانی معاشرت کے لئے یہ جلت (ازدواجی تعلق) نمائت ضروری ہے۔“ ۳۹ (صفحہ

**مجیب:** اس پر ہمارا بھی صادق ہے۔ اس بحث میں آپ کو اسلام میں دو نقش نظر آئے ہیں۔  
یعنی تعداد ازواج اور طلاق۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ

”جن اقوام میں وحدت ازواج کی بجائے کثرت ازواج راجح ہے اور یہاں کے رشتے کی طرف سے لا پرواہی اختیار کی جاتی ہے اور طلاق عام روز مرہ کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ ان اقوام میں زوال پیدا ہو جاتا ہے۔“

**مجیب:** تعداد ازواج کا جواب پسلے صفحہ ۳۴ پر بھی آپ کا ہے۔ یہاں بھی کچھ لکھا جائے گا۔ طلاق کا ذکر آگے آتا ہے۔ تعداد ازواج کے متعلق پادری صاحب لکھتے ہیں کہ دین فطرت کا کام یہ ہے کہ (۱) وحدت ازواوج کی تعلیم دے (۲) زاور مادہ کے رشتے کے قیام، استواری اور پائیداری اور اس کی دوامی حالت کی تلقین کرے (۳) طلاق کی ممانعت کرے اور اس بات کا محرك ہو کہ جلت جنسی کی دافع اور فاضل طاقت اور عظیم توانائی، اعلیٰ ترین مقاصد اور اغراض کو حاصل کرنے کی جانب راغب ہو جائے۔“ ۴۰ (صفحہ ۳۴)

**مجیب:** یہ ہے پادری صاحب کے نزدیک دین فطرت کے معیار جس کا کچھ حصہ مسلم ہے اور کچھ غیر مسلم۔ متنازعہ حصے کا ذکر آگے آتا ہے۔ پادری صاحب لکھتے ہیں کہ:

”کلمۃ اللہ کی تعلیم نے آدمی<sup>①</sup> اور عورت کے باہمی۔

... جنی تعلقات کی کیا پٹ دی۔ جو زار و مادہ کے تعلقات آپ کے زمانہ میں راجح تھے۔ وہ موسوی شریعت کے ماتحت تھے آپ نے ان کے تمام غیر کامل عناصر کو خارج کر کے اس رشتہ کو کامل طور پر پا کیزہ بنادیا۔ عورت بچے جتنے کی مشین اور مرد کی شوت کا آله کارنة رہی۔ بلکہ مرد کی طرح ایک آزادانہ ذمہ دار ہستی ہو گئی۔ جس سے خدا لازوال محبت کرتا ہے اور جس کی بروح کی خاطر ابن اللہ نے اپنی جان دے دی۔ خدا کی نظر میں مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں۔ پس انجیل حلیل یہ تعلیم دیتی ہے کہ جنی جلت کے جائز استعمال کے لئے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکے! شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور بیوی شوہر کا حق ادا کرے۔" (ص ۳۲-۳۵)

**مجیب:** پادری صاحب نے اس بیان میں اسلام ہی پر حملہ نہیں کیا۔ بلکہ اپنی مسلمہ موسوی شریعت پر بھی ہاتھ صاف کیا ہے۔ چنانچہ اس کو ناکمل اور قابل اخراج قرار دیا ہے حالانکہ مسیح کا قول ہم بارہا نقل کرچکے ہیں کہ "موسوی شریعت یعنی تورات کا ایک شوشہ بھی منسون نہیں ہو گا۔" (انجیل متی باب ۵) آپ کا یہ لکھنا کہ "خدا کی نظر میں مرد و عورت کے حقوق مساوی ہیں۔" اس بارے میں قرآن مجید کی آیت ذیل ایسی صاف ہے کہ آپ کا یہ فقرہ گویا اسی کا ترجمہ ہے:-  
ارشاد ہے۔

**وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ** ---- (پ ۲ : ع ۱۲)

**ترجمہ** "عورتوں کے حقوق خاوندوں پر دیے ہی ہیں۔ جیسے خاوندوں کے عورتوں پر۔"

آپ کا یہ فقرہ کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ دراصل اس آیت کیسے کا ترجمہ ہے۔

**عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** ---- (پ ۳ : ع ۱۲)

**ترجمہ** "عورتوں کے ساتھ عمدہ بر تاؤ کیا کرو۔"

یہ تو اصل اعتراض کا جواب ہے۔ اب ہم پادری صاحب کی ہوشیاری کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے آگے چل کر موسوی شریعت کی کتاب پیدائش سے یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ:

”مرد عورت ایک جان ہوں گے۔“.....(باب:۲) (۲۳:۲)

پھر اس فقرہ کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ:

”انجیل جیل نے یہ تعلیم دی ہے کہ مرد و عورت کے بھی حقوق مساوی ہیں۔

(صفحہ ۳۵).....

اس اقتباس میں پادری صاحب نے جس ہوشیاری کا ثبوت دیا ہے اگر کسی اور سے ایسی ہوشیاری سرزد ہوتی تو ہم اس کا نام مکاری اور عیاری رکھتے۔ کتاب پیدائش میں اصل واقعہ اس وقت کا ہے۔ جب حضرت آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوا۔ چنانچہ پیدائش کے پورے الفاظ یہ ہیں۔

”مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی جوروں سے ملا رہے گا اور وے ایک تن ہوں گے۔“.....(پیدائش باب ۲) (۲۳:۲)

اس عبارت میں دو فقرے ہیں۔ پادری صاحب کے طرز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ پادری صاحب اپنے منقولہ فقرات کو شرعی حکم کے معنی میں واجب العمل سمجھتے ہیں۔ اگر دوسرا فقرہ شرعی حکم واجب العمل ہے تو پہلا فقرہ بھی واجب العمل ہونا چاہئے۔ یعنی ماں باپ کو چھوڑ دینا اور بیوی سے ملے رہنا۔ قارئین غور کریں کہ یہ تعلیم کیسی عمدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں فقرے خبریہ جملے ہیں، انشائیہ جملے معمنی شرعی حکم نہیں ہیں۔ ورنہ بڑی خرابی لازم آئے گی۔ کیونکہ ان میں انسان کی بد اعتدالی کا ذکر ہے کہ وہ ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی کی محبت میں غلوکرے گا۔ اس سے تو مدت نکلتی ہے نہ کہ شرعی حکم، دوسری ہوشیاری آپ نے یہ کی ہے کہ پیدائش کے اس حوالہ کو انجیل جیل کہہ کر عزت بخشی ہے چنانچہ پس لفظ تمجہہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس میں کیا اشک ہے کہ کتاب پیدائش موسوی شریعت میں داخل ہے حالانکہ اس شریعت کو آپ غیر مکمل کہہ کر عیسوی شریعت سے خارج کر کے ہیں اور اب اسی کو پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر موسوی شریعت آپ کی عنایت کو ملاحظہ رکھ کر بزبان حال یہ شعر پڑھئے تو بجا ہے۔

وفا کے واسطے میری تلاش ہوتی ہے  
کوئی زمانے میں جب دوسرا نہیں ملتا!

اسی ضمن میں پادری صاحب نے طلاق کا مسئلہ بھی چھپا رہے اور اپنے دعویٰ پر انجیل مرقس باب ۱:۲ نقل کی ہے۔ مسئلہ طلاق جس حقیقت پر مبنی ہے اسے سمجھ لینے سے یہ مسئلہ صاف حل ہو جاتا ہے۔ پس قارئین غور سے سنیں۔

نکاح ایک مصنوعی تعلق ہے قدرتی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح انسان کا تعلق مان بآپ بُن کے ساتھ قدرتی ہے اسی طرح بیوی کے ساتھ قدرتی نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں میں پچھا زاد اور ماموں زاد بہنوں سے رشتہ نکاح جائز ہے جب تک عقد نکاح نہ ہو جائے وہ لڑکی پچھا زاد بُن تو ہے۔ مگر منکوح بیوی نہیں ہے۔ انہی معنی میں عقد نکاح کو قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی کہا جاتا ہے اور جو تعلق مصنوعی ہو وہ قابل انفکاک (نوثے والا) ہوتا ہے اس کے بر عکس قدرتی تعلق ناقابل انفکاک (نہ نوثے والا) اسی لئے باپ بیٹے کی مذہبی تبدیلی کی وجہ سے نسبت ولدیت معدوم یا منسوخ نہیں ہو جاتی۔ مگر ازدواجی تعلق تبدیل نہ ہب سے ثبوت جاتا ہے۔ موسوی شریعت تو عام طور پر طلاق کی اجازت دیتی ہے۔ سچ نے بھی عورت کے بد کار ہو جانے کی حالت میں طلاق دینے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ سچ کے الفاظ یہ ہیں۔

”یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرامکاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کرتا ہے۔“۔۔۔۔۔ (متی باب ۵: ۳۱، ۳۲)

یہ دونوں ارشادات (موسوی اور عیسیوی) اسی اصول پر مبنی ہیں جو ہم نے عرض کیا ہے کہ نکاح مصنوعی تعلق ہونے کی وجہ سے قابل انفکاک ہے۔ جس پر عمل درآمد صرف سخت ضرورت کے وقت جائز قرار دیا گیا ہے۔ معمولی کراہت طبعی یا ناراضگی کو موجب طلاق نہیں ٹھیک رایا گیا۔ بلکہ اس کے متعلق صاف ارشاد ہے۔

عَاشُرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْ هُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرْهُوْ شَيْئًا  
وَيَخْعُلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔۔۔۔۔ (پ ۲: ۴) (۱۳)

**ترجمہ** ”عورتوں کے ساتھ یہیک سلوک کیا کرو اگر تم ان کو کسی وجہ سے ناپسند کرو تو بھی بناہ کرتے رہو کیونکہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور

خدا اسی میں بہت خیر و برکت پیدا کر دے۔“

طلاق کی مکروہ صورت ہر وقت پادری صاحب کی آنکھوں میں پھرتی ہے۔ وہ کوئی بھی عنوان قائم کریں اس کے ذیل میں طلاق کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ چنانچہ صفحہ ۲۷ پر آپنے ”ماں باپ کی جلت یا والدینی جلت“ کا عنوان قائم کر کے صفحہ ۸۷ پر ”طلاق“ کی بحث دوبارہ شروع کر دی ہے اس کے ضمن میں آپ لکھتے ہیں کہ

”کلمۃ اللہ نے صاف تعلیم دی ہے کہ زنا کا گناہ ازدواج کے پاک رشتے کو خود بخوبی توڑ دیتا ہے۔“

کیونکہ اس سے پاک رشتہ ناپاک ہو جاتا ہے۔“---- (صفحہ ۸۰)

**مجیب:** یہ الفاظ مسیح کے نہیں ہیں۔ آپ کے اصل الفاظ نقل ہو چکے ہیں کہ ”جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کرتا ہے۔“

یہاں ہم صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ ان صورتوں میں مرد کیا کرے؟-

- ۱ کسی مرد کی بیوی غیر مرد کے ساتھ سیر کرنے جاتی ہو۔
- ۲ غیر مرد کے ساتھ نہیں مذاق کرتی ہو یا خفیہ خط و کتابت کرتی ہو۔
- ۳ چوری کرنے کی عادی ہو۔
- ۴ بد اخلاقی سے گالی گلوچ کرتی ہو۔
- ۵ خاوند کی پہلی بیوی کے بچوں سے دشمنی رکھتی ہو۔
- ۶ خاوند کے والدین یا دوسرے معزز رشتہ داروں کی توہین کرتی ہو۔
- ۷ اپنے پرائے سے خواہ مخواہ لڑنے جھگڑنے کی عادی ہو۔

ان جیسی تمام صورتوں میں مرد کو انجلیں کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ ایسی بیوی کو اپنی گردن کا طوق بنا کر اپنی زندگی کو ہمیشہ مصیبت میں بٹلار کھے یا مخلصی کی کوئی راہ اختیار کرے۔ قانون کا قدرت کو ملحوظ رکھ کر جواب دیجئے۔

ایسے واقعات ہمارے مشاہدے میں بکثرت آئے ہیں کہ مرد عورت میں ناچالی اور سوء مزاجی بعض دفعہ طبعی طور پر ہوتی ہے اور بعض دفعہ قدرتی طور پر۔ طبعی طور پر تو یوں ہوتی

ہے کہ مرد یا عورت اپنی شکل و شباهت میں اس درجہ پر ہوتے ہیں۔ جس کا ذکر شیخ سعدی نے اپنے ایک شعر میں یوں کہا ہے ہے تو گوئی تھا قیامت زشت روئی بروختم است و بر یوسف گوئی اس قسم کا ایک واقعہ زمانہ رسالت میں بھی پیش آیا تھا۔ اس کی مختصر تشریح یوں ہے کہ ایک عورت نے دربار نبوی میں آکر شکایت کہ حضور! میں اپنے خاوند کے دین اور اخلاق میں کوئی نقص نہیں پاتی۔ مگر جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے منہ پر تھوک دوں۔ حضرت نے اس عورت کا غذر معقول قرار دے کر اس کو خاوند سے علیحدگی اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔

قدرتی اسباب کے کیس بھی ہمارے سامنے بہت آئے ہیں۔ مثلاً مرد غرض، نکاح کے لحاظ سے ناقابل ہے یا آوارہ گرد ہے یا کسی خاص مرض میں بیٹلا ہے۔ فریقین جوان ہیں۔ پھر کیا پادری صاحب ان دو قسم کے اسباب میں انجلیں مرقس باب ۲:۱۰ کو پیش کر کے یوں خاوند کو یہی حکم دیئے جائیں گے کہ تم دونوں ایک تن ہو کر رہو۔ واللہ اگر آپ یہی کہیں گے تو وہ آپ کو جواب میں یہ شعر سنادیں گے۔

شب فراق کی ہم جانیں یا خدا جانے  
بلا کشوں پر جو گزرے تیری بلا جانے

ایسی صورتوں میں قرآن مجید اور شریعت سابقہ نے اگر اس مصنوعی تعلق کو قابل انفکاک قرار دیا ہے تو کیا جرم کیا ہے؟ اس ضمن میں پادری صاحب نے تعداد ازواج پر بھی بحث کی ہے۔ مگر قدرت کا عجیب تصرف ہے کہ اندر ہی اندر اپنا کام کر جاتا ہے اور فاعل کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ آپ کی ساری بحث کا ملخص یہ ہے جو آپ فرماتے ہیں۔ لذماً

”چونکہ ازدواجی تعلقات درحقیقت بچوں کی شخصیت کی نشوونما اور ترقی کا ذریعہ ہیں۔ لذماً لازم ہے کہ یہ تعلقات صرف ایک زوج سے متعلق ہوں اور مدت العمر پائیداری ہوں۔“  
(صفہ ۳۷)

مجیب: اس اقتباس میں پادری صاحب سے ایک لفظ چھوٹ گیا۔ جس کا اضافہ پادری صاحب کی منقولہ عبارت کے خلاف نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اس لفظ کو ساتھ ملا

کر عبارت یوں ہونی چاہئے کہ۔

ازدواجی تعلقات در حقیقت قضاۓ حاجت نفسانی اور اولاد کی پیدائش اور بچوں کی فحصیت کی نشوونما کا ذریعہ ہیں۔

یہ عبارت انہی لفظوں میں ہونی چاہئے۔ کیونکہ یہ مضمون قانون قدرت کے مطابق ہے اس پر یہ نتیجہ پیدا کرنا کہ صرف ایک زوج سے تعلق ہو۔ کسی طرح صحیح نہیں بلکہ اصل مقصد کے خلاف ہے۔ غور کیجئے کہ کسی کی منکوحہ عورت بانجھ یا دامِ المریض ہو تو اس کا خاوند اولاد کی غرض سے کیوں دوسرا نکاح نہ کرے۔ ایک اور مثال ملاحظہ کیجئے۔

جنوری ۱۹۷۱ء میں کوئی عورت حاملہ ہوئی۔ نو ماہ تک حمل رہا۔ عام دستور کے مطابق ولادت کے بعد وہی عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ کیونکہ اس کے پستانوں میں دودھ قدرت نے اسی غرض سے پیدا کیا ہے۔ پس یہ تین سال کے لگ بھگ کا زمانہ تولید اولاد (بچے پیدا کرنے) کے لئے موزوں نہیں ہے اور اسی تولید اولاد کو آپ نے جلت تولید سے تعبیر کر کے زیب عنوان کیا ہے۔

پس ضروری ہے کہ اس غرض کو یہیشہ ملاحظہ رکھا جائے۔ ایسی حالات میں آپ کا یہ نتیجہ کسی طرح صحیح نہیں کہ ایک ہی عورت سے نکاح کیا جائے۔ اگر کسی شخص کی متعدد یوں یاں ہیں جو صاحب اولاد بھی ہیں اور اپنی اپنی اولاد کی پرورش بھی کرتی ہیں تو اس میں عقل سالم کی روح سے کون سی قباحت لازم آتی ہے۔ قتدبر!

وہی کے علماء میں سے ایک صاحب مولوی محمد جو ناگزیری حالت ہی میں فوت ہوئے ہیں۔ <sup>①</sup> آپ کی تین یوں زندہ ہیں۔ جن کی اولاد انہیں کس ہیں۔ آپ کی تینوں یوں ان کی زندگی میں بھی بطیب خاطر اپنی اولاد کی پرورش کرتی تھیں اور اب بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مرد اس قدر جسمانی اور مالی طاقت رکھتا ہے کہ ایک یوں اس کی ضرورت کو کفایت نہیں کر سکتی تو وہ کیوں دوسرا عورت سے نکاح نہ کرے۔

① آپ کی وفات ۲۸ فروری ۱۹۷۱ء مطابق ۲۰ مفرما معاشر ۱۴۱۲ھ کو ہوئی۔

نمونہ انبیاء: حضرات انبیاء کرام امت کے لئے اسوہ حسن (اچھا نمونہ) ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو بائیبل میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی متعدد بیویاں تھیں۔ ملاحظہ ہوا سموئیل باب ۳، اور اسلاطین باب ۱۰، ان کے اس فعل پر بائیبل میں کوئی ملامت نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل کسی قانون قدرت کے خلاف نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ازدواج شریعت ایسیہ کے خلاف نہیں ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ پادری صاحب کا غیظ و غصب کس بنا پر ہے اور یہ فقرہ کس طرح صحیح ہے کہ

”ازدواج کی نسبت جو تعلیم کلمۃ اللہ نے دی ہے صرف فطرت کے لوازمات کے مطابق ہے۔

کیونکہ وحدت ازدواج اور اس تعلق کی مدت العمر پائیداری اور قیام ہی نوع انسانی کی بقا اور

ترقی کا موجب ہو سکتی ہے۔“۔۔۔۔۔ (صفہ ۳۸)

اس عبارت کا جواب ہمارے سابقہ بیان میں آگیا ہے۔

اظہار تعجب: پادری صاحب نے جلسہ جنسی یعنی ازدواج کو جتنی اہمیت دی ہے۔ اتنی اور کسی جلسہ کو نہیں دی۔ اسی کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ انسانی معاشرت کے لئے یہ جلسہ نہایت اہمیت رکھتی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بیاہ اور ازدواج کا وجود نہایت ضروری ہے۔۔۔۔۔ (صفہ ۳۹)

غالباً اسی لئے پادری صاحب کے دل میں کھلا ہوا کہ اس سے تو مسیحی مذہب پر بہب کا گولہ پڑے گا۔ کیونکہ مسیح ساری عمر مجرور ہے۔ انہوں نے جلسہ جنسی کا تقاضا اپورا نہیں کیا۔ جب باقی مذہب نے خلاف فطرت زندگی برکی تو اس کی تعلیم کا کیا حال ہو گا۔ حالانکہ آپ خود ہی لکھے چکے ہیں کہ مسیح نے اپنے پیچھے کوئی کتاب نہیں چھوڑی بلکہ اپنا اسوہ چھوڑا (مسیحیت کی عالم گیری صفحہ ۵۲) اس سوال کے جواب میں پادری صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ انہیں کے الفاظ میں بالانقصاص درج ذیل ہے۔

”منجی کو نین (سچ) نے اس جلسہ کی تمام کی توانائی اور عظیم طاقت کو راہ خدا میں خرج کر دیا۔ خدا نے آسمان کی بادشاہت کو ذیانا میں قائم کرنے کی مبارک خدمت آپکے پردہ کی تھی۔ پس آپ نے اپنی ساری عمر کو بے نظر ایثار نفسی کے ساتھ فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔“

(صفہ ۴۰، ۳۹)

**مجیب:** مطلب یہ ہے کہ مسیح کا مدت العربے نکاح رہنا ان کی خاص دینی خدمت کی وجہ سے تھا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ پادری صاحب اپنے پہلے دعویٰ کو کیوں بھول گئے۔ جس میں بلا استثناء تعلق ازدواج کو ضرور قرار دیا تھا۔ اب اس سے استثناء کر کے اپنے دعویٰ کو کیوں کمزور کر دیا، خیر ہمیں اس سے بھی تعریض نہیں ہاں اس عبارت سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ امت کا ہر فرد اپنے مقتدا کی اتباع کرنے کا مجاز بلکہ مامور ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہر مسیحی پر واجب ہے یا کم سے کم اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ ساری عمر کے لئے تجوڑ اختیار کرے۔ علاوہ اس کے ہم پوچھتے ہیں کہ دینِ اللہ کی خدمت کرنے کیلئے مسیح سے پہلے بھی انبیاء علیهم السلام ذنیا میں آتے رہے اور ان کی تبلیغ سے بہ نسبت اتباع مسیح کے بہت زیادہ لوگ مستفیض ہوئے اس کے باوجود انبیاء کرام اہل و عیال بھی رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً  
(پ ۱۳: ع ۱۲)

**ترجمہ** ”اے پیغمبر! ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے ان کے لئے یوں اور اولادیں بنائیں۔“

**تعجب ہے!:** پادری صاحب نہ ہب عیسوی کی کمزوری اپنے زور کلام سے دبار ناچاہتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ:

”قرآن مجید میں اللہ کی ذات کی نسبت آیا ہے۔“ لم یلد ولم یولد“ اور ”ولم تکن له صاحبة“ یعنی نہ وہ جنائیا اور نہ اس نے کسی کو جنائزہ اس کی کوئی جورو ہے۔ چونکہ کلمۃ اللہ کو ہر طرح کی مناسبت صرف خدا کے ساتھ ہے لہذا دنیاوی اعتبار سے نہ آپ کا کوئی باپ ہو سکتا تھا۔ نہ کوئی اولاد نہ کوئی جورو۔“ ---- (صفحہ ۵۵)

**مجیب:** خلاف تھا اس کو آپ چھوڑ گئے۔ وہ لفظ ”لم یولد“ ہے۔ جس کے معنی ہیں کہ خدا کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بر عکس مسیح کی نسبت انجلیل میں آیا ہے کہ یوسع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی (انجلیل متی باب اول)

اس صفت "لَمْ يُولَدْ" پر بھی تو کچھ توجہ کی ہوتی۔ ایسا آپ کیوں کرتے جب کہ مسیحیت کی الوہیت توڑنے کو یہی صفت کافی تھی۔ جو آپ کو کسی طرح پسند نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں۔

سے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے  
مقام مسرت: مسلمان اس موقع پر جس قدر خوشی کا اظہار کریں جا ہے کہ پیغمبر اسلام کمالات میں سے اعلیٰ کمال ہے اپنی ساری عمر دینی خدمت میں صرف کردی۔ جالل اقوام سے جو تکالیف اٹھائیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ ایک طرف بت پرستوں سے مقابلہ ہے دوسری طرف یہودیوں سے تیری طرف خدا کے منکریں (دہروں) سے اور چوتھی طرف تین معبودوں کے ماننے والے عیسائیوں سے ان مشکلات کے باوجود آپ زن و فرزند کے ساتھ صاحب عیال نظر آتے ہیں۔ کیا مجال کہ عیال داری خدمت دین سے کسی طرح مانوس ہو سکے۔ انہی معنی میں کما گیا ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری  
 آنچہ خوبی ہمہ دارند تو تنہ داری

اس سے آگے پادری صاحب نے اپنی عادات کے مطابق طول کلامی سے کام لیتے ہوئے اسی مضمون کو ربوہ کی طرح چینچ کر صفحہ ۵۷ تک پہنچا دیا۔ جس کا جواب ہماری تحریر میں آچکا ہے ہاں اسی ضمن میں آپ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ

- نکاح متعہ قرآن سے ثابت ہے۔
- نکاح متعہ اور رنڈی بازی میں فرق نہیں

چینچ: فقرہ نمبر اول کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس لئے ہم پادری صاحب کو چینچ دیتے ہیں کہ آپ لاہور میں جلسہ منعقد کر کے قرآن مجید کے متن میں سے متنه کا ثبوت دیں تو ہم شکر گزاری کے علاوہ کچھ مٹھائی بھی پیش کریں گے۔

لطیفہ: ایک عیسائی واعظ کے ساتھ تشییث پر گفتگو ہو رہی تھی۔ موصوف نے کہا کہ آپ خواہ مخواہ تشییث کا انکار کرتے ہیں۔ تشییث تو مسلمانوں کی بسم اللہ میں بھی

پائی جاتی ہے۔ دیکھئے اللہ، رحمان، اور رحیم تین الفاظ ہیں اور تینوں کا مصدقہ ہے۔ بس یہی شدید ہے۔

ایسے فرم قرآنی کی دوسری مثال یہی ہے جو قرآن مجید سے متعہ کے ثبوت میں پادری برکت اللہ صاحب کی تحریر میں ہمیں ملتی ہے۔ غنیمت ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن خوانی کے وقت قرآن کو اپنی رائے کے تحت نہ کیا کریں ورنہ کہا جائے گا۔

گر تو قرآن بہیں نمط خوانی بہری دعویٰ ہم دانی  
آگے چل کر پادری صاحب نے صفحہ ۷۶ پر یہ عنوان قائم کیا ہے۔

## ”والدینی جلت کی خصوصیات“

یہ عنوان اپنے معنی بتانے میں صاف ہے کہ اس کے ماتحت والدین اور اولاد کے تعلقات مذکور ہوں گے مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ پادری صاحب ایسے صاف عنوان کے ماتحت (جو انہوں نے خود ہی قائم کیا ہے) مسئلہ طلاق کو زبردستی گھیث لائے ہیں۔ ملاحظہ ہو صفحہ ۸۷ تا صفحہ ۸۲ خیریہ تو آپ جانیں اور آپ کا کام۔ آپ کی تصنیفات پبلک میں شائع شدہ ملتی ہیں وہ خود اندازہ کرے گی۔ اس عنوان کے ماتحت آپ نے عجیب و غریب رنگ دکھائے ہیں۔ ہم قارئین کی ضیافت طبع کے لئے کچھ عبارت نقل کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ پادری صاحب اسلام اور اہل اسلام پر ظلم کرتے ہیں یا اپنے علم و دیانت کا اظمار فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ۔

”ماں باپ کی جلت کے عمل میں جب ممانعت یا مزاحمت ہوتی ہے تو اس سے غصہ ظمور میں آتا ہے اور یہ انسان کی معاشرتی زندگی کے لئے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً جب کوئی ہمارے بچوں کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے تو ہم کو طیش آتا ہے، یہ غصہ غضب اور جوش در حقیقت تمام اخلاقی ناخوشنودی اور اخلاقی استحقاق کی جڑ ہے۔ جو بچوں یا بے کس لوگوں یا نادانوں کی تکلیف یا ان پر ظلم اور زیادتی دیکھ کر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ دور حاضرہ میں انسان کی معاشرتی زندگی میں اس جلت کا میدان بہت وسیع ہو گیا ہے اور لطیف اور

نازک جذبے اسی جلت کی وجہ سے برا گھینٹہ ہوتے ہیں۔ مثلاً غلامی کے خلاف تحریک، بچوں، حیوانوں، اچھوت اقوام پر ظلم کی بندش اور ممانعت کی انجمنوں کا قیام۔ کاشتکاروں کے غلامانہ سلوک کا اندازہ وغیرہ اسی کی وجہ سے ہیں۔ یہ نازک جذبات ہم کو مصیبت زدہوں کے رفق ہنادیتے ہیں۔ اور ہمدردی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ کہ آپ کی مصیبت کو کم یا ختم کر دیا جائے۔ پس ماں باپ کی جلت یا ولادیٰ جلت صرف والدین کی شفقت کی ہی ماغذہ نہیں۔ بلکہ جملہ نازک جذبات کی ماغذہ ہے۔ چنانچہ خیرات اور سخاوت کاظموں، شفاخانوں کا اجر اور زر خلیل کا خرچ وغیرہ بھی اسی جلت کی وجہ سے ہیں۔ ”۔۔۔۔۔ (۲۶، ۷۷)

**مجیب:** سب شاخوں کو حاوی ہو سکتا ہے۔ غلاموں کی آزادی کی خواہش، حیوانوں کی حفاظت اور اچھوت اقوام کی ترقی کا خیال کیا یہ سب شاغرین والدین کی فطرت کا تقاضا ان پادری برکت اللہ صاحب سے نہیں بلکہ علمائے مسیحیہ سے پوچھتے ہیں۔ کہ آپ نے ایسے انسان دیکھے ہوں گے جو باوجود بے اولاد ہونے کے غلاموں کی آزادی چاہتے ہیں۔ اچھوتوں کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ کاشتکاروں سے حسن سلوک کے لئے کوشش رہتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ مروت اور نیک سلوک سے پیش آتے ہیں۔ پھر ان باتوں کو والدین جلت پر متفرع قرار دینا کماں کا فلسفہ ہے آگے چل کر اسی عنوان کے ماتحت آپ صفحہ ۸۷ پر والدین جلت اور طلاق، مسیحیت اور طلاق اور صفحہ ۸۸ پر اسلام اور طلاق وغیرہ ضمنی سرخیاں لکھ ماری ہیں اور صفحہ ۸۹ پر لکھا ہے ”جلت والدین کی راہ میں طلاق کی اسلامی تعلیم ایک ناقابل گذر رکاوٹ ہے۔“

پھر جی خوش کرنے کو خود ہی یہ نتیجہ نکلا ہے کہ  
پس اسلام دین فطرت نہیں ہو سکتا (چلو چھٹی شد)  
آخر بڑی طول کلامی کے بعد آپ اصل لائن پر آگئے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

## والدین جلت اور بچوں کے فرائض

اس عنوان کے ماتحت آپ نے تسلیم کیا ہے کہ

”انجیل اور قرآن میں فرزندوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق احکام ہیں۔“

(صفحہ ۸۳) ----

اس موقع پر جملہ معرفت کی صورت میں ہم ایک فقرہ کہنا چاہتے ہیں کہ انجیل میں بچوں کے فرائض نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو جناب یوسع مسیح ان پر ضرور عمل کرتے۔ حالانکہ بقول یوحنان مسیح نے اپنی والدہ مکرمہ کو ناک بھوں پڑھا کر مخاطب کیا تھا۔ وہ قصہ سننے کے قابل ہے۔ اصل الفاظ یہ ہیں۔

”تیسرا دن قاتائے جلیل میں کسی کا بیاہ ہوا اور یوسع کی ماں وہاں تھی اور یوسع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس بیاہ میں دعوت تھی اور مجھے (شراب) گھٹ گئی۔ یوسع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہ رہی۔ یوسع مسیح نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔“ ..... (یوحناباب ۲)

قارئین!: اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ الفاظ کہ ”اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، ادب و مجلس شراب خوری کی تھی اس لئے اس کے اثر سے اگر یہ فقرہ منہ سے نکل گیا ہو تو قابل درگذر ہے شیخ سعدی نے بھی اسی لئے کہا ہے۔

محتب گرے خورد معذور دار و مست را

اس کے مقابلہ میں قرآن مجید کی تعلیم سنئے۔ اولاد کو حکم ہوتا ہے۔

فَلَا تَقْلُ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَزْ هُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

(پ ۱۵: ع ۳)

**ترجمہ** اے لوگو! اپنے والدین کو اف (ہوں) بھی نہ کما کرو اور نہ ان کو جھز کر کر بلکہ ان کو عزت سے خطاب کیا کرو۔

اس موقع پر ہم یہ کہنے سے نہیں رک سکتے کہ پادری صاحب نے قرآن مجید کو اس تعمق دمبار سے نہیں پڑھا جس کا وہ حقدار ہے۔ سنئے خود قرآن میں مذکور ہے کہ قرآن دانی کے دو درجے ہیں ایک درجہ تلاوت ہے۔ جس کا ذکر ”بِتَّلُونَ كِتَابَ اللَّهِ“ کے الفاظ طیبہ میں ہے۔ دوسرا درجہ تدبیر و غور کا ہے۔ جس کے متعلق ارشاد ہے۔

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالُهَا ---- (پ ۲۶ : ع ۷)

یہ آیت صاف لفظوں میں ارشاد کر رہی ہے کہ قرآن خوانی سے اوپر بھی ایک درجہ ہے۔ جس کا نام تدریب ہے۔ یعنی قرآن مجید میں گھری نظر سے غور کرنا۔

ہم بلا تعصب کرتے ہیں کہ ہم نے مخالفین اسلام کو آریہ ہوں یا عیسائی زیادہ سے زیادہ تلاوت کے درجہ تک پہنچا ہوا پایا ہے۔ ان میں سے کئی ایک تو اس سے بھی نچلے درجے میں ہیں۔ خیریہ مقام اس گھر کی تفصیل کرنے کا نہیں ہے۔ ورنہ ہم عیسائیوں کے متعلق بھی بہت گھٹیا درجے کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آریوں کے متعلق ایک مستقل رسالے میں دکھائی ہوئی ہیں۔ جس کا نام ہے۔ سو ای دیانت د کا علم۔

اب اصل سوال کا جواب سنئے! قرآن مجید میں بچوں کی ماوں کو ارشاد ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يَرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ---- (پ ۲ : ع ۱۳)

**ترجمہ** (ماہیں اپنی اولاد کو دو سال تک دودھ پائیں)۔

یہ حکم کیا صحیح اور قانون قدرت کے موافق ہے۔ چونکہ ماوں کے ذمے دودھ پلانے کی خدمت لگائی گئی ہے۔ اس لئے باپوں کو ارشاد فرمایا۔

وَعَلَى الْمَوْلُودَةِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَغْرُوفِ ---- (پ ۲ : ع ۱۳)

**ترجمہ** یعنی بچوں کے باپوں پر باپ ہونے کی حیثیت سے واجب ہے کہ عورتوں کے تمام اخراجات پورے کرے۔

اور سنئے! ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے حق میں یوں ذعا کرو۔

رَبِّ ازْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ---- (پ ۱۵ : ع ۳)

**ترجمہ** اے میرے خدا میرے ماں باپ پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی جبکہ میں کم سن بچہ تھا۔

یہ آیت اشارہ النص کے طریق پر بچوں کی پرورش کرنا ماں باپ کا فرض بتا رہی ہے کیونکہ میٹا اس نسبت کو بخوبی رکھ کر ماں باپ کے لئے ذعا کرتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی تربیت حسب حیثیت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ جس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی آپ نے حضرت مسیح کا قول نقل کیا ہے کہ ”کسی بچے کو ناجائزہ جانو۔“ آپ قرآن مجید پر تدریب کرتے

تو اس سے بڑھ کر پاتے۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ عرب نصف اولاد (لڑکیوں) کو نہایت کمرہ سمجھتے تھے۔ جس کا نقشہ مولانا حامل مرحوم نے اس بند میں دکھایا ہے۔ ”

جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی تھی جو خاوند کے تیور کمیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جاکر وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی

بنے سانپ جیسے کوئی جنے والی

اس رسم قبیع کے متعلق جواہر شاد باری پہنچا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

**وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ فَثَلَثَمْ كَانَ حِظًا كَبِيرًا** ---- (پ ۱۵: ع ۲)

**ترجمہ** اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے مت قتل کرو ہم ہی رزق دیں گے ان کو بھی اور تم کو بھی بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔

پھر اس ممانعت ہی پر قناعت نہیں کی۔ بلکہ روز قیامت کا ہبہ ناک نظارہ سامنے ای رشاد فرمایا۔

**وَإِذَا الْمُؤْدَدُ دَهْ شَيْلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ** ---- (پ ۳۰: ع ۶)

**ترجمہ** اس زندہ گاڑی ہوئی بچی کے متعلق سوال ہو گا کہ کس جرم کی پارادیش میں قتل کی گئی۔

کس قسم کا ہبہ ناک نظارہ ہے۔ امیر خزو مرحوم نے اسی طرح کو لے کر کیا ہی لطیف شعر کہا ہے۔ آپ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ ”

بروز حشر گر پر سند خزو راچدا کشتی

چہ خواہی گفت قربات شوم تامن ہاں گوئم

**قارئین!** ان ہر دو ارشادات کو ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن مجید نے جبکہ صرف نا زک اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اولاد نرینہ کی حفاظت کماں تک محدود ہو گی۔ اسی لئے لڑکیوں کے قتل کی ممانعت کے موقع پر ”لَا تَقْتُلُوا بِنَاتِكُمْ“ نہیں فرمایا بلکہ ”لَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ“ ارشاد

فرمایا۔ تاکہ یہ حکم اولاد کے دونوں صنفوں (لڑکے، لڑکی) کو شامل ہو جائے۔ ہم نے اپنے دعوے کو آیت سے استنباط ہی نہیں کیا بلکہ ”زیبانی“ کا صریح لفظ پیش کر دیا جو مان باپ کا فعل ہے اور یہ بات قرآن دان حضرات سے مخفی نہیں ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب بیان مختلف ہے۔ بعض جگہ تو صراحتہ صیغہ امر و نہی سے حکم دیتا ہے اور بعض جگہ جملہ خبریہ کی صورت میں حکم یا منع ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

(۱) وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْسُؤُنَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا ①

(پ ۱۹: ع ۳)

(۲) وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَّا مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْثُنَ ②

(پ ۱۹: ع ۳)

## ”والدینی جبلت اور ذاتِ الہی“

اس سرفی کے نیچے آپ یوں گویا ہوئے ہیں۔

”غالق نے والدینی جبلت ہماری شریعت میں دیجت فرمائی ہے پس اس جبلت کے تقاضاؤں کو انسان بخوبی جانتا ہے۔ پس اگر کوئی نہ ہب ایسا ہو جو اس جبلت کے ذریعہ خدا کی ذات کا علم ہم پر مکشف کرے تو ہم ثم اس علم کو جان سکیں گے۔ چونکہ یہ جبلت دیگر جبلتوں سے قوی اور طاقت در ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی نہ ہب خدا کی ذات و صفات علم جبلت والدینی کے ذریعہ ہم پر ظاہر کرے تو ہم اس کو اس جبلت کے ذریعہ خدا کی ذات و صفات کا علم زیادہ حاصل ہو سکتا ہے۔“ ..... صفحہ ۸۶)

مجیب: معلوم نہیں پادری صاحب اسلام کی مخالفت میں کیوں ایسی روشن اختیار کئے ہوئے ہیں۔ جس کو کوئی عقل مند پسند نہ کرے۔ ہمارا گمان ترقی کر رہا ہے۔ (اگر ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ جیسے ذی علم مصنف کے حق میں یہ گمان غلط ہو کہ آپ اپنے

❶ خدا نے رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر فروختی سے چلتے ہیں۔ ۱۴۰۷ء

❷ نیک بندے وہ ہیں جو کسی جاں کو ناقص قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔

تجویز کردہ عنوانات کو خود نہیں سمجھتے۔ ایک مثال کے ذریعہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ غور سے سنئے!

**مثال:** ایک شخص (زید) کسی جگہ بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے اس کا باپ ہے۔ اس کے ساتھ ہی دائیں طرف اس کی ماں اور بہن ہیں اور بائیں طرف اس کا خر، ساس اور سالی ہیں۔ پیچے کی طرف اسکا بیٹا ہے۔ جس کے ساتھ اس کا ایک دوست اور ایک دشمن ہے زید جو درمیان میں بیٹھا ہے۔ اس کی حیثیتیں اور تعلقات مختلف ہیں۔ باپ کے ساتھ اس کا جو قدرتی تعلق ہے (جس کو پادری صاحب جلت کرتے ہیں) وہ بیٹے کے ساتھ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بر عکس ہے۔ یعنی زید اپنے باپ کے لئے مطیع اور اپنے بیٹے کے لئے مطاع ہے۔ اسی طرح زید کے ساتھ ماں کا تعلق ساس کے تعلق سے مغایر ہے اور یہوی کا تعلق بہن کے تعلق سے مغایر ہے۔ ان سب تعلقات کے احکام الگ الگ ہیں۔ لیکن پادری صاحب اسلام پر نہیں، بلکہ اپنے علم پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ والدین جلت میں تصورِ الہی کو داخل کرتے ہیں حالانکہ خالق و مخلوق کا تعلق انسان کے باہمی تعلقات سے بالکل الگ ہے۔ اس میں کیا مشک ہے کہ ہمارے مشاہدہ میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا سے منکر ہیں۔ مگر ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور بہت سے لوگ والدین کے تو فرمان بردار ہیں۔ مگر بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بر عکس بعض بچوں پر جان فدا کرتے ہیں۔ مگر والدین کے سخت نافرمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی عیش پسندی کی وجہ سے والدین کے بھی نافرمان ہوتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی بے پروا اغرض یہ سب تعلقات الگ الگ ہیں۔ اس لئے ان کے ثمرات بھی جدا گانہ ہیں۔ اہل علم کے نزدیک اس کی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ورنہ ہم بہت کچھ دکھاتے۔ پس آپ کا جلت والدین میں تصورِ الہی کو داخل کرنا علم کی شان سے بعید ہے۔

چونکہ پادری صاحب تصورِ الہی کو جلت والدین میں داخل کرچکے ہیں۔ اس لئے اس کا جواب دینا ہمارے خیال میں مناسب ہے۔ گو ضروری نہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔

### والدینی جلت اور مسیحی اور تصورِ خدا:

مسیحیت کے دین فطرت ہونے کا یہ بین ثبوت ہے کہ ہم خدا کی ذات کا علم اس طور پر حاصل

کر سکتے ہیں۔ مسیحیت کی یہ تعلیم ہے کہ خدا بھی نوعِ انسان کا باپ ہے پس ہر انسان اپنی والدینی جبلت کے ذریعہ خدا کی ذات کا تصور قائم کر سکتا ہے۔ اور اپنے تجربہ کی بنابر خدا کی محبت اور اس کے ایثار کا اندازہ کر سکتا ہے۔”..... (صفحہ ۸۶)

**مجیب:** خدا کو اب یارب کرنے کی بحث کتاب ہذا میں صفحہ ۲۸ سے صفحہ ۳۰ تک ہو چکی ہے جس سے ثابت کیا گیا ہے کہ خدا کو اب کمنا کسی طرح صحیح نہیں۔ مزید تشریع کے لئے پادری صاحب کو ان کی کتاب دین فطرت کے صفحہ ۲۵ پر توجہ دلائی جاتی ہے۔ جمل انہوں نے اپنی کتاب مقدس پیدائش کی عبارت ادھوری نقل کی ہے اور ہم نے کتاب ہذا میں پوری نقل کر کے تصویر کا دوسرا رخ دکھلایا ہے۔ اصل عبارت نقل کرنے سے پہلے ہم واقعات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ انسان کی اولاد کی اکثریت مال باپ کی قدر ناشناس ہے۔ کتاب مقدس تورات کا بیان بصورت پیش گوئی اس کی تائید کرتا ہے جو یہ ہے کہ مرد اپنے مال باپ کو چھوڑے گا۔۔۔ (پیدائش باب ۲: ۲۲)

عارف باللہ حافظ شیرازی نے انسانی اولاد کا نقشہ کیا اچھا بتایا ہے کہ۔۔۔

دھتریں راہمہ جنگ است و جدل با مادر

پرال راہمہ بد خواہ پدرے نہ نہم

بس اس مشاہدے اور کتاب مقدس کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو باپ مانتے سے باہمی اتصال حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے مسیحی تعلیم فطرت کے خلاف ہے اور پادری صاحب کا تصور خدا کو والدینی جبلت میں داخل کرنا تو بست ہی غلط ہے آگے چل کر آپ نے مسیحی مذہب کے مقابلہ میں اسلام کا ذکر کریوں کیا ہے کہ

”اسلام میں اس قسم کا تصور نہیں پایا جاتا۔ قرآن کے مطابق خدا کی ذات محبت نہیں اس کے بر عکس اللہ بے نیاز ہے (سورہ اخلاص ۲، بقرہ ۲۷، آل عمران ۹۲، ناء ۱۳، یونس ۶۹، حج ۲۹) وغیرہ) پس اللہ اور انسان میں رفاقت ناممکن ہے۔”..... (صفحہ ۸۷)

**مجیب:** خدا کی بے نیازی کا ذکر اور اس اعتراض کا جواب کتاب ہذا میں صفحہ ۹۱ پر درج ہو چکا ہے۔

ہمیں حیرت ہے کہ پادری صاحب کا خیال کمال تک ترقی کر گیا ہے آپ لکھتے ہیں

کہ:

خدا بھی نوع انسان کے ساتھ ابدی اور امیں محبت رکھتا ہے۔ لہذا اپنی پدرانہ محبت اور پیار کی وجہ سے خدا انسان کی خاطر ہر قسم کا دکھاوار رنج برداشت کرتا ہے۔ والدین کی محبت کا ظہور اسی میں ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۸۵)

**صفحہ ۸۲ کے اقتباس میں آپ نے یہ نتیجہ استخراج کیا تھا کہ**

**مجیب:**

”لازم ہے کہ دین فطرت بچوں کو ان کی ذمہ داریوں کے متعلق آگاہ کرے۔“

اس کا جواب ہو چکا۔ اس اقتباس میں آپ خدا کی ذمہ داری اور اس وجہ سے اس کے دکھ اٹھانے کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس عقیدہ کی مضرت کا خیال نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ بنی نوع انسان کو گمراہی میں کھاں تک ترقی دے سکتا ہے۔ اس لئے ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ اسلام نے خالق اور مخلوق کے درمیان کسی ایسی نسبت یا تعلق کو پسند نہیں کیا جو انسانوں کی گمراہی کا سبب ہو سکے۔

**قارئین!:** پادری صاحب نے چونکہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا انسان کے لیے دکھ اٹھاتا ہے اس لئے اس کی تشریع آپ نے مندرجہ ذیل فقرے میں یوں کی ہے جو پہلے سے عجیب تر ہے آپ فرماتے ہیں۔

”خدا کی پدرانہ شفقت اس امر کی متقاضی ہوئی کہ جب ہم کمزور تھے تو ہمین وقت پر سچے بے دخیلوں کی خاطر ہوا۔۔۔۔۔ (صفحہ ۹۰)

**مجیب:** جل جلالہ! یہ بیان دراصل مسئلہ کفارہ ہے جس کا جواب ہم کتاب ہذا کے گذشتہ صفحات میں دے چکے ہیں۔ اسی طرح آپ کامندرجہ ذیل فقرہ بھی اہل الصاف کی توجہ کے قابل ہے جو آپ لکھتے ہیں کہ

”قرآنی تعلیم کے مطابق خدا کی ذات میں محبت اور ایثار نہیں۔ پس صرف مسیحیت کی تعلیم ہی فطرت کے مطابق ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۹۰)

اللہ اللہ! کس قدر حق سے دشمنی ہے کہ قرآنی تعلیم کے مقابلہ میں دو دو نے چار کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ خدا کی محبت کا ذکر ہم کتاب ہذا کے صفحہ ۱۳۰، ۱۳۱ پر بالتفصیل کرچکے ہیں۔ یہاں پھر ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ وَفِي رَّجْنَمٍ ۔۔۔ (بِ:۲)

**ترجمہ** ”قد الوگوں کے حال پر بارہم کرنے والا اور مریان ہے۔“

کیا ہی صحیح ہے۔۔۔

تو کریمی تو رحیمی تو سمیعی تو بصیری  
تو معزی تو نلی ملک العرش بجلائی  
آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں۔

### جللت والدینی اور مسیحی اور اسلامی اخوت انسانی:

كلمة الله نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ چونکہ خدا ہمارا باپ ہے۔ لہذا کل بنی نوع انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اخوت انسانی ابوت خداوندی کا لازمی اور منطقیانہ نتیجہ ہے آپ نے فرمایا ”میرا حکم یہ ہے کہ جیسا میں نے تم سے محبت رکھی تھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔“ یو حتا۔۱۵-۱۶، یو حتا۔۳-۴، یو حتا۔۱۳-۱۴ وغیرہ) جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر تم اپنے محبت کرنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ اور ان کا بھلا کرو تو تم خدا تعالیٰ کے بیٹھے نہ ہرو گے۔“ (لوقا۔۳۱-۳۲) کلمة الله کے اصول ابوت إلهی اور اخوت و مساوات انسانی مسیحیت کو تمام ادیان عالم سے ممتاز کر دیتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اس کو عالمگیر نہ ہب اور دین فطرت بنا دیتے ہیں۔ نوع انسانی کے متعلق آپ (مسیح) کا نصب العین ایک خاندان کا نصب العین ہے۔ جس میں کل اقوام عالم کے تمام افراد ایک ہی خاندان کے متعلق کئے گئے ہیں۔ پس کلمة الله نے والدینی جلت کے ذریعہ خدا کی محبت اور ابوت اور انسانی اخوت و مساوات کے اصول کی حقیقت ہم پر مکشف کر دی۔ اسلام میں اخوت انسانی کا اصول ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ قرآن میں ایک جگہ یہ دائرہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں (حجرات آیت ۱۰) اس آیت کے ذریعہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اہل اسلام کے ساتھ برادرانہ سلوک کریں۔ لیکن ان پر یہ فرض نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم سے محبت رکھیں۔ کیونکہ غیر مسلموں سے محبت کرنا قرآن میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ ان کے برعکس ان کے ساتھ دشمنی

رکھنے اور لڑنے کے احکام قرآن میں بکثرت موجود ہیں۔ (ماں دہ آیت ۵۶، ۲۲) محدث آیت ۹ وغیرہ وغیرہ، اہل اسلام کو حکم ہے کہ یہودی شرع کی طرح اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت رکھو۔ ”یہاں تک کہ اسلام نے ذینا کو دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے۔ ایک دارالسلام اور دوسرا دارالحرب اور مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کہ غیر مسلموں کو قتل کریں۔ خواہ یہ بات مسلمانوں کو بری لگے۔“

(بقر آیت ۲۱۳) ---- (صفحہ ۹۰ تا صفحہ ۹۲)

اس مضمون کا جواب ہم کتاب ہذا میں گذشتہ صفحات پر دے آئے ہیں۔ وہیں آپ کے مندرجہ ذیل فقرے کا جواب بھی مذکور ہے کہ:

”اسلام میں اخوت، انسانی کا اصول ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔“

ہاں آپ کا یہ فقرہ واقعی قابل غور ہے۔

”کلمۃ اللہ کا نصب العین ایک خاندان کا نصب العین ہے۔ جس میں کل اقوام عالم کے تمام افراد ایک ہی خاندان سے متعلق کئے گئے ہیں۔“---- (صفحہ ۹۳)

مجیب: ہمیں تعجب ہے کہ پادری صاحب قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے قرآن سے بے خبر رہنے کے ساتھ انجلی سے بھی کیوں بے خبری کا ثبوت دیتے ہیں۔ سنئے!

انسانی برادری اور اخوت انسانی کی مفصل بحث ہم صفحہ ۳۰-۲۲ پر کر آئے ہیں یہاں اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں مسیحی تعلیم متعلقہ اخوت انسانی کا نمونہ دکھاتے ہیں۔

کلمۃ اللہ نے اپنے مخالفین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ

”اے سانپوں کے بچوں کے بچو! ثم برے ہو کے کیوں نکرا چھپی بات کہ کہتے ہو۔“

(متی ۱۲: ۳۳) ----

اور سنئے! ایک کنعانی عورت کی تلاش ڈعا پر مسیح نے فرمایا۔

”مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں ① کو پھینک دیں۔“---- (متی ۱۵: ۲۶)

ان حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ بقول پادری صاحب مسیحی مذہب میں تیلیٹ کی طرح انسانی برادری کے بھی تین اقوام (اصناف) ہیں۔ ایک آدم زاد دوسرے سانپوں کے بچے اور تیسرے کتوں کے بچے۔ بس بقول پادری صاحب یہ تینوں اصناف انسانی برادری میں داخل ہیں۔ معاف فرمائیے قرآن مجید ان تینوں گروہوں کو انسانی برادری میں شمار نہیں کرتا۔ بلکہ وہ انسانی برادری کے متعلق یوں ارشاد فرماتا ہے۔

يَا إِيَّاهَا النَّاٌشِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ..... (پ ۲۶: ع ۱۳)

**ترجمہ** (اے لوگو! تم سب ایک ہی ماں باپ آدم اور حوا کی اولاد ہو)

لیس لعربی علی عجمی فضل کلکم بنو ادم وادم من التراب  
(الحدیث)

**ترجمہ** عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ثم سب انسان آدم کے بیٹے ہو۔  
اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔

آگے چل کر صفحہ ۹۳ پر پادری صاحب نے جماد سے متعلق چند احادیث پر اعتراض کیا ہے۔ مسئلہ جماد کی تفصیلی بحث کتاب ہذا میں گذشتہ صفات پر گزر چکی ہے۔ آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں۔

## ”جلت والدین“ اور ”مسیحی اور اسلامی فضائل:

”والدین جلت کے ساتھ وہ تمام لطیف جذبات وابستہ ہیں جن پر مسیحی تعلیم زور دیتی ہے۔“  
چنانچہ کلمۃ اللہ کی تعلیم میں ول کی غریبی، حلم، رحم، صبر، صلح، پاکیزگی، محبت، ایثار نفسی، خود فراموشی وغیرہ کو افضل جگہ دی گئی ہے اور یہ نسوانی فضائل ثمار کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اسلام نے ہیئت مردانگی، شجاعت، جنگ، جماد، حکومت، سیاست، غنیمت، قصاص وغیرہ پر زور دیا ہے جو مردانہ فضائل ہیں۔ والدین جلت کا تعلق نسوانی فضائل، نازک، جذبات اور لطیف خیالات کے ساتھ ہے۔ لیکن مردانہ فضائل نازک اور لطیف جذبات کو ٹھکراتی ہیں۔ پس اس پہلو سے بھی اسلام کی نسبت مسیحیت کا تعلق والدین جلت اور انسانی فطرت کے ساتھ زیادہ قریب ہے۔“۔۔۔۔۔ (صفہ ۹۳)

**محبیب:** معلوم نہیں پادری صاحب جلت والدین کو کہاں تک کھینچ کر اپنی کتاب کو طول دیتے جائیں گے۔ ان سب باتوں کے جوابات اگرچہ اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ تاہم یہاں بھی کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں قرآن کریم ایک حکیمانہ کتاب ہے اور ہر چیز اور ہر کام میں اعتدال رکھنا حکمت کا اصول ہے۔ اسی لئے قرآن مجید میں ارشاد ہے ”بِعَدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ“ ہر کام میں اعتدال رکھا کرو کیونکہ اعتدال ہی تقویٰ کے درجے تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ ہے)

ذینما میں کوئی قوم حاکم ہوتی ہے اور کوئی رعایا۔ اس کے علاوہ مختلف قوموں کی ایک دوسرے سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے اس لئے جہاد کا حکم دے کر اس کا بوجھ مردوں کے کندھوں پر ڈالا گیا جو اس کو برداشت کر سکیں۔ باوجود اس کے رحم، معانی، صبر وغیرہ سب اوصاف کو لمحوں رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

(۱) وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْغَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
(پ ۲۴:۵)

(۲) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔  
(پ ۲۵:۵)

(۳) وَالصُّلُحُ خَيْرٌ --- (پ ۵:۱۶)

(۴) يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

(پ ۲۸:۳)

(۵) وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّيْئِلِ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

(پ ۵:۳)

- مؤمن وہ ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگذر کرتے ہیں۔ اللہ نیکو کار بندوں کو دوست رکھتا ہے۔

- ۲۔ جو صبر کرے اور بخش دے تو بے شک یہ بات پختہ ہے۔
- ۳۔ صلح سے اچھی چیز ہے۔
- ۴۔ ایمان دار لوگ اپنی حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔
- ۵۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت داروں اور تیمیزوں اور مسکینوں اور آس پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور پہلو میں بیٹھنے والے رفیق اور مسافر اور لونڈی غلام کے ساتھ (نیکی کرتے رہو) بے شک اللہ تعالیٰ تکبیر کرنے والے اور شخچ مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

ان آیات کے علیوہ اور بہت سی آیات ہیں۔ جن میں نہایت خوبی سے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے جو کسی سے مخفی نہیں اس کے باوجود پادری صاحب اگر قرآن پر اعتراض کریں تو کہا جائے گا۔

گل است سعدی و در چشم دشمنان خاراست

آگے چل کر پادری صاحب نے ایک عنوان بالفاظ جبلت ”والدینی اور غصہ“ قائم کیا ہے۔ اس عنوان کے ماتحت آپ نے کوئی بات قاتل اعتراض نہیں کی تاہم اس کے متعلق ہم قارئین کو آیت ”وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ“ کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔

آگے چل کر آپ نے ذیلی عنوان یوں رکھا ہے ”جبلت والدینی اور ایثار نفسی“ اس عنوان کے ماتحت بھی آپ نے کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ صرف حیوانوں، بچوں اور بے کسوں وغیرہ پر رحم کرنا جبلت والدینی پر متفرع قرار دیا ہے۔ اس کا جواب کتاب ہذا کے پچھے صفوں ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ ۲۲۲ پر ملاحظہ ہو۔

آگے چل کر ایک سرخی یوں لکھتے ہیں۔ ”سیکی اور اسلامی ایثار“ اس سرخی کے نیچے آپ نے پھر وہی باتیں دہرائی ہیں۔ جن کا جواب پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اس عنوان کے ماتحت جو کچھ آپ نے کہا ہے۔ وہ آپ ہی کے الفاظ میں درج ہے۔

دین نظرت کا کام یہ ہے کہ والدین جبلت کے میدان عمل کو وسیع کر دے اور اس باب میں مسیحیت کو کل ادیان عالم پر فوکیت حاصل ہے۔ بچوں، بے کسوں مظلوموں، محتجوں، بے یارو مددگار لوگوں کی خاطر اپنی خودی اور اہانتی کو دبانا اور ان کی خاطر ہر طرح کی ایثار نفسی کو کام

میں لانا مسیحیت کا جزو اعظم ہے۔۔۔۔۔ (مرقس ۳۵-۸)

ایک دفعہ ایک دولت مند شخص کلمتہ اللہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ ”اے استاد میں کونی نیکی کروں تاکہ ہیشہ کی زندگی پاؤں؟“ آپ نے جواب میں فرمایا ”اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بخ کر غریبوں کو دے تجھ کو آسمان پر خزانہ ملے گا۔“ (متی ۹:۲۲، ۹۶)

**مجیب:** اس اقتباس کے پہلے حصے کا جواب ہماری پیش کردہ آیات میں کافی ملتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور آیت پیش کرتے ہیں۔ جن کے الفاظ بہت وسیع المعنی ہیں۔  
إرشاد ہے۔

وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۔۔۔۔ (پ:۲۸، پ:۳)

**ترجمہ:** جو لوگ اپنے نفس کی شیخ یعنی غصہ حد وغیرہ نفلانی اوصاف سے بچ جائیں۔ وہی لوگ نجات پانے والے ہوں گے۔

مالدار کے قصہ کا جواب پہلے صفات پر ہو چکا ہے۔ آگے چل کر آپ نے ایک عجیب بات کی ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں۔

”جلت والدین کے میدان عمل کے وسعت کے مسئلہ پر غور کرتے وقت یہ لازم ہے کہ اس بات کی جانچ پر تال کی جائے کہ خیرات کا صحیح مصرف کیا ہے؟ اور کون اس کے متحقق ہیں۔ قرآن اس معاملہ میں ایک نرالی تجویز پیش کرتا ہے۔ کہ زکوٰۃ کامال ان لوگوں کے لئے ہے جن کے ول لائق دے کر ”اسلام کی جانب راغب کرنے“ مظہور ہیں۔ (سورہ توبہ آیت ۴۰) اور خیرات کامال جہاد کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لئے ہے کیا لائق دے کر مسلمان بناتا اور دشمنوں پر جہاد کرنے کے لئے خرج کرنا خیرات کو صرف کرنے کا اچھا طریقہ ہے؟ ہر صحیح العقل شخص اس کا جواب نہیں دے گا۔ اس کے بر عکس انجیل میں وارد ہوا ہے اگر تیراد دشمن بھو کا ہو تو اسے روئی کھانے کو دے پیاسا ہے تو اسے پانی پینے کو دے۔“ (روم ۱۳:۲۰) قرآن کہتا ہے کہ خیرات کے مال سے دشمنوں کا قلع قلع کر دے۔ انجیل کہتی ہے کہ خیرات کے مال سے بھوکے پیاسے دشمن جان تک کا پیٹ پال۔ قارئین خود اندازہ لگائتے ہیں کہ کون سا مذہب جلت والدین کے میدان عمل کو وسعت دیتا ہے۔۔۔۔۔ (صفہ ۹۹)

**مجیب:** اگر ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں فطرتِ انسانی کا مطالعہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں پادری صاحب کے ایسے اعتراضات پر بہت تجھب ہوتا۔ لیکن اب یہ نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ضد اور دشمنیِ انسان سے بہت سی غلط کاریاں کر دیتی ہے۔ سنئے! جہاد کا فعل چونکہ انبیاء علیمِ السلام کی شدت ہے اور دنیا کا انتظام بھی اسی پر موقوف ہے اس لئے اس فعل کے اچھا ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کی تفصیل صفحہ گذشتہ صفات پر درج ہو چکی ہے۔ جہاد کرنے والے بعض دفعہ مالی حیثیت سے کمزور ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو خیرات و زکوٰۃ کے مال سے سامان جنگ بھی پہنچانا۔ یا ان کی ضروریات میں مدد و ریا بلاشبہ نیکی کا کام ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یتیم کی تعلیم و تربیت کرنا یقیناً نیک کام ہے۔ اسی لئے اس کی تعلیم و تربیت میں جن چیزوں کی ضرورت ہو۔ مثلاً سامان از قسم خوراک و پوشک وغیرہ میا کرنا یقینی میں داخل ہے۔

یہ جواب ہم نے علی وجہِ اسلام دیا ہے ورنہ قرآن شریف میں مصارفِ زکوٰۃ کے بیان میں خاص جہاد کا ذکر نہیں ہے بلکہ عام حکم ہے کہ فی سَبِّيلِ اللہ (ہر ایک نیک کام میں زکوٰۃ کامل خرچ کرو۔ جہاد بھی ایک نیک کام ہے۔ اس لئے اس میں بھی خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ ساری آیت یوں ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُذَلَّةِ  
فُلُونُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْفَارِمِينَ وَ فِي سَبِّيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

(پ ۱۰۴: ۱۳)

**ترجمہ** سوائے اس کے نہیں کہ صدقاتِ مجاہوں کا حق ہے اور مسکینوں کا اور صدقات وصول کرنے والوں کا اور ان کا جن کی تالیف قلوب مخمور ہے۔ نیز غلام آزاد کرنے میں اور قرضداروں کے لئے اور راہ خدا میں اور مسافروں کی امداد میں (خرچ کئے جائیں)

اس آیت کا میدانِ کتناو سیع ہے۔ کوئی لفظ اس میں ایسا نہیں ہے جو مسکین اور غربا میں کفر و إسلام کی تمیز کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسکین اور غریب ہو اس کو زکوٰۃ میں سے حصہ دے سکتے ہو۔ ہاں آپ نے مولفۃ القلوب کے معنی سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔

حالانکہ آپ کا تبلیغی مشن اسی روشن پر چل رہا ہے۔ ہر شر اور ہر قریبہ میں عیسائی مشن میں یہ طریقہ جاری ہے کہ زیر تبلیغ غریاء کی امداد کی جاتی ہے۔ ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ مؤلفہ القلوب کے معنی ہیں۔ زیر تبلیغ لوگ یعنی جن کو مذہب کی خوبیاں بتائی جائیں اور وہ ان خوبیوں کو تسلیم کر کے اپنی ضروریات کو قبولیت مذہب میں منع کے طور پر پیش کریں۔ ان کی مالی امداد کرنا ہر ایک مذہب بلکہ عام انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔

**ایک صحیح واقعہ:** ایک روز میں اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی حاجی نور احمد صاحب سوداگر دہلی باڑہ ہندو راؤ کے مکان میں بطور مہمان ٹھہرے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں ایک پادری صاحب آگئے جو اسلام کو ترک کرچکے تھے۔ ان سے گفتگو ہوئی جب ان کے بشرہ پر قبولیت اسلام کے آثار نظر آنے لگے تو ہم نے پوچھا کہ اب منع کیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے اپنی ضروریات پیش کیں۔ ہم نے کہا انشاء اللہ پوری ہو جائیں گی۔ اس پر کہنے لگے کہ مجھے اتنی بات سے تسلی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ میرے نام پر کسی معقول کرایہ والے مکان کے کرایہ کی رجسٹری کرائی جائے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ ”وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا“ ہتا یے، ایسے اصحاب کی امداد کس طرح ناجائز ہو سکتی ہے۔

قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مال میں ایسے ہی مؤلفہ القلوب کا حصہ رکھا ہے اور قرآن کا یہ حکم حسن انتظام پر مبنی ہے جو کسی طرح محل اعتراض نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید دشمنوں کو بھی کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے۔ آیت ذیل غور سے پڑھئے۔

**یُظْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُتَّبِهِ مِسْكِينَةً وَرَتِيمَةً وَأَسْيَرَا -- (بٰ: ۲۹؛ غٰ: ۱۹)**

**ترجمہ** ”سومن وہ ہیں جو اللہ کی محبت سے ہر قسم کے مسکینوں تینوں بلکہ

تینیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ چاہے وہ بد کار اور بد معاش ہوں۔“

اس سے زیادہ ہم اور کیا باتیں۔

در خانہ اگر کس است یک حرف بس است  
آگے چل کر پادری صاحب نے یہ عجیب بات کی ہے کہ

تینیوں بے کسوں، دغیروں کے متعلق جو محركات مسکنی مذہب میں ہیں وہ اسلام میں نہیں ہیں۔

کیونکہ اسلام تقدیر کا قائل ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۰۰)

مسئلہ تقدیر بجائے خود صحیح ہے اور یہ علم الٰہی کا دوسرا نام ہے۔ قرآن اور اسلام کے نزدیک یہ مسئلہ احسان اور مروت سے مانع نہیں ہے تاہم پادری صاحب بقول ”تو مان نہ مان میں تیرا مسمان“ قرآن اور مومنین قرآن کو اٹھی تلقین کرتے ہیں کہ تم اس کو مانع خیرات سمجھو۔ ہم پادری صاحب کی یہ تلقین کسی طرح گوارہ نہیں کر سکتے۔ اس لئے سمجھو۔ (Return with thanks) کہہ کر شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ اس بحث کے اخیر میں بطور نتیجہ آپ لکھتے ہیں۔

”اس فصل میں جلت والدینی کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی ہے اور جس پہلو سے اسلام پر نہاد کی ہے۔ وہ دین فطرت نظر نہیں آتا۔“۔۔۔۔۔ (صفہ ۱۰۲)

مجیب: بے شک! آپ کے اس بیان کی تصدیق قرآن مجید میں آچکی ہے۔ غور سے سننے اور تدبیر سے پڑھتے ارشاد ہے۔

إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الدِّينِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
جِهَاجِهًا مَسْتُوْرًا۔۔۔۔۔ (پ ۱۵:۴)

**ترجمہ** اے پیغمبر! جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تمہاری قرات اور مکریں کے درمیان ایک خفی پر دہوال دیتے ہیں۔

غالب مرحوم نے اسی کہا ہے۔۔۔۔۔

کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کتے ہیں  
ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو ہرا کتے ہیں  
اس سے آگے پادری صاحب نے صفحہ ۱۰۳ پر فصل پنجم کا عنوان دے کر ”جنگ جوئی کی جلت کی خصی سرخی لکھی ہے۔ اس کے نیچے آپ نے بست طویل تمید پر وقت خرچ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ بانی فطرت کے تصرف سے آپ کے قلم سے یہ فقرہ بھی نکل گیا ہے کہ

”اگر غصے کا مقصد نیک ہو گا تو غصہ جائز ہو گا۔ اگر اس کا مقصد فشائے الٰہی کے خلاف ہو گا تو غصہ ناجائز اور منوع ہو گا اور مسیحیت جائز غصے کے خلاف نہیں۔“۔۔۔۔۔ (صفہ ۱۰۷)

اس تمید کے بعد آپ نے اصل مطلب پر آنے کو ایک سرخی یوں لکھی ہے۔

## ”غصے کی جلت اور قصاص“: اس سرخی کے نیچے آپ لکھتے ہیں۔

”اس قسم کے غصے میں اور انتقام کے غصے میں بعد المشرقین ہے۔ انجلیل جلیل میں بدلہ قصاص اور انتقام کی خخت ممانعت کی گئی ہے۔ کلمۃ اللہ نے فرمایا، تم من چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بد لے آنکھ اور دانت کے بد لے دانت۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر طماچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔“ (متی ۳۸-۵) اگر تم آدمیوں کے تصور معاف کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے گناہ معاف کرے گا۔“ (۱۰۸، ۱۰۹)

**مجیب:** قصاص کا ذکر کتاب ہذا میں آچکا ہے۔ قصاص کے معنی ہیں کسی قاتل کو فعل قتل یا ارادہ قتل کی سزا دینا۔ یہ سزا تعزیرات ہند کی دفعہ ۳۰۲ اور دفعہ ۳۰۷ کے ماتحت آتی ہے۔ حیرانی ہے کہ پادری صاحب قرآن مجید کے ایسے حکم پر بھی اعتراض کرتے ہیں جو آجکل کل دنیا کے ممالک متعدد میں مسلم بلکہ جاری ہے۔ اس نے برخلاف قاتل اور ضارب کے حق میں انجلیل کا حکم پیش کرتے ہیں۔ جس پرنی زمانہ کوئی حکومت کوئی قوم بلکہ کوئی شخص عمل نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود پادری صاحب وین مسیحی کو عالمگیر کرتے ہیں۔ چہ خوش حال آنکھ دنیا میں عمل درآمد اس کے خلاف ہے۔ پھر بھی مسیحیت کی عالمگیری کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ

”میخ نے اپنی زندگی اور نمونے سے دشمنوں کو معاف کرنے کا سبق سکھایا حتیٰ کہ جب آپ کے خون کے پیاسے آپ کو مصلوب کر رہے ہیں آپ نے ان کو اس جان کنی کی حالت میں بھی ذعا خیر دی اور کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔“

(صفحہ ۱۰۹)

**مجیب:** پادری صاحب واقعات محمدیہ اور واقعات مسیحیہ کو سامنے رکھ کر انصاف کجھے مسح بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ مگر رسول علی نے اپنے ظالم دشمنوں کو فتح کمک کے روز ایسی حالت میں معاف کیا۔ جب کہ آپ ابروئے چشم کے ایک اشارہ سے سب کا قتل عام کر اسکتے تھے اس

موقع پر آپ کے فرمودہ الفاظ بھی قابل شنید ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

لَا تَنْهِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ۔ (پ ۱۳:ع ۲)

**ترجمہ** جاؤ تم پر کوئی خنکی نہیں خدا تم سب کو معاف کرے۔

پادری صاحب ذرا انصاف سے اس فارسی شعر کے معنی بتائے۔

تواضع زگدن فرازان نکوست

گدأُگر تواضع کند خوئے اوست

اللَّهُ أَكْبَرُ! كیسا حکم ہے اور کسی برداشت ہے کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ پادری صاحب کا یہ فقرہ بھی بہت ہی قابل غور ہے کہ۔

نظرت کا یہ تقاضا ہے کہ جوں جوں انسان اور اقوام ترقی کی طرف گامزد ہوتے جاتے ہیں۔

ان میں ضبط کی قوت بڑھتی اور تصاص کامادہ زائل ہوتا جاتا ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۱۲)

**مجیب:** کیا پادری صاحب واقعات زمان سے اس امر کی شادوت دے سکتے ہیں کہ اقوام دنیا میں ضبط اور برداشت کی قوت بڑھ گئی ہے۔ جنگ یورپ واٹیا وغیرہ کو ملحوظ رکھ کر جواب دیجئے گا۔ تصاص تو ایک قانونی مسئلہ ہے جو حکومت سے تعلق رکھتا ہے اور ہم بتاچکے ہیں کہ اسی پر دنیا کا امن و امان موقوف ہے۔ ورنہ جاہلوں کے ہاتھوں سے یہوں سے یہوں تھک کی طرح نہ کوئی پادری نجح سکتا ہے نہ مولوی اور نہ پنڈت نہ راہب۔ آپ نے جوش تعصیب میں انفرادی اور سیاسی احکام میں فرق نہیں کیا۔ تصاص ایک سیاسی حکم ہے۔ جس میں حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کسی قانون دان سے پوچھ لجھے کہ قتل بلکہ حملہ قاتلانہ کے مقدمہ میں بھی سرکار مستغیث ہوتی ہے۔ اس میں معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

**پادری صاحب!** اگر آپ کسی مقام کے تھانیدار ہوں تو آپ واقعہ قتل کی تنقیش کر کے طزم کا چالان کریں گے۔ یا انجلی کی تعلیم کے ماتحت اس

ظالمانہ کیس کو خورد برد کر دیں گے۔ (خدا کرے ہم آپ کو تھانیدار دیکھیں)

مسئلہ ضبط و صبر کے متعلق آپ نے جو کچھ لکھا ہے۔ جمال تک کسی کی ذات خاص کا تعلق ہے تو وہ بے شک صحیح ہے۔ ہاں آپ نے جو زبانی دعویٰ کیا ہے۔ قرآن مجید ایماندار لوگوں کے حق میں اس سے زیادہ کہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَإِذَا هَا غَصِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ---- (پ ۲۵ : ۵)

**ترجمہ** "کامل إيمان دار اور منذب لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو غصہ آئے تو غصہ دلانے والے شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔"

افسوں ہے کہ آپ کو یہ آیت نہ ملی۔ ہم یہ بات مکر آپ کے نوش میں لاتے ہیں کہ شخص اور جماعتی حقوق میں فرق طبوظر کھنے کو شیخ سعدی کی یہ نصیحت یاد رکھیں۔

اگر یک سواری رہ خویش کیر

اگر پائے بندی رضا پیش کیر

آخر میں آپ کا یہ نتیجہ بھی سامنے رکھتا ہوں کہ

قرآن کی قرآنی تعلیم ثابت کرتی ہے کہ اسلام اور حقیقت وین فطرت نہیں اور محبت کی انجیلی تعلیم ہی دراصل نظرت کے مطابق۔۔۔ (صفہ ۱۳۳)

**مجید:** ہم نے اپنے گزشتہ جوابات سے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید ہی دراصل بانی نظرت کا کلام ہے۔ جو حسب ضرورت معافی اور حسب موقع قصاص اور انتقام کا حکم دیتا ہے تاکہ دنیا میں امن و امان قائم رہے اور برسورت معاف کرنے اور درگزر کرنے کی حالت میں شیخ سعدی جیسے تجربہ کار اخلاق نویس کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔

آگے چل کر صفحہ ۱۲۵ پر پادری صاحب نے یہ سرفی دی ہے۔

**استفسار کی جملت:** اس سرفی کے نیچے پادری صاحب نے جو کچھ لکھا ہے۔ اس سے اعتراضات کئے گئے ہیں بلکہ اس لئے کہ پادری صاحب نے ریکیک اعتراضات کر کے نہ صرف اپنی قابلیت کو دعہ لگایا ہے۔ بلکہ اعمال نامہ کو بھی اغلاط سے پر کیا ہے۔ آپ کا یہ فعل ہم نے اس رباعی کے ماتحت پایا ہے۔

یکے بر سر شاخ بن مے برید خداوند بتان نگاہ کردو دید  
بگفتا کہ ایں شخص بد مے کند نہ بامن کہ با نفس خود مے کند  
پادری صاحب نے مذکورہ عنوان کے ماتحت بطور تمہید جو کچھ لکھا ہے وہ بالا جمال چند نمبروں میں یہ ہے کہ

۱۔ انسانی فطرت میں یہ ایک طبعی میلان ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا اس کی نسبت استفسار کرتا ہے۔ یہ جلت (استفسار کی عادت) عقلی قوت اور ذہنی مسامی سرچشمہ ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۲۵، ۱۳۶)

یہ اقتباس ہمیں بھی مسلم ہے۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں۔

۲۔ اس جلت (عادت استفسار) کو سائنس اور مذہب دونوں کی ایک اصل اور جڑ تصور کرنا چاہئے۔ پس ظاہر ہے کہ جس مذہب میں عقل کو یہ جابرانہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل نہ دو۔ ایسا مذہب فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۳۷)

۳۔ اس پر بھی ہمارا صاد ہے۔ آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں۔

چونکہ مذہب کا تعلق عالم روحاںیت سے ہے لہذا لازم ہے کہ ہم دین فطرت کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر سکیں۔ پس دین فطرت کے اصول ایسے ہونے چاہیں جن کو عقل سليم نہ صرف قبول کر سکے بلکہ جلت تجسس کو کام میں لا کر ان اصول کا اطلاق مختلف ممالک و اقوام کے مختلف حالات پر کر سکے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۲۸)

گنوئی باداں کردن چنان است

کہ بد کر دن بجائے نیک مرداں

آگے چل کر آپ نے صفحہ ۱۳۳ پر ایک سرنخ یوں قائم کی ہے

## ”دلڑا کا پن کی جلت اور جہاد کی تعلیم“

اس کے ماتحت صفحہ ۱۲۳ تک آپ نے بڑے کمزور لفظوں میں اسلامی جہاد کا ذکر کیا ہے ہم خداگلتی کرنے سے نہیں رک سکتے کہ اسلام میں جہاد ہے اور یہی اس کی روح ہے۔ کیونکہ اسلام دنیا سے برائی کی بیخ کرنی کرنے کے لئے دو طرح کی تعلیم دیتا ہے اول وعظ و نصیحت سے دوم سیاست اور حکومت سے۔ اس دو سری چیز کا دار و مدار جہاد پر ہے۔ آپ کو یقین نہ ہو تو یورپ کی تاریخ پڑھ لیجئے اور گزشتہ جنگ عظیم اور آجکل ۱۴۰۰ء کی جنگ عظیم پر غور کیجئے۔ مسئلہ جہاد کی تفصیل کتاب ہذا کے گذشتہ صفحات پر ہو چکی ہے۔ اس موقع پر ہم

معزز معاصر ترجمان القرآن۔" کے الفاظ متعلقہ اسلامی جادا بطور تائید نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ

"غلق خدا کی اصلاح کرنے اور لوگوں کو تباہی کے راستے سے بچا کر فلاج اور سعادت کے راستے پر لانے کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کے بگاڑ کو درست کیا جائے۔ معمولی عقل کا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جمال لوگوں کو زنا کی آزادی حاصل ہو، وہاں زنا کے خلاف خواہ کتنا ہی وعظ کیا جائے زنا کا بند ہونا محال ہے۔ لیکن اگر حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر کے زبردستی زنا کو بند کر دیا جائے تو لوگ خود حرام کے راستے کو چھوڑ کر حلال کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ شراب، جوا، سود، رشوٹ، غش تماشے، بے حیانی کے لباس، بد اخلاق بنا نے والی تعلیم اور ایسی ہی دوسری چیزیں اگر آپ وعظوں سے دور کرنا چاہیں تو کامیابی ناممکن ہے البتہ حکومت کے زور سے یہ سب بلاسیں دور کی جاسکتی ہیں۔" ....

(ترجمان القرآن لاہور خطبات نمبر ۲۳۰)

اس عبارت کی بھی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں۔

- ۴ -  
کلمۃ اللہ (صُلّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) نے دنیا کے اخلاق کو ایک نگہ و تاریک چاہ سے نکلا۔ جمال اخلاقیات کے اصول زمان و مکان کے قیود میں جکڑے ہوئے تھے اور شریعت اور رسوم اور فقه کے بھاری بوجھ تلے دب کر دم دے رہے تھے۔ ابن اللہ نے اپنے مسیحائی دم سے اس نیم مردہ میں روح پھونک دی اور اس کو اس قابل بنایا کہ عالمگیر ہو کر تمام دنیا پر تابد حکمرانی کریں۔۔۔ (صفحہ ۱۲۹)

- ۵ -  
اس سے آگے آپ نے جو خط لکھا ہے وہ قابل غور ہے کہ  
کلمۃ اللہ (صُلّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) نہ صرف خود جلت تختس واستفسار کو کام میں لاتے تھے۔ بلکہ یہ آپ کی عین خواہش تھی کہ آپ کے حوار میں اور سامعین بھی اس خداداد جلت کو کام میں لا میں۔۔۔ (صفحہ ۱۳۰)

مجیب: یہ فقرہ واقعات کے صریح خلاف ہے پادری صاحب مسیحی مذہب کی تائید میں ایسے مشغول ہیں کہ ان کو اپنے گھر کے واقعات کی بھی خبر نہیں رہتی۔ سنتے! ہم ایک صحیح واقع پیش کرتے ہیں۔ اپنے لفظوں میں نہیں بلکہ انہیں متی کے الفاظ ہیں۔

”بعض قہیوں اور فریبیوں نے کماکہ اے استاد! ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس (تجھ) نے جواب دیا اور کماکہ اس زمانے کے بد کار اور حرامکار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس بنی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا۔“..... (انجیل متی باب ۳۹:۱۲)

یہ صریح عبارت صاف ہتھی ہے کہ یسوع مسیح نے خود یا انجلی نویسیوں نے جلت استفسار کی خوب میٹی پلید کی تاکہ اس کے بعد کوئی شریف آدمی سوال ہی نہ کرسکے۔ اگر کرنے تو بیدار حرامکار نہ ہے۔ استاذ ذوق نے اپنے معشوق کا گلہ کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے۔ وہ کہیں کون ہے چتوں پر ہماری مفتون میں کہوں میں تو کہیں میں کی چھری گردن پر یہی کیفیت اس مسیحی جواب کی ہے جس میں جواب دینے سے انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی سائلین کو بد کاری کا ڈپلومہ بھی عطا کیا گیا ہے۔

پادری صاحب! آپ نے سکول یا کالج میں کبھی کسی استاد مکرم سے اپنے حق میں ایسے الفاظ نہ ہیں۔ اچھا اگر کبھی سن پائیں تو ایسے استاد کے متعلق اخلاقی حیثیت سے کیا رائے قائم کریں گے اور کیا کہیں گے۔ یہی ناکہ۔

تمہیں کوئی یہ انداز گنتگو کیا ہے

یہ انجلی جواب اپنے اندر جو تلخی رکھتا ہے وہ جامع مسجد دہلی کے کبابوں سے بھی زیادہ ہے۔ قارئین! ایسا جواب دینے والے استاد کی نسبت یہ کہنا کہ اس میں استفساری جلت کو کام میں لانے کی بڑی خواہش تھی۔ کہاں تک ٹھیک ہو سکتا ہے۔

پادری صاحب! میں آپ کے مندرجہ ذیل فقرات کو پڑھ کر بت تھیر ہوا ہوں۔ آپ علم کلام کے قواعد کو اپنے کلام میں کیوں ملاحظہ نہیں رکھتے۔ مثلاً۔

”نبی عالمین نے فرمایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں (یو:۱۳) بہشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد و برحق کو اور یسوع مسیح کو بنے تو نے بھیجا ہے جانیں اور جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچایا اور انہوں نے قبول کر لیا اور رج جان لیا۔“

(دین فطرت صفحہ ۳۰: بخواہہ یو حناباب ۷۶)

مجیب: فرمائے اس قسم کے فقرات کو جلت استفسار سے کیا تعلق ہے؟ یا یونی کتاب کے صفات کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہاں میں اس فقرے سے بہت خوش ہوں

اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مسیح کی تعلیم کا خلاصہ یہ تھا۔

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَيْسَى رَسُولُ اللَّهِ**

یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے۔ "أَنَّا وَصَدَقْنَا فَانْكَثَنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ"

مذکورہ اقتباس سے بھی عجیب تر مندرجہ ذیل فقرات ہیں۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں۔

"کتاب مقدس جلت تجسس کے استعمال پر جائز و رسمی ہے اور اس کے نیک تباہ ہے ہم کو آگاہ کرتی ہے۔ مثلاً ہم خدا کے گھر میں داخل ہوں تو وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا (یسوعا ۳-۲) جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے۔ اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔" (۱۹-۱۱) خداوند فرماتا ہے جو غیر کرتا ہے۔ اس پر غیر کر کے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو ذہنیاں شفقت و عدل اور راستبازی کو عمل میں لاتا ہوں۔" (یہ ۹-۲۳) اہل دانش نور قلک کی مانند چکیں گے اور وہ جن کی کوشش ہے۔ بھیرے صادق ہو گئے ہیں۔ ستاروں کی مانند۔ ابد الابد تک روشن ہوں گے۔"---- (دانی ۱۲-۱۳ صفحہ ۱۳۱)

**مجیب:** جلت میں کیوں داخل کیا ہے؟ اس سے زیادہ دل خوش کن فقرہ یہ ہے کہ

"مسیحی عقائد پر نظر کرو تو ان کو عقل کے تقاضاؤں کے مطابق پاؤ گے۔"---- (صفحہ ۱۳۳)

یہ فقرہ تو غالباً آپ کے قلم سے سوانح کیا اگر ہو شیاری اور بیداری کی حالت میں لکھا ہوتا تو پہلے فقرات کے خلاف نہ ہوتا۔ جن کی تفصیل الوہیت مسیح کے ذکر میں ہو چکی ہے۔ جمال اور حضرات کے اقوال نقل کئے گئے ہیں کہ تجسس مسیح کا عقیدہ انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہے۔ قارئین! ذرا اور قائم کر لاحظہ کریں۔ باوجود اس اقسام کلامیہ کے پادری صاحب کس دلیری سے لکھتے ہیں کہ:

"سطور بالا سے روشن ہو گیا ہو گا کہ مسیحیت جلت استفسار کے تقاضاؤں کو بطرز احسن پورا کرتی ہے۔"---- (صفحہ ۱۳۶)

① خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میں اس کا پیغام برہے۔

لنجھے ہم بھی آپ کو خوش کرنے کے لئے کہا دیتے ہیں کہ مسیحیت استفسار کو بست اچھی طرح دفن کرتی ہے اور پتہ بھی نہیں دیتی کہ اس کام فن کمال ہے "الی اللہ المشتكی" اس کے بعد پادری صاحب قرآن پر حملہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

### جلت صحیح اور قرآن کی تعلیم:

"چونکہ اسلام میں تمام باتوں اور سوالوں کے فيضوں کا دار و مدار "قال اللہ" اور "قال الرسول" پڑھوتا ہے۔ لہذا اسلام میں سرے سے یہ صلاحیت ہی موجود نہیں کہ اس میں صحیح و استفسار کی جلت نشوونما پا سکے یا اس کامیدان عمل و سعی ہو سکے۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے کہ "جس بات کا لنجھے علم نہیں۔ اس کے در پر پت ہو۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل کی پر شش ہوگی۔ زمین پر اتراتا ہوانہ چل۔ نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے۔ نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب باتوں کی برائی تیرے رب کو ناپسند ہے۔" (بنی اسرائیل ۳۸:۲۰-۲۱) قرآن جلت استفسار کے تقاضاؤں کے خلاف۔"---- (صفحہ ۳۶)

**مجیب:** آہ تعصباً! تمیر استیان اس! قرآن مجید میں کافی ایک مقالات پر "یسنلو نک سالک" سے سوال کرتے ہیں اور تم ان کو یہ جواب دے دو۔ یہ آیات بصراحت تمام عادت استفسار کی تعلیم کو ترقی دے رہی ہے۔ جب امت کو پیغمبر اسلام سے پوچھنے کا حق حاصل تھا تو علماء سے پوچھنے کا حق کیوں نہ ہو گا۔ پادری صاحب نے کیا قلم کیا ہے کہ قرآن مجید کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم کو الٹی چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی وہ فقرات جو عبارت منقولہ میں درج ہیں۔ جن پر ہم نے خط کھینچ دیا ہے۔ آپ نے ان کو خواہ خواہ اپنے اعتراضات کا ہدف بنایا ہے۔

**پادری صاحب!:** میں بچ کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے کسی حلے پر اتنا رنج نہیں ہوا جتنا نقسان پہنچا ہے۔ بلکہ اس لئے کہ آپ ایک مسلم خاندان کی اولاد ہو کر قرآن مجید سے ناداقیت کا اتنا ثبوت دیتے ہیں۔ جتنا کہ کوئی برہمن نجم المقر کے بھاؤ سے بھی نہ دے گا۔ سنئے!

قرآن مجید کی جس آیت پر آپ نے اعتراض کیا ہے۔  
 لَا تَقْنُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  
 أُولَئِنَّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتَوْلًا۔۔۔ (پ ۱۵: ع ۳)

بد اخلاقی کی جڑ بنیادی ہے کہ آدمی ہر سی سنائی بات کو آگے کہ دیتا ہے۔ جن کے متعلق اس کو یقینی علم نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ عدالتوں میں ایسی ہی طفیلیہ شہادتیں بھی دے آتے ہیں اور بسا اوقات کسی غیر معتبر آدمی کے کہنے پر کہ فلاں شخص تم کو برا بھلا کھاتا تھا۔ لال پیلے ہو کر خون خرابہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ بے ثبوت سی سنائی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پس اس خرابی کے سد باب کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ جس بات کا تم کو یقینی علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کیا کرو بلکہ اس کو سننا بھی گوارانہ کرو۔ اسی لئے فرمایا کہ۔

تمہارے کان، آنکھ اور دل وغیرہ اعضاء کے متعلق تم سے سوال ہو گا کہ ان کو کہاں استعمال کیا تھا جائز جگہ یا ناجائز جگہ؟

آپ کے پادری عماد الدین صاحب نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو ہی ملحوظ رکھتے تو بھی اعتراض نہ کرتے۔

”لَا تَقْنُفْ“ جو صیغہ نہیں ہے باب ”قفا یقفو“ سے مانوذ ہے۔ جس کے معنی میں کسی بات کے پیچھے پڑ جانا۔ یعنی اس کو مدار قرار دے کر مخاصمت یا معاملت کو اس پر منی ٹھرانا یا فعل باب تنفیل سے بھی آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ ”وَقَفَّيْنَا عَلَى أَثْأَرِهِمْ يَعْنِي ابْنِ مَرْيَمَ“

(پ ۱۶: ع ۱۱)

یعنی ہم نے عیلی ابی مريم کو ان پیغمبروں کے پیچھے بھیجا۔

اس کے علاوہ آپ نے اس سے آگے ایک اور آیت پر بھی ظلم کیا ہے۔ کہ ملکبرانہ چال سے ممانعت کو بھی جلت اسفار میں داخل کر لیا ہے۔ اللہ اللہ! اکیا یہ فم قرآن ہے یا ظلم بر قرآن۔ اب سنئے! پسلے حصے کا جواب۔ اس میں کچھ تلک نہیں کہ مومنوں کو ہدایت کی گئی۔ ہے کہ اللہ رسول کا حکم پیختے پر ان کو اس کی تعیل میں کوئی عذر نہ ہونا چاہئے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ  
لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ----- (پ ۲۲:ع)

پادری صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے۔

جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات مقرر کر دے تو کسی ایماندار مرد یا عورت کا کام نہیں کہ  
اس میں چوں چاکرے، یا اس کی نسبت سوال کرے۔ کیونکہ اس معاملہ میں ان کا کوئی اختیار  
نہیں رہتا۔----- (صفحہ ۱۳۸)

اس ترجمہ میں آپ نے کئی کمال دکھلئے ہیں۔ ان کملات میں سے بڑا کمال یہ ہے  
کہ ترجمہ میں اپنی طرف سے یہ جملہ بڑھادیا کہ ”یا اس کی نسبت سوال کرے۔“ ایسا تصرف  
کر کے آپ نے اپنی غرض فاسد کے ماتحت اپنی ہوشیاری کا ثبوت دیا ہے ورنہ یہ جملہ آیت  
کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔

آپ کی مثال: آپ سے پہلے پنڈت لیکھ رام آریہ نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن مجید میں  
بھی تنخ کا ثبوت متا ہے اور اپنے دعوے کے ثبوت میں ایک آیت ①  
بھی لکھی تھی۔ جس میں ذکر ہے کہ جانور وغیرہ بھی تم انسانوں کی طرح حیوانات کی انواع و  
اقام ہیں۔ مگر اتنے ترجمہ سے اس کا کام نہ چلتا تھا اس لئے انہوں نے آیت کا ترجمہ یوں کیا  
ہے کہ:

”یہ جانور تمہاری طرح امیں تھیں“  
لفظ ”تھیں“ سے آپ کی غرض یہ ہے کہ یہ جانور پہلے انسان تھے اب باقاعدہ تنخ  
حیوان بن گئے ہیں۔ اسی طرح پادری صاحب نے بھی پنڈت جی کا اتباع کرتے ہوئے مذکورہ  
جملہ اپنی طرف سے بڑھادیا۔ نہ وہ قرآن کا ترجمہ تھا نہ یہ ہے۔

پادری صاحب: آپ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ قرآن بھی انجلی کی طرح ہے جو  
اصل زبان میں ملتی ہی نہیں، قرآن مجید۔ فضلہ تعالیٰ اپنی اصل زبان

① ”وَمَا مِنْ ذَٰبِثٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِبٍ يُطْهِرُ بِعْنَاءٍ حَيْثُ إِلَّا أَمْمٌ  
أَمْتَلُكُمْ“

میں محفوظ ہے اس لئے اس کے ترجمہ میں کوئی غلطی نہیں چل سکتی۔ پس آیت موصوفہ کا باخادرہ ترجمہ سنئے!

خدار رسول جب کسی کام کا حکم دے دیں تو کسی مرد مومن یا عورت مومنہ کو اس کی تعییں کرنے یا نہ کرنے میں اختیار نہیں۔ بلکہ ضرور تعییں کرنی ہوگی۔

یہ حکم بالکل صحیح ہے اور قطعاً درست ہے۔ ہم مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ کل انبیاء علیم السلام کی امتوں کو یہی حکم تھا کہ حضرات انبیاء کرام کی تعییں پر عمل کرو۔ اسی لئے مسیح فرماتے ہیں۔

اگر تم بھوپے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔۔۔۔۔ (یو حنا ۱۳، ۱۵)  
پس یہ آیت قرآنی تعییں احکام کے متعلق ہے۔ استفسار سے اس کو کوئی تعلق نہیں  
وہ ایک الگ چیز ہے اس کا شوت قرآنی آیات "یسٹلونک" اور "سالک" وغیرہ میں ملتا ہے۔  
آگے چل کر پادری صاحب نے ایک اور کمال کیا ہے کہ۔

"باوجود اس وعدہ کے کہ میں حدیثوں کو بالاستقلال زیر بحث نہیں لاؤں گا۔"

(دین فطرت صفحہ ۷)۔۔۔۔۔

مکہہ باب القدر میں سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ جس کا مضمون یہ ہے کہ صحابہ کرام تقدیر کے مسئلہ میں جھگڑ رہے تھے تو حضور نے ان کو خلیٰ کے لئے میں منع فرمایا:  
(صفحہ ۱۳۸)

اس حدیث سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی مومن مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی دینی مسئلہ کے متعلق سوال پوچھے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۳۹)

مجیب: اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا بھی غلط ہے۔ حدیث کا مضمون بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک مثل بتاوں۔ غور سے سنئے۔

مثال: کسی سکول کے لڑکے اوقات سکول میں سیاست، (پالیسکس) پر بحث کرنے لگ جائیں تو استاد کا فرض ہے کہ ان کو اس قسم کی بحث سے روک دے۔ کیونکہ ایسا کرنا ان کے حق میں مفید ہونے کی بجائے مضر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد لڑکوں کو کوئی بات پوچھنے سے بھی منع کرتا ہے۔ منع نہیں کرتا بلکہ غیر مفید کام سے ہٹا کر مفید کام پر لگاتا

ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی تربیت ہے۔

اس سے آگے آپ نے مسئلہ جادو کے متعلق خواہ خواہ کی چھیڑغلنی کی ہے۔ جس کا جواب یہ ہے کہ اجتہاد علماء اسلام کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے۔ بے شک قرآنی تصریحات میں سے نہیں ہے۔ علماء اسلام میں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ موجودہ زمان میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ یا بند ہو گیا ہے۔ ہمارے نزدیک ابتدائے اسلام سے اجتہاد کا دروازہ کھلا آیا ہے اور آئندہ بھی کھلا رہے گا۔ آج تک بت سے محمد ہو چکے ہیں آئندہ بھی ہوتے رہیں گے کتب اصول میں یہ مسئلہ مصروف ملتا ہے۔

پس آپ کا یہ اعتراض کہ ”اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔“ ہم پر وارد نہیں ہوتا۔ ہاں پادری صاحب اگر میں ایک مثال پیش کروں تو آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا آپ کی آزمائش کے لئے پیش کئے دیتا ہوں۔ سننے جناب سُنّۃ کا ارشاد ہے۔ ”دے جو ایمان لا سیں گے ان کے ساتھ یہ علامتیں ہوں گی کہ دے میرے نام سے دیوں کو نکالیں گے اور نبی زبانیں بولیں گے۔ سانپوں کو اٹھالیں گے۔ اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیش کے۔ انہیں کچھ نقصان نہ ہو گا۔ دے بیاروں پر ہاتھ رکھیں گے تو چنگے ہو جائیں گے۔“

(مرقس باب ۱۲: ۱۷، ۱۸)

پادری صاحب! آپ کی ذات میں ان اوصاف میں سے اگر ایک وصف بھی ہو تو یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ آپ حکومت سے درخواست کریں کہ میوہ پتال لاہور کے جملہ مریض میرے حوالے کئے جائیں ان کے علاوہ پبلک میں بھی اشتہار دے دیں کہ سب مریض میرے پاس آئیں آپ ان کو ہاتھ سے چھو کر تدرست کرتے جائیں پھر دیکھیں کہ دینی اور دینیوی ہر دو قسم کے فوائد کس طرح حاصل ہوتے ہیں۔ مسلمان مولویوں اور ہندو پنڈتوں کے منع کرنے سے کوئی نہ رکے گا۔ بلکہ سب لوگ سمجھی ہو جائیں گے اور دولت بھی فراواں ہاتھ آجائے گی۔ اگر ان اوصاف میں سے کوئی وصف بھی آپ لوگوں میں نہیں ہے۔ تو اس عبیث کام میں اپنا اور لوگوں کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں ایک اور بات پیش کرتا ہوں۔ جو بالکل آسان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جنگ کی وجہ سے جرمن زبان سے نفرت ہے تو بڑی خوشی سے کشمیری زبان میں تقریر

کریں۔ ہم بھی سننے آئیں گے۔

پادری صاحب!: باقی کرنے کو تو بہت ہیں اس لئے اختصار کرنا مفید ہے۔ آپ انجلیل کی بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ سن چکے ہیں اب قرآن میں بتائی ہوئی نشانیاں غور سے سننے۔ ارشاد ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُذِّكُرْ  
عَلَيْهِمْ أَيَّاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

(پ: ۹، ع: ۱۵)

مومن لوگ وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کا پ جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کے احکام پڑھے جائیں تو ان کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ان دونوں کتابوں کی بیان کردہ نشانیوں کے مطابق امتحان دینے کی تکلیف ہم کسی اور کو کیوں دیں۔ بلکہ مجھے اور آپ کو خود ہی اپنی اپنی کتاب کے مطابق امتحان دینا چاہئے۔ میں آپ کے گرجے میں آجائوں گا۔ وہاں کوئی حافظ قرآن کار کوئع پڑھ دے تو آپ میری اور مسلمانوں کی قلبی کیفیت کا امتحان کر لیں کہ ان آیات کے مطابق ان میں ایمان ہے یا نہیں؟ میں آپ کے امتحان کے لئے ایک زہر بیلا سانپ اور زہر کا پیالہ رکھ دوں گا۔ پھر لوگ دیکھ لیں گے کہ آپ میں کمال تک ایمان کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔

نہ دے نامے کو اتنا طول غالب! مختصر لکھ دے  
کہ حضرت سخن ہوں عرض تم ہائے جدائی کا  
آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں کہ

”بروئے قرآن کوئی مسلمان دین کے معاملات میں آزاد خیالی کو جگہ نہیں دے سکتا یہ وجہ ہے کہ اسلام میں تحقیق کی گنجائش نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے۔ کہ با اختیار اشخاص کے احکام کو بے چون و چرا تسلیم کرتا۔ تھب اور ہٹ دھرمی کو کام میں لانا۔ ہر شے کو دوسروں کی سند پر قبول کر لینا اور یوں جلت تجسس و استفسار کو روکنا اور دبانا مسلمانان عالم کا طغراۓ

اتیاز ہے۔ دینی اور تاریخی اور کتب احادیث اور فقہ کو رث لینا غنیمت خیال کیا جاتا ہے۔ مخدومین کی تصانیف مدد کے لئے کافی سمجھی جاتی ہیں۔ علمائے سلف کے نقش قدم پر چلتا موجب فخر ہوتا ہے۔”۔۔۔۔۔ (دین نظرت صفحہ ۱۳۰)

**مجبیت:** معلوم نہیں کہ آپ کس گاؤں یا بستی میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ لاهور جیسے دارالعلوم شریمن یہ باتیں زیب نہیں دیتیں۔ پادری صاحب! میں اہل اسلام کی علمی ترقیات کا کیا ذکر کروں۔ آپ، ایم۔ اے ہونے کے باوجود اگر اس سے بے خبر ہوں۔ تو کون آپ کو بتا سکتا ہے۔ میں اس کی تفصیل کروں تو کتاب میں مختجاش نہیں ہے۔ اس لئے محقر طور پر آپ کلمے ایک ایسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو کسی مسلمان کی تصنیف نہیں۔ بلکہ ایک فرجخ مورخ کی ہے۔ جن کا ذکر یورپ میں بڑی عزت سے کیا جاتا ہے آپ کا نام نہیں ڈاکٹر گستاوی بان ہے۔ مدوح نے عرب کے علوم و فنون پر ایک کتاب لکھی ہے۔ جس کا اردو ترجمہ شمس العلما سید علی بلگدادی نے تمدن عرب کے نام سے شائع کیا۔ جس میں تھوڑا سا اقتباس نہ صرف آپ کے لئے بلکہ اپنے قارئین کے لئے نقل کرتا ہوں غور سے سنئے! ڈاکٹر موصوف فرماتے ہیں۔

”ہم اس باب کو اس بیان پر ختم کرتے ہیں کہ تمدن اسلامی کا بہت ہی زبردست تسلط تمام عالم پر ہوا رہا ہے۔ مگر اس تسلط کے بالی صرف عرب تھے نہ وہ مختلف اقوام جنہوں نے ان کے نہ ہب کو اختیار کیا۔ عربوں کے تسلط اخلاقی نے یورپ کی ان اقوام و حشی کو جنہوں نے رو میوں کی سلطنتوں کو تباہ کیا انسان بنایا۔ ان کے علمی و دماغی تسلط نے یورپ کے لئے علوم و فنون اور ادب اور فلسفہ کا جس سے وہ بالکل تادا اتف تھا۔ دروازہ کھول دیا اور چہ صدی تک یہی عرب ہمارے استاد اور ہمیں تمدن سکھانے والے رہے۔“۔۔۔۔۔ (تمدن عرب صفحہ ۵۲۲)

**مشورہ:** پادری صاحب! یہ ساری کتاب آپ کے دیکھنے کے قابل ہے۔ اگر مشن لا ہبیری یا چنگاپلک لا ہبیری لا ہو رہیں نہ ہو تو آپ میرے ہاں تشریف لا کر بڑے شوق سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایس خانہ شما است، مولانا حالی مرحوم نے مسلمانوں کی علمی ترقی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔۔۔۔۔

ہر اک میکدہ سے پھرے بھر کے ساغر  
گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر لیا گرہ میں باندھ حکم پیغمبر  
کہ حکمت کو اک گم شدہ لال سمجھو

جال یاؤ اپنا اسے مال سمجھو  
ہاں اس نجک میں ٹوک مسلمانوں میں بھی بعض لوگ رومن کیتمولک عیسائیوں کی  
طرح نجک نظر ہیں۔ سو آپ ان کی نجک نظری کا الزام سب مسلمانوں پر نہ رکھیں۔ کیونکہ محقق  
مسلمانوں کا مذہب تودہ ہے جو ایک حدیث نبوی پر مبنی ہے۔ جس کے الفاظ ہیں ”لا تنقضی  
عجبانہ“ کہ قرآن مجید کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے۔ یعنی اس کے معانی اور نکات نئے  
سے نئے نکلتے آئیں گے۔ واقعی جو لوگ قرآن مجید کو اس کے خادم علوم و فنون کی روشنی میں  
پڑھتے ہیں بے ساختہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔

### قرآن!

کیا جانے تھے میں کیا ہے کہ لوئے ہے تجوہ پر جی  
یوں اور کیا جان میں کوئی حسین نہیں  
اس سے آگے آپ نے جلس تختس اور اسلام کی تہذیب وغیرہ کا مضمون جو کئی  
صفحوں پر پھیلایا ہے۔ ان سب باتوں کا جواب آپ کو تمدن عرب میں مل جائے گا۔ ایک بات  
خاص طور پر قابل ذکر یہ ہے کہ آپ نے صفحہ ۱۳۲ سے لے کر صفحہ ۱۷۱ تک مختلف ممالک  
اسلام یہ کے رطب دیا بس جمع کر کے نتیجہ نکلا ہے کہ

”ترکوں نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا۔“ --- (صفہ ۱۳۲)

خدا کی قدرت نے آپ ہی کے قلم سے اس کا جواب بھی لکھوا دیا۔ سنئے آپ کے  
الفاظ یہ ہیں۔

① ”کلمة الله الضالة المؤمن حيث وجد ها فهو حق بهلا (الحادیث)“ کی طرف اشارہ  
ہے ۱۴۰۰ھ۔“



ہم بھی آپ کی تائید کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن شریف آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ لیکن انہیل ایسی جبی خواہش کا اظہار کرنے والے کو مخالفات سناتی ہوئی بد اور حرام کار قرار دیتی ہے۔ ① (متی ۳:۹) ایسا کیوں ہے؟۔

اگر گویم زبان سزو  
قارئین! پادری صاحب کی مربانی کا شکریہ ہے کہ آپ تعلیم یافہ طبقے کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”تعلیم یافہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کے دینی عقائد و غیرہ کی اصلاح عقل سلیم کے مطابق ہو سکے۔ وہ بزرگان سلف کے سند اور اقوال کے سامنے سرتیم فرم کرنے کو تیار نہیں۔“

(صفحہ ۲۰۷)

**مجیب:** ہم ان تعلیم یافہ مسلمانوں کی قدر کرتے ہیں اور آپ کی وساطت سے تعلیم یافہ میں سیکی اصحاب تک اپنا یہ سوال پہنچاتے ہیں کہ دشمنوں کے زخمی میں پھنس کر ترپ ترپ کر جان دینے والا شخص بھی خدا ہو سکتا ہے؟۔۔۔ (تفصیل گذشتہ صفحات پر درج ہے) پادری صاحب کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی تسلی عقلی دلیل سے کریں۔ پھر آپ کا یہ لکھتا بھی عجیب ہے کہ۔

”قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان احکام کو ایک جا ترتیب دے کر کتابی صورت میں جمع کیا جائے۔ نبی نے ایسا حکم کبھی نہیں دیا تھا اور نہ آپ کا رادھرا اور مقصد تھا۔۔۔۔ (صفحہ ۲۰۸)

**مجیب:** جو شخص اپنے موضوع سے الگ ہو کر ادھراً حکی باتوں میں وقت ضائع کرے اس کے حق میں عرب لوگ کما کرتے ہیں۔ ”یمشی خبط العشاوا“ (وہ دیوانی او نئی کی طرح چلتا ہے) بعد معلقة کا ایک مصرع سنئے!۔

رأي المانيا خط عشواء من تصب

یعنی موت پاگل اونٹی کی طرح دنیا میں پھرتی ہے

پادری صاحب کی تصنیفات میں ہم نے یہ خاص وصف پایا ہے۔ بھلا آپ کی سرفی

جلت استفسار سے اس فقرہ کو کیا تعلق؟ باوجود اس کے ہماری فیاضی دیکھنے کے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید آنحضرت کے حکم سے آپ کی زندگی میں جمع ہوا تھا۔ اس کے متعلق احادیث بکثرت ملتی ہیں۔

### لو لا غرابت المقام لا تيت بها

آگے چل کر پادری صاحب نے صفحہ ۲۷۲ اپنی جلت اجتماع پسندی کا ذکر کیا ہے جس کی تمہید کا خلاصہ اصل الفاظ میں یہ ہے کہ  
 (۱) انسانی فطرت ایسی واقع ہوتی ہے کہ مختلف افراد آپس میں مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں صفحہ ۲۷۱ اہمابھی اسی پر صاد ہے۔

(۲) دین فطرت کا یہ کام ہے کہ اس بات کا خیال رکھ کر اجتماع پسندی کی جلت افراد کی ہستی کو دبانے نہ پائے بلکہ ہر فرد کو ذمہ دار آزاد اخلاقی ہستی قرار دے صفحہ ۲۷۳ ابشرط حفظ مراتب صحیح ہے۔ نوکرو آقا اور ما تحت و افسر کا لحاظ رکھا جائے گا۔

### گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

۳۔ دین فطرت کا یہ بھی کام ہے کہ خدا کی ذات کی نسبت ایسی تعلیم دے جو اس جلت کے اقتضا کے مطابق ہو اور ایسے اصول بتائے جس سے خدا اور انسان کے باہمی تعلقات میں رفاقت کا سلسلہ قائم اور جاری رہ سکے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۲۷۵، ۲۷۶)

مجیب: اس نمبر کا پہلا حصہ بلکہ دوسرا بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں اور پادری صاحب کی دلیری کی داد دیتے ہیں کہ مسیح کو مجسم خدا کہہ کر فد کورہ جلت کے اقتضا کو پورا کر رہے ہیں۔ خدا کی ذات کے متعلق مسیحیت نے جو تعلیم دی ہے۔ اس پر منفصل بحث گذشتہ صفحات میں ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پادری صاحب اصل مطلب پر یوں گویا ہوئے ہیں۔

### مسیحیت اور افراد کی وقعت!

”یہ ایک تواریخی حقیقت ہے کہ کلمۃ اللہ اس دنیا کے پہلے معلم تھے۔ جنوں نے کل عالم کو یہ سکھلایا کہ ہر فرد بشر ایک ذمہ دار اخلاقی ہستی ہے۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ خدا بپ ہر فرد بشر سے لازوال محبت رکھتا ہے اور ہر ایک بشر کی زندگانی کا خواہ وہ سرہ ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا۔

خفیف سے خفیف واقعہ بھی خدا کے علم اور محبت کا مظہر ہے۔۔۔۔ (متی ۱۰:۳۰-۳۱) آپ نے فرمایا کہ حقیر ترین انسان کی روح کی قدر نہ صرف تمام دنیا سے زیادہ ہے (مرقس ۸:۲۶-۲۷) بلکہ وہ ایسی قیمتی شے ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ تاکہ کسی فرد بشر کی روح ہلاک نہ ہو۔ بلکہ یہیشہ کی زندگی پائے۔۔۔۔ (یوحنا ۳:۱۶-۱۷) صفحہ ۱۷۵

**مجیب:** اس سارے اقتباس کو عنوان مذکورہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ ہم اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ“۔۔۔۔ (پ ۷:۱۴)

**ترجمہ:** ”اے نبی! ہم نے تم کو اس لئے بھیجا ہے تاکہ دنیا کے تمام لوگوں پر ہم رحم کریں۔“

باقی رہا خدا کا اکلوتا بیٹا اور اس کا کفارہ ہونا سواس کی بحث کتاب بذا میں گذشتہ صفات میں مفصل ہو چکی ہے۔ اسی ضمن میں آپ لکھتے ہیں کہ:

”ہر ایک انسان کا دل خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے۔۔۔۔ (اکر ۳:۱۶-۱۷) پس ہر ایک شخص خواہ وہ اونی ہو یا اعلیٰ، خواہ امیر ہو یا غریب خواہ بڑا ہو خواہ چھوٹا، خواہ مرد ہو، خواہ عورت، جو صحیح میں ہے وہ دنیا مخلوق ہے اس میں سے پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ وہ کیوں وہ نبی ہو گئیں۔۔۔۔ (۱۲:۵-۶ اور ۲۶:۱۷)“

ہم اس عبارت کو اگر تسلیم کر لیں تو ہمارا کوئی حرج نہیں۔ اخیر میں آپ اس طویل عبارت کا خلاصہ نکال کر لکھتے ہیں کہ

”غرضیکہ مسیحیت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر انسان کو موقع اور توفیق عطا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاکہ دنیا کا ہر فرد بشر اپنی انسانیت کا جائز طور پر اظہار کر سکے اور اپنی ذات کو ترقی اور سمجھیل دے سکے۔ جس سے ظاہر ہے کہ مسیحیت دین فطرت ہے۔۔۔۔ (صفہ ۷:۱۷)“

**مجیب:** الفاظ میں پیش کرتی ہے کہ باوجود اس خوبی کے پادری صاحب سے وہ تعلیم مختفی رہی جسے انجلیل مسیح کے

”وہ چیز جو پاک ہے، کتوں کو مت دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ“

انہیں پامال کریں اور پھر کر تمیس پھاڑیں۔”۔۔۔۔۔ (متی باب ۷: ۶)

پادری صاحب! اس اقتباس میں کتنے اور سورکن کو کہا گیا ہے۔ حیوانوں کو یا انسانوں کو؟ حیوانوں کو کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اگر برے انسانوں کو کہا گیا ہے تو ایسا کہنا آپ کے مشاکے خلاف تو نہیں ہے؟۔۔۔۔۔

میکو! ذرا الصاف سے کیو خدا لگتی  
آگے چل کر آپ فرماتے ہیں۔

### اسلام اور افراد کی وقعت:

”قرآن غلامی کی تعلیم رسم کو جائز قرار دیتا ہے اور اس کو جماد و غیرہ کے مرغبات اور محركات حسنہ میں شمار کرتا ہے۔“۔۔۔۔۔ (صفحہ ۷)

- محبیب:** غلامی کا ثبوت ہم مسیح کی مسلمہ شریعت موسوی سے پہلے دے چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو صفحہ ۳۶ قرآن مجید نے غلاموں پر کئی قسم کے احسانات کئے ہیں۔ مثلاً
- ۱۔ گناہوں کے کفاروں میں ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔
  - ۲۔ مکاتیب <sup>①</sup> طلب کرنے پر ان کو مکاتب کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔
- وَالَّذِينَ يَتَّعَثُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنَّا كُمْ (پ ۱۸: ع ۱۰)
- تمہارے غلام جو مکاتیب چاہتے ہوں۔ اگر تم ان میں نیکی پاؤ تو ان سے مکاتیب کرلو اور ان کو اس مال میں سے جو خدا نے تم کو دیا ہے بطور اس المال کچھ دے دو (ماں کہ وہ اس کے زرعیہ کچھ مال کا کرٹم سے آزادی حاصل کریں)
- ۳۔ مالک کو حکم ہے کہ جو خود کھائے وہی اپنے غلام کو کھائے اور جو خود پنے وہی غلام کو پہنائے۔
- پادری صاحب دیکھئے کہ باوجود حفظ مراتب کے کیسی مساوات کی تعلیم ہے۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں کہ۔

① غلام اپنے مالک سے کے کہ میں آپ کو سوچاں روپے کا کرو دے دوں تو مجھے آزاد کر دینا

- او ما لک اس کو شرط آزادی نامہ لکھ دے۔ اس کو مکا تسبیح کئے ہیں۔  
۱۔ اسلام نے انسان کو اخلاقی طور پر بھی آزاد مددار ہستی قرار نہیں دیا۔ چنانچہ قرآن کرتا ہے۔ ”جب ہم کسی بیتی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو وہاں کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں۔ پر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں۔ تب ان پر وعدہ عذاب ثابت ہو جاتا ہے پھر، ہم ان کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔“۔۔۔۔۔ (بنی اسرائیل آیت ۷۶)
- ۲۔ ”ہم (اللہ) نے آدمیوں اور جنوں میں سے اکثر وہ کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے۔  
(اعراف ۱۷۸)
- ۳۔ اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو راہ پر کر دیتا۔ اور وہ یہی شہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ مگر جس پر تیرے رب کا رحم ہوا۔ اللہ نے ان کو اختلاف کرنے کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی کہ البتہ میں جنوں اور آدمیوں سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔“۔۔۔۔۔ (ہود: ۱۳۰)
- ۴۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر کر دیتا۔ لیکن وہ جس کو چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے۔“۔۔۔۔۔ (ملک ۵۵، ۳۸)
- ۵۔ یہ نصیحت ہے کہ پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راہ پکڑے۔ لیکن تم چاہ نہیں سکتے۔ جب تک اللہ نہ چاہے۔“۔۔۔۔۔ (دہر: ۲۹، ۳۰)
- ۶۔ اللہ نے تم کو اور تمہارے افعال اور کاموں کو پیدا کیا۔۔۔۔۔ (صفات ۹۳) (صفحہ ۱۷۸)

(۱۷۹)

جواب آیت نمبر ۶: پہلی آیت میں جس پر آپ نے اعتراض کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

إِذَا أَرْدُنَا أَنْ نُهَلِّكَ قَزِيَّةً أَمْرَنَا مُنْتَرٌ فِيهَا فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا<sup>۱</sup>  
الْقُولُ فَدَمَّرَ نَهَا تَدْمِيرًا .۔۔۔۔۔ (پ: ۱۵، ع: ۲)

اس آیت کا مطلب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ غور سے بنئے۔

کسی بیتی میں قحط سالی ہے یا وباً امراض پھیل گئے ہیں۔ غرباً بے کسی کی حالت میں کراہ رہے ہیں۔ امراء کو بربان ہادیان نہ ہب یا بربان حال حکم ہوتا ہے۔

اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ

**ترجمہ** "اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرو۔"

تو وہ لوگ اپنی بد مستی میں اور مال کے نشے میں جواب دیتے ہیں۔

أَنْطَعْمُ مَنْ لَوْلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَةً ---- (پ ۲۳:۴)

**ترجمہ** "کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو خدا نے نہیں کھلایا یعنی ان کو

فائدہ پہنچائیں جن کو خدا نے نہیں پہنچایا۔"

ایسی ہی مغور بستی کے لوگوں پر خدا کی طرف سے تباہی و بربادی آجلا کرتی ہے۔

آیت موصوفہ میں "فَقَسَقُوا" کا لفظ اُنی معنی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خدائی احکام متعلقہ احسان و مروت کا غلاف کر کے اپنی بد عملی کا ثبوت دیتے ہیں تو ان پر تباہی آجاتی ہے۔ پادری صاحب کیا آپ کوئی اسرائیل کے عذاب اور اسیری کا زمانہ اور دوسرے واقعات یاد نہیں رہے آخر یہ بھی کیسی بد عملی کی سزا تھی یا جن لوگوں نے مسیح کو تکلیفیں دیں کیا آپ کے نزدیک وہ عذاب کے مستوجب نہیں تھے؟

### دوسری تشریع:

بعض اوقات کسی بستی پر تکلیف آجاتی ہے تو وہ لوگ بجائے عاجزی اور زاری کرنے کے اپنی بد عملیوں میں منہک رہتے ہیں پھر ان پر مزید تباہی آجاتی ہے۔ اس تشریع کے لئے قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں۔

فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بِأُسْنَا تَضَرَّعُوا وَلِكُنْ قَسْتُ. قُلُوبُهُمْ وَزَيْنٌ لَهُمُ  
الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ---- (پ ۷:۱۱)

**ترجمہ** "ہمارا عذاب پہنچنے پر وہ لوگ نرم دل اور متوجہ نہ ہوئے بلکہ برے کاموں میں لگے رہے اور شیطان نے ان کے برے کام ان کی نظرؤں میں اچھے کر دکھائے۔"

آیت زیر بحث کی یہ دونوں ترشیخیں قرآن مجید میں ملتی ہیں جو بالکل صحیح ہیں باشبل میں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے کا جو ذکر ملتا ہے وہ بھی اس قسم سے ہے۔۔۔ (نجمیاہ ۱۶:۱۳)

جواب آیت نمبر ۲:

دوسری آیت کا جواب گذشتہ صفحات پر بالتفصیل گزر چکا ہے۔

جواب آیت نمبر ۳:

تیسرا آیت کے پورے الفاظ یہ ہیں۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَأُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا  
مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذِلِكَ خَلَقُهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مُلْئَنَّ جَهَنَّمَ  
مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ ۝ ۝ (پ ۱۲ : ع ۱۰)  
یہ آیت ایک نیچپل لا (قانون قدرت) پر اطلاع دیتی ہے جس کو پہلے تمہید کے طور پر  
سمجھ لینا ضروری ہے۔ پس توجہ سے منٹے!

نوع انسان کے افراد کو دیکھنے کے ان کے حالات، خیالات، اور مقامات کس قدر  
مختلف ہیں۔ پہلے تو فطری طور پر بست سے لوگ مذہب کو بلکہ خدا کو بھی جواب دے بیٹھے ہیں،  
پھر مذہب اور خدا کے قائلین میں بست سے نیک اور پرہیز گار ہیں۔ اور بست سے فاسق و  
بد کار۔ ان کے علاوہ کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم۔ مزاجوں کا اختلاف بھی اسی اختلاف میں  
داخل ہے۔ بعض لوگ سرد مزاج یعنی حليم اور بردار ہوتے ہیں اور بعض آتشیں مزاج یعنی  
غصیلے اور جلد باز اور یہ سب قدرتی اختلاف کے مظاہر ہیں۔

جس پر کسی اہل ول شاعر نے کہا ہے۔

اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے

مذہبی حیثیت کا اختلاف بھی اسی فطری اختلاف پر متفرع ہے۔ چنانچہ اسی اختلاف کی  
بنا پر آپ (پادری برکت اللہ) جیسے ذہین اور طبلاء، مشکل اور باریک مسئلہ کو بھی حل کر لیتے ہیں  
کہ کھاتا پیتا اور گھٹتا موتا بلکہ ترپ کر جان دینے والا انسان خدا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر  
میرے جیسا کم علم اس حقیقت کو نہیں پاسکتا۔ اس قسم کے تمام قدرتی اختلافات ملاحظہ رکھ کر  
مذکورہ بالا ارشاد کا مطلب سننے کہ۔

اگر ہم چاہتے تو نوع انسان کے سب افراد کو یکساں مزاج عقل اور یکساں ذہنی

رجانات عطا کر دیتے۔ پھر وہ سب خود بخود را است اختیار کر لیتے۔ "لَا زَيْبَ صَدَقَ اللَّهُ" یہ کلام شرطیہ معنی میں بالکل صحیح ہے۔

منطقی طریق سے؟ آپ نے کم و بیش لا جک (منطق) پڑھی ہوگی۔ اہل منطق کما کرتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ کا صدق مخصوص اتصال پر ہوتا ہے۔ چاہے اس کے دونوں اجزا مقدم اور تکمیلی محال ہی ہوں۔ اگر ان میں اتصال پایا جائے تو قضیہ شرطیہ صحیح ہوتا ہے (کیا آپ کو اس جملہ شرطیہ میں شک ہے کہ اگر خدا چاہتا تو صحیح کے دشمنوں کو ہدایت کروتا یا اگر چاہتا تو کفارہ صحیح کے بغیر کسی خاص صفت میں ماتحت گناہ گاروں کو بخش دیتا۔

اہل منطق اس قابو کی مثال دیتے ہوئے کما کرتے ہیں کہ

"اگر پانچ کا عدد زوج ہے تو دو پر پورا تقسیم ہو جائے گا۔"

یہ کلام بصورت شرط بالکل صحیح ہے۔ حالانکہ پانچ کا زوج (جفت) ہونا محال ہے پس جس طرح یہ قضیہ منطقی شکل میں صحیح ہے اسی طرح آیت قرآنی کی صورت میں یہ جملہ شرطیہ بھی صحیح ہے کہ

اگر ہم (خدا) چاہتے تو سب کو ایک ہی گروہ بنادیتے۔ یعنی سب کو ہدایت کر دیتے جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا۔ "وَلَوْ شِئْنَا لَا تَئِنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا" مگر ہم نے ایسا نہیں چاہا۔ چنانچہ حقیقت واقعیہ پر اطلاع دینے کو اسی آیت میں ارشاد فرمایا "لَا يَرَأُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَجَمَ رَبِّكَ" (یہ لوگ قانون قدرت کے ماتحت یہی شکر اختلاف کرتے رہیں گے۔ مگر جس پر خدا کا رحم ہوگا۔ وہ اس اختلاف سے نکل کر حق کی طرف رجوع کر لے گا) مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی طبیعت میں یہ ضد نہ ہوگی کہ میں اپنے مخالف کی کچی بات بھی کیوں قبول کروں۔ یہ اتنا جملہ مفترضہ ہے اس کو الگ کر کے آیت کو یوں پڑھئے۔

"لَا يَرَأُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلَذِلِكَ خَلَقَهُمْ" یعنی لوگ اپنی مزاجوں اور عادتوں میں یہی شکر مختلف رہیں گے۔ کیونکہ وہ اسی فطرت پر پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں جن لوگوں پر خدا نے رحم کیا ہوگا۔ وہ اس قدر تی اختلاف کو اس کی حد سے آگے نہیں جانے دیں گے مولانا حافظ مرحوم نے صحابہ کرام کے اختلاف کا نقشہ انہی معنی میں دکھلایا ہے۔

آپ فرماتے ہیں۔۔

اگر اختلاف ان میں باہم دگر تھا تو بالکل مدارس کا إخلاص پر تھا جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا یہ تھی موج پلی اس آزادگی کی!

ہر جس سے ہونے کو تھا بلغ کیتی

مولانا حامل مرحوم نے جس چیز کو شر سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے مراد قدر تی اختلاف کی حد سے تجاوز ہے۔ قرآن مجید نے "نَمَثْ كَلِمَةَ زَيْلَكَ" کا نتیجہ اسی بے اعتدالی پر مرتب کیا ہے۔ جواب آیات نمبر ۲۴، ۵: چو تھی اور پانچویں آیتوں کا مطلب بتانے سے پلے مثال کے مطلب اچھی طرح قارئین کے ذہن نہیں ہو جائے۔ کیونکہ یہ مسئلہ بڑا دقيق ہے۔ اسی لئے یہ آیات بھی مشکل ترین آیات میں سے ہیں۔ قرآن مجید نے کسی صاحب علم شخص کی مثال بیان کی ہے۔ جو برا حریص و طامع تھا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے۔

لَوْ شِئْنَا لَرَفْعَنَةَ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَذْضِ وَ اتَّبَعَ هُونَةً فَمَنْلَهُ كَمَشِ الْكَلْبِ --- (پ: ۹: ع: ۱۲)

اس میں فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اپنی آیات کی برکت سے اس شخص کا رتبہ بلند کر دیتے۔ لیکن ایسا نہیں کیونکہ وہ شخص دنیاۓ دوں کی تحصیل میں ہمہ تن متوجہ ہو گیا (جیسے آج کل بھی ہر قوم و مذهب میں بست سے دنیادار اہل علم ملتے ہیں) پس خدا کے نزدیک اس کی مثال کتے کی سی ہے جو ایک ذلیل حیوان ہے۔

پس جس طرح اس آیت میں "لکن" کے مابعد اور ما قبل کلام میں باہم ربط ہے اسی طرح سورہ نحل کی آیت میں "لکن" سے ما قبل اور مابعد کلام باہم مربوط اور متعلق ہے۔ پس اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ۔۔۔

اگر ہم چاہتے تو باختیار خود تم سب کو ایک ہی گروہ بنادیتے یعنی سب کو ایک ہی قسم کی ذہنیت اور عقل عطا کر دیتے۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا اور واقعی نہیں ہوا تو اب ہم اپنے قانون کے ماتحت ہدایت کرتے ہیں اور اسی قانون کے ماتحت گمراہ کرتے ہیں۔

مشیت اللہ سے مراد قانونِ الٰہی ہے جو کل خلوق پر حاوی ہے۔ یہی معنی ہیں سورہ دہر کی اس آیت کے جس کا ترجیح پادری صاحب نے یوں کیا ہے۔  
یہ نصیحت ہے پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف را پکڑے لیکن تم نہیں چاہ سکتے، جب تک اللہ نہ چاہے۔۔۔ (دہر ۲۹: ۳۰)

قرآن میں اسی قانونِ قدرت کے معنی میں لفظ اذنِ اللہ بھی آیا ہے۔ چنانچہ ایمان اور موت دونوں کو اذنِ اللہ سے مشروط ٹھہرایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

”وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْتَابًا مُّؤَجَّلًا“ (پ ۲: ۶۴)

”وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“۔۔۔ (پ ۱۵: ۱۱)

ان دونوں آیتوں میں ”اذنِ اللہ“ سے مراد قانونِ قدرت ہے۔ پس مذکورہ بالآخریات کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ہدایت نہیں پاسکتے۔ جب تک قانونِ قدرت کے ماتحت ضد اور تعصب سے خالی ہو کر نیک نیتی سے تلاش حق نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو دولتِ ایمان سے بھرہ افروز ہو جاؤ گے۔

ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو مسائل کی تحقیقت اخلاص مندی سے نہیں کرتے اس لئے وہ الہامی ہدایات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بلکہ الٹا چاہ ضلالت میں گر کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔

جواب آیت نمبر ۶: پادری صاحب نے اس آیت پر بھی اعتراض کیا ہے۔ جس کا مضمون ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے افعال کو پیدا کیا ہے۔۔۔ (پ ۲۳: ۷)

اس کی صداقت میں کیا کلام ہے۔ مگر پیدا کرنے کے معنی سمجھنے ضروری ہیں پس توجہ سے سنئے! کوئی کافر بے دین کسی نیک بندے کی گردن تکوار سے اتار دیتا ہے۔ تو ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں۔

ایک کافر بصورت فاعل، دوسرے اس کا فعل قتل۔ یہ فعل کیوں ہوا؟ اس لئے کہ قانونِ قدرت یہی ہے کہ کوئی تیز دھار چیز مثلاً تکوار جب کسی ملائم جسم پر چلا جائے تو اپنا اثر کرتی ہے۔ یہ قانونِ قدرت ہے جو کائنات کے متعلق ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ تیز دھار

چیز برابر کاٹتی ہے۔ پس اسی لحاظ سے اس فعل کو خالق فطرت اور بانی قانون کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ فلسفہ روحانی ہے اس لئے اس میں ایسی نسبتیں بکھرت پائی جاتی ہیں۔ سنتے ایک واضح مثال سناتا ہوں۔

بُنِيَّ نُوْعِ إِنْسَانٍ كَمَكَلِّيْنِ رَحْمٌ مَادِرٌ مِنْ اسِيْ قَانُونِ قَدْرَتٍ كَمَ مَاتَتْ بُنِيَّ  
ہیں جواندہ ہی اندر اپنا کام کئے جاتا ہے۔ اس کے باوجود قرآن مجید اس قسم کے افعال بھی خدا کی طرف منسوب کرتا ہوا کہتا ہے۔ ”هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يَشَاءُ“  
(پا ۳۴)

خدا تعالیٰ تمہاری صورتیں تمہاری ماوں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔

کیا آپ کے نزدیک ایسے افعال میں علت العلل کی طرف فعل کا منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔

پادری صاحب! بالغ العلوم سے اوپر کی ڈگری حاصل کر کے بھی اگر آپ اس علمی اصول کو نہ سمجھیں یا سمجھنے کے باوجود اعتراض کرتے جائیں تو کہا جائے گا کہ آپ بھی کسی قانون قدرت کے ماتحت ایسا کرتے ہیں۔

محضیر ہے کہ ایسی آیات میں دو باتوں کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔

(۱) قدرت نامہ الیہ: جس کے معنی ہیں کہ خدا کو اتنی بڑی طاقت حاصل ہے کہ اگر اور جبر سے ہدایت کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی افعال اختیاریہ اور نتیجہ پر اطلاع دی جاتی ہے۔ دونوں باتیں فی نفس اچھی ہیں اور ضد وعدات سے کام لے کر اعتراض کرنا بری بات ہے۔ اس لئے کسی اہل ول شاعرنے کیا خوب کہا ہے۔

چوں بثنوی۔ خن اہل ول مگو کہ خطا است

خن شناس نہ دلبرا خطا ایں جا است

میری اس فلسفیانہ تفصیل کی تائید انجیل سے بھی ہوتی ہے۔ جس وقت یوسع سچ کو گرفتار کرنے کے لئے پولیس تک دو کر رہی تھی اس وقت جناب مسیح نے ایک عارفانہ

فقرے میں جناب پاری کے حضور عرض کی تھی کہ  
 ”اے میرے باب اگر ہو سکے تو یہ پیالہ (موت) مجھ سے گزر جائے تو بھی میری  
 خواہش نہیں۔ بلکہ تمیری خواہش کے مطابق ہو۔“---- (انجیل متی ۳۹:۲۶)

اللہ اللہ! کیسا عارفانہ کلام ہے۔ مخالفوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جانا تو قانون قدرت کے  
 مطابق تھا۔ اسے تسلیم کر کے آپ قدرت خداوندی کا واسطہ دیتے ہیں جو قانون مجریہ سے بالاتر  
 ہے۔ اس کلام بالظالم کے معنی یہ ہیں کہ گرفتاری کے تمام اسباب تو میا ہو چکے ہیں تاہم تمیری  
 قدرت میں داخل ہے کہ تو مجھے اس مصیبت سے بچالے۔ اسی لئے قرآن مجید میں ارشاد ہے۔  
 وَمَا قَتْلُوهُ يَقِيْنًا ○ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(۲:۶۴)

مسیح کو اس کے مخالفوں نے ہرگز قتل نہیں کیا۔ بلکہ خدا نے اس کو اپنی طرف اٹھا  
 کر ححفوظ کر لیا۔

اس کی وجہ بھی بتا دی کہ خدا بہت غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ مسیح نے اسی  
 غلبہ قدرت کے ماتحت درخواست کی تھی ہے حسب بیان قرآن خدا نے منظور کر لیا۔  
 اسی طرح حضرت یوسفؐ کے ساتھ زیخ کا تعلق قرآن میں مذکور ہے۔ جس کا نتیجہ  
 قرآن نے یہ بتایا کہ اس عورت نے حضرت یوسف کے ساتھ بد کاری کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا  
 تھا۔ موصوف اگر خدا اپنی بہانہ دیکھ لیتے یعنی نور نبوت ان کے ول میں جلوہ گرنا ہوتا تو آپ  
 بھی ارادہ کر لیتے۔ مگر انہوں نے تصرف قدرت کے ماتحت برادر ارادہ نہیں کیا۔ یہ مثال بتاریخی  
 ہے کہ قوانین قدرت جاری ہو جانے کے بعد خدا تعالیٰ میں یہ قدرت کاملہ موجود ہے کہ کوئی  
 واقعہ قانون قدرت کے خلاف بھی پیدا کر دے اگر آپ اس کی تفصیل کو منظور نہ کریں تو کل  
 انبیاء علیم السلام کے محبثات کی صفت پیش دی جائے گی اور حضرت مسیح کی پیدائش کے  
 متعلق انجیل کا یہ فقرہ بھی غلط یا تاویل طلب ہو جائے گا۔ کہ یوسف اور مریم کے اکٹھا ہونے  
 سے پہلے مریم روح القدس سے حملہ پائی گئی۔---- (انجیل متی، ۱:۱۸) قارئین! ہے

اگر اب بھی وہ نہ سمجھے تو اس بہت سے خدا سمجھے

باتی رہی جبریہ اور قدریہ کی بحث۔ سودہ جانیں اور آپ جانیں۔ ہم کسی غاص فرقہ

کے خیالات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم تو قرآن مجید کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں۔ ہم  
نہ چھیڑ اے نگت باد بماری راہ لگ اپنی  
تجھے اٹھکیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں  
بس آپ کا یہ لکھنا کر

”قرآن کے مطابق اللہ نے انسان کو خود مختار ہستی کے طور پر خلق نہیں کیا۔“

(صفہ ۹۷)

تحکم نہیں تو کیا ہے۔ قرآن مجید صاف کرتا ہے۔  
 إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا  
**ترجمہ** ”ہم نے انسان کی راہنمائی کر دی ہے اس کے بعد وہ یا شکر گزار ہو  
گیا یا ناٹکرا۔“  
 نیز فرمایا۔

مَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُفُرْ۔ ۔۔۔ (پ ۱۵: ع ۱۶)

**ترجمہ** جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔  
اس سے زیادہ آزادی کیا ہوگی۔ آگے چل کر آپ لکھتے ہیں کہ۔

”اسلام فخر کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اصول امور سلطنت کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں  
کہ سلطنت کے ہر شبے پر تا ابد عائد ہو سکتے ہیں (حالانکہ) حدیث اور شرع اسلام میں مرتد  
واجب القتل ہے۔“ (صفہ ۹۷: ع ۱۸۰)

**مجیب:** قارئین! پہلے پادری صاحب کی ہوشیاری ملاحظہ کریں کہ ایسے سخت اعتراض  
کے موقع پر قرآن مجید کی کسی آیت کا حوالہ نہیں دیا بلکہ یونہی کہہ دیا کہ شرع  
اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے (صفہ ۹۰) اس لئے میں پہلے قرآن مجید سے مرتد کا حال بتاتا  
ہوں۔ غور سے ملتے۔ ارشاد ہے۔

❶ پادری صاحب اپنی کتاب (دین نظرت) کے مخفی پر لکھ آئئے ہیں کہ اس تراض کی بنا پر حدیث پر  
نہیں رکھوں گا۔ اب آپ حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں، کیا یہ نیا ہے یا شوق؟ (مجیب)

إِنَّ الَّذِينَ أَمْتُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَمْتُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَتُهْدِيهِمْ سَبِيلًا ---- (پ:۵:۱۷)

**ترجمہ** "جو لوگ پسلے إيمان لائے پھر کافر ہو کر مرد ہو گئے پھر إيمان لائے پھر کافر ہو کر مرد ہو گئے پھر کفر میں بڑھ گئے خدا ان کو نہیں سخنے گا ورنہ ان کو نجات کا راستہ دکھانے گا۔"

یہ آیت صاف بتارہی ہے کہ بعض لوگ دو دو تین دفعہ مرد ہوئے۔ اگر مخف ف ارتاد کی سزا قتل ہوتی تو پسلے ہی ارتاد کے بعد ان کا خاتمه کر دیا جاتا۔ دوسرے ارتاد کی نوبت ہی نہ آتی۔ ہمارے اس بیان پر ایک حدیث کی وجہ سے معارضہ ہونا ممکن ہے اس لئے بغرض توضیح مقام ہم خود اس حدیث کو نقل کر کے اس کی تشرع کئے دیتے ہیں۔ جس سے اصل سوال اٹھ جائے گا۔ انشاء اللہ!

حدیث کے الفاظ یہ ہیں "من بدل دینه، فاقتلوه" (جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر ڈالو)۔ اس کی تشرع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ تشرع سے پسلے ہمیں اسلام کی حیثیت سمجھارنی ضروری ہے۔ پس سنئے!

اسلام کی تعلیم کے دو حصے ہیں ایک تعبدی، دوسرا سیاسی، تعبدی حصے میں نمازوں زہ وغیرہ اخلاق فائدہ داخل ہیں۔ سیاسی حصے میں حکمرانی سے متعلق احکام پائے جاتے ہیں۔ اسلام کو بحیثیت سیاسی مذہب ہونے کے جنگ و جدال بھی کرنا پڑتا ہے۔ جس میں اس امر کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص جنگ کی حالت میں جماعت المسلمين سے نکل جائے کیونکہ اس حالت میں اس کا نکل جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دشمن سے ساز باز رکھتا ہے۔ پس ایسا شخص جنگی قانون کے ماتحت واجب القتل ٹھرتا ہے اس تحریک کے بعد ایک اور حدیث سنئے، جو بخاری مسلم کی روایت ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجے کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

الマーقد للدين التارك للجماعة (مشكوة باب القصاص)

الマーقد اور التارك

دونوں لفظ الگ الگ معنی کے لئے ہیں۔ چنانچہ المارقد کے معنی ہیں اپنے دین سے پھر جانے والا اور "التارک للجماعۃ" کے معنی ہیں۔ جماعت المسلمين یا بالفاظ دیگر جماعت

المجاہدین کو چھوڑ کر چلا جانے والا جنگی قوموں میں ایسا شخص دشمن کے حکم میں ہوتا ہے۔ پس اس حدیث کی روشنی میں پہلی حدیث کو دیکھیں تو جامع الفاظ یوں ہوں گے۔

من بدل دینہ، ای ترک دین الاسلام و خرج عن جماعت المسلمين ای المُجَاهِدِين فاقْتُلُوه

پس حدیث مذکورہ کو قرآن کے ساتھ ملا کر دیکھئے سے نتیجہ صاف نکلتا ہے کہ مخفی ارتداد موجب قتل نہیں ہے۔ ارتداد صرف اسی حالت میں موجب قتل ہے۔ جب مرتد شخص مسلمانوں کی بد خواہی کرنے کو دشمن کی جماعت میں جائے۔ آج فوجی قانون کے ماتحت سپاہی کو معمولی سی بات پر کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ جو ضرورت کے لحاظ سے حق بجانب ہے۔ پس حدیث زیر بحث میں جنگی قانون مذکور ہے۔ جس پر آج ساری دنیا عمل کر رہی ہے۔ اگر پادری صاحب بھی فوج میں کسی عمدہ پر فائز ہو جائیں تو اس قانون کی تحسین بلکہ تائید کریں۔ یہ معنی ہیں اس مصريع کے۔

قاضی اربا ماشید برنشاند دست را

پس ایسے جنگی قانون کو سامنے رکھ کر اسلام پر آزادی رائے سلب کرنے کا اعتراض کرنا بے جا ہے۔ کیونکہ ہر نقطہ مکانے دار ہے۔

اسی جلسے اجتماع پسندی کے ضمن میں پادری صاحب نے ایک سرفی بیوں لکھی ہے۔

**”جلسہ اجتماع پسندی اور انانیت“** اجتماع پسندی سے مراد جماعتی احکام ہیں اور انانیت سے مراد شخصی احکام مثلاً اسلام میں روزہ شخصی احکام کی قسم ہے۔ کیونکہ اس کو دوسرے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اکیلا ہی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اکیلے شخص کی نماز انفرادی حیثیت رکھتی ہے اور جماعت کے ساتھ اجتماعی، علی ہذا القیاس حج اور زکوٰۃ بھی اجتماعی عبادات ہیں۔ اور سب سے بڑا حکم جس پر جماعت کی ترقی موقوف ہے۔ یعنی جمادوہ بھی اجتماعی ہے۔ جس کی شان میں فرمایا ”ذروة سنا مہ الجہاد“ رشتہ داروں سے ملنا جلتا اور اچھا سلوک کرنا بھی اجتماعی کام ہے۔ ان سب امور کے متعلق قرآن مجید میں ہدایات ملتی ہیں۔ لطف یہ ہے کہ نماز با جماعت جو اجتماعی حالت کا نام ہے۔

اس میں بھی ہر فرد کی جداگانہ حیثیت بحال رہتی ہے۔ کیونکہ جماعت کا ہر فرد کو عہدہ اور تبعی و تملیل کرتا ہے۔ پھر نمازیوں کی ہیئت کذائی سے ان کی اجتماعی حیثیت نمایاں نظر آتی ہے اس اجمالی تمہید کے بعد پادری صاحب کا اعتراض سننے آپ فرماتے ہیں۔

”چونکہ قرآن اور اسلام افراد کو خود مختار، آزاد ذمہ دار ہستیاں تسلیم نہیں کرتا ہے لہذا وہ اس تصور کا گرویدہ نہیں ہو سکتا۔ کہ فرد یا افراد کی خدمت کرنے میں ہی اپنی شخصیت کی ترقی اور نشوونما کر سکتا ہے، قرآن کے مطابق افراد کی زندگی کا اعلیٰ ترین نصب العین اور بہترین مطلع نظر خلق خدا کی خدمت کرنا نہیں ہے۔ لہذا وہ اخلاقیات کے اس پہلو کو چوتا نہیں اور اگر چھوٹا بھی ہے تو اس پر زور نہیں دیتا۔ جس طرح انجیل دیتی ہے۔ لیکن دین فطرت کے لئے لازم ہے کہ وہ جماعت اجتماع پسندی کے تقاضاؤں کو پورا کرے۔ چونکہ قرآن و اسلام اس تقاضا کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ لہذا اسلام دین فطرت کملانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ میخت کی تعلیم ہی دین فطرت کا جزو ہو سکتی ہے۔“۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۵۸)

یہ تو ہوا قرآن مجید پر حملہ پادری صاحب خاص اپنی تعلیم یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بشر جماعت تعلقات کے بغیر خدا کی خدمت نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۵۱-۱۸۳) (متی ۲۵-۳۰، روم ۱۲-۱۳، ۱۸-۱۹) یو حatabab ۱۵ (۱۸۳)

**مجیب:** قرآنی ثبوت دینے سے پہلے ہم پادری صاحب کے ان حوالہ جات کی تحقیق کرتے ہیں۔ جن کی بنابر آپ نے یہ حکم لگادیا کہ کوئی بشر جماعتی تعلقات اخ۔ ان حوالہ جات کے اصل الفاظ ترتیب وار یہ ہیں۔

۱۔ تب بادشاہ ان سے جواب میں کہے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔

۲۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے اسے جس نے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔۔۔۔۔ (متی ۱۰-۳۰)

۳۔ کوئی نو کردو خاوندوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ یا ایک کی دشمنی کرے گا۔ اور دوسرے کی دوستی کرے گا یا ایک کو مانے گا۔ دوسرے کو ناقصیز جانے گا، تم خدا اور

دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔۔۔ (وقاۃ ۱۳-۱۴)

-۳- پس جو کوئی انہیں باقوں میں مسیح کی بندگی کرتا ہے۔ خدا کا مقبول اور آدمیوں کا پسندیدہ سے۔ پس ایسی باقوں کی جن سے صلاح ہو اور ایک دوسرے کی ترقی ہو جائے پیروی کریں۔۔۔ (روم ۱۷-۱۹)

-۵- ہر ایک جو اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے۔ خونی ہے اور تم جانتے ہو کہ کوئی خونی حیات ابدی کو نہیں رکھتا کہ اس میں قائم رہے۔ ہم نے اس سے محبت کو جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی اور لازم ہے کہ ہم بھی بھائیوں کے واسطے جان دیویں پر جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھے اور اپنے تیس رحم سے باز رکھے تو خدا کی محبت اس میں کیوں نکر قائم رہ سکتی ہے۔ اے میرے بچو چاہئے کہ ہم کلام اور زبان سے نہیں کام اور سچائی سے محبت رکھیں۔“

(یوحننا ۱۵:۱۸ تا ۱۳:۲)

قارئین: ان حوالوں کو بغور پڑھئے اور بتائے کہ پادری صاحب کا دعویٰ ان حوالوں سے ثابت ہو سکتا ہے، پادری صاحب کے طریق عمل سے ہم تو اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ کہ آئندہ ہم آپ کے پیش کردہ حوالہ جات کی جب تک تقییش نہ کر لیں قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟۔۔۔

نہیں وہ قول کا پکا ہمیشہ قول دے دے کر  
جو اس نے ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا تو کیا مارا  
اب قرآن مجید کا ارشاد نہیں!

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِدِي الْقُرْبَانِ  
وَالْيَتَمَّى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَانِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ  
بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّيِّئِلِ وَمَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ مَنْ  
كَانَ مُحْتَالًا فَخُوزُوا --- (پ:۵:۳)

**ترجمہ** یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو کسی چیز کو اس کا سمجھی نہ بناو اور مال  
باپ کے ساتھ قربت داروں کے ساتھ تقبیلوں اور مسکینوں کے ساتھ نزوکی

پڑوسینوں اور دور کے پڑوسینوں کے ساتھ، سفر یا مجلس میں پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ اور راہروں مسافروں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان و مروت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مغوروں اور مستکبروں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔

اس مضمون کی آیات قرآن پاک میں بکثرت ہیں۔ اس اخلاقی تعلیم کے علاوہ قوی اجتماعی کاموں کے متعلق جو ہدایت ہے وہ خاص طور پر قبل غور ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

**وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَاءُوكُمْ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوكُمْ**

(پ ۱۸: ع ۱۵)

**ترجمہ** ایمان داروں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ رسول (یا نائب رسول صدر مجلس یا صدر انجمن) کے ساتھ کسی جامع کام میں مشغول ہوتے ہیں تو اس جگہ سے باہر نہیں نکلتے جب تک رسول (یا اس کے نائب) سے اجازت نہ لے لیں۔

**نوٹ:** آج کا زمانہ روشنی، تہذیب اور جمہوریت کا زمانہ کملاتا ہے اس میں بھی یہ پابندی نہیں ہے۔ میونپل کمیٹی سے لے کر اسمبلی تک یہ دستور ہے کہ جو مجرم کسی بات پر ذرا ساختا ہو جائے وہ بغیر اجازت باہر نکل جاتا ہے۔ جس کو واک آؤٹ کرنا کہتے ہیں۔ یعنی بغرض اظہار ناراضگی مجلس سے باہر نکل جانا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ جس کا نتیجہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بقایا مجرموں سے نصاب بھی پورا نہیں رہتا اس لئے بنا بنا کھل بگڑ جاتا ہے۔

قرآن مجید نے اجتماع قوی کو یہاں تک محفوظ رکھا ہے کہ صدر کی اجازت کے بغیر کوئی مجرم باہر نہیں جاسکتا۔ بایں ہمہ آزادی رائے کا حق سب کو حاصل ہے۔ جس کا شہوت دربار رسالت اور خلافت راشدہ میں کافی ملتا ہے۔

اس کا اظہار مولانا حافظ مرحوم نے اس شعر میں کیا ہے۔۔۔

غلاموں سے ہو جاتے تھے بند آقا

غلیفوں سے لڑتی تھی ایک ایک بڑھیا

**قارئین:** ہماری پیش کردہ آیت کو دیکھئے جس میں ہر ایک مفلس محتاج اور اپائچ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہے اسی کی تائید میں یہ حدیث بھی سامنے رکھ

یعنی جس کے الفاظ ہیں۔

الخلق عیال اللہ اقربہم الی اللہ انفعہم لعیالہ -- (مشکوٰۃ شریف)

اس حدیث کا مضمون مولانا حالی مرحوم نے اس بند میں ادا کیا ہے۔

یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدیٰ کا کہ خلق ساری ہے کہبہ خدا کا  
وہی دوست ہے خالق دوسرا کا خلائق سے ہے جس کو رشتہ والا کا  
یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان  
کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان  
ایک طرف اخلاق فاملہ کی یہ تعلیم، دوسری طرف پادری صاحب کی یہ تم ظرفی کہ  
قرآن کا اعلیٰ ترین نصب العین خدا کی خدمت کرنا نہیں ہے۔۔۔۔۔ (حوالہ مذکور)  
جع ہے۔

گل است سعدی و در چشم دشمنا خاراست  
آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں۔

### ”جبلت اجتماع پسندی اور نوع انسان کی کاملیت“

”اسلام میں بنی نوع انسان کی ترقی ایک موهوم شے ہے۔ جس مذہب نے بنی نوع انسان کو تیرہ سو سال سے خوف و دہشت کی حالت میں رکھ کر ان کے اعضاے رئیس کو محفل کر دیا ہو۔ کثرت ازدواج اور طلاق کو جائز قرار دے کر نوع انسانی کے نصف حصہ کی زندگی کو ہر انسان کر رکھا ہو اور دوسرے حصہ کی اخلاقی حالت کو گرا دیا ہو۔ اولاد کے حقوق کی طرف سے لاپرواہی اختیار کر رکھی ہو۔ دنیا کے مصیبت زدؤں، مظلوموں اور بے کسوں کو ان کی قسم پر چھوڑ رکھا ہو۔ دنیا کے قرباً چوبیں کروڑ افراد کو چھوڑ کر باتی ایک ارب اور ستر کروڑ افراد کو کافر یا ذی کمسہ کران کو گردن زوٹی قرار دیتا ہو۔ خیالات کی آزادی کو جرم عظیم گردانتا ہو اور علوم و فنون کی نشوونما اور ترقی کی راہ میں حائل ہو۔ غلائی کی فتح رسم کو جائز قرار دیتا ہو۔ ہر فرد کی زندگی کی قدر اور وقت کرنے کی بجائے اس کو ایک آزاد خود مختار اخلاقی ہستی بھی تسلیم نہ کرتا ہو۔ غرضیکہ جو مذہب انسانی فطرت کی تمام جبلتوں کے اتفاقاًوں کے پورا ہونے میں

رکاوٹ کا باعث ہو۔ ایسے مذہب سے کیا امید ہو سکتی ہے۔ کہ وہ بنی نوع انسان کی ترقی کے اصول کی تلقین کرے یا نوع انسان کو کامیلت کی شاہراہ پر گامزد ہونے میں مدد و معاون ہو سکے۔ مسیحیت ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جس سے نوع انسانی کی امیدیں وابستہ ہیں۔ کلتہ اللہ ہی ایسا یگانہ روزگار استاد ہے جس پر بنی نوع انسان کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔“

(رسالہ مذکور صفحہ ۱۸۶، ۱۸۷)

قارئین!: پادری صاحب تو اپنی عادت (تکرار مضمون) میں مجبور ہیں اور ہم اختصار کتاب ہذا کے گذشتہ اور اُن میں درج ہے۔

وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بد لیں!  
سُب سُبِن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو  
آگے چل کر پادری صاحب ایک سرخی یوں لکھتے ہیں۔

### ”جلت اجتماع پسندی اور ذاتِ الہی“

مجیب: اس عنوان کے ماتحت بھی آپ نے وہی باتیں لکھی ہیں جو آپ بارہا لکھے چکے ہیں۔ مثلاً قرآن خدا کو بے پرواہتا ہے وغیرہ جس کا جواب گذشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔ البتہ یہ چند الفاظ قابل غور ہیں۔

”خدا کا تصور جو مسیحیت پیش کرتی ہے۔ وہ جلت اجتماع پسندی کے تقاضا کے مطابق ہے۔ خدا کی ذات محبت ہے (یو حجا ۲۳-۲۴ وغیرہ) پونکہ خدا ازل سے محبت ہے اور چونکہ اس کی ذات میں حدوث کا امکان نہیں۔ لہذا خدا کی اذلی محبت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ خدا کی ذات میں ازل سے محب، محظوظ اور محبت کا رشتہ موجود ہو۔ پس مسیحیت خدا کی وحدت میں ثالوث کی قائل ہے۔ یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس خدا کی ذات واحد میں محب، محظوظ اور محبت کے رشتہ کے طور پر ہیں۔ (متی ۱۹-۲۸، یو حجا ۱۵-۲۶ وغیرہ) باپ ازل سے بیٹے کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور بیٹا باپ کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ (یو حجا ۱۷-۱۸، ۲۳-۵ وغیرہ) پس ہم جلت اجتماع پسندی کے ذریعہ جو ہماری سرشت میں موجود ہے۔ خدا کی ذات کا علم حاصل

کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۸۸، ۱۸۹)

اس اقتباس کا مفصل جواب اور اق سابقہ میں آچکا ہے۔ قارئین ورق الٹ کر ملاحظہ فرمائیں۔

خدا کی محبت کا ذکر آپ بار بار کرتے ہیں۔ جس پر ہمارا بھی إيمان ہے۔ مگر آپ باشبل کے ان حوالہ جات پر نظر نہیں کرتے جن میں ذکر ہے کہ مائی حوا کی غلطی کی سزا اس کی کل بیانات کو دردزہ کی شکل میں ملتی آ رہی ہے۔ اور بیبا آدم کی غلطی کی سزا تمام مزدور پیشہ خصوصاً کسانوں کو پہنچ رہی ہے (بیدائش باب سوم) یہ کیسی محبت اور کیسا انصاف کیا ہی سمجھ ہے۔۔۔

ذرا سی بات پر اے داغ تم ان سے گزر بیٹھے

اسی کا نام الفت ہے محبت اس کو کہتے ہیں؟

قرآن کی تصدیق: پادری صاحب نے اس سے پہلے جو کچھ لکھا ہے قارئین اسے مع جواب پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہنچ کر آپ نے جو کچھ لکھا ہے۔ اسے بھی ہم نقل کر دیتے ہیں تاکہ قارئین کو گونہ مسرت حاصل ہو۔ پادری صاحب لکھتے ہیں۔

”اس (ہمارے کلام) کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تین خداوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم خدائے واحد کے قائل ہیں (مرقس ۲۹-۱۲، یوحنا ۳-۷، اکر ۶-۸ وغیرہ) ہم شرک سے تنفر اور بیزار ہیں (خروج ۵-۳-۲۰، کر ۱۳-۱۲، اعما ۱۵-۱۴، یوحنا ۵-۲۱، زبور ۱۱۵-۸-۳) ہم ان تمام بالوں سے پر بیزار تے ہیں۔ جن سے شرک کی بو آتی ہے (روم ۱۳-۱۲، کر ۲۳-۲۱-۱۰، گلتی ۵-۱۳، ۱۳-۱۲ وغیرہ) ہم خدا کو اکیلا اور واحد خدا تسلیم کرتے ہیں۔ ہم قرآن کے ہم نواہو کرتے ہیں کہ ”بے شک وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔“ (ماہدہ ۷-۷) ہم بھی کہتے ہیں کہ ”خدا کی نسبت حق بات بولو اور تین نہ کو۔ باز آؤ تھار اکھلا ہو گا۔ اللہ جو ہے وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ (نساء ۱۴۹) قرآن کہتا ہے۔ ”اللہ کی کوئی جور و نہیں۔ اس کا میثا کیوں نکر ہو گیا۔ (انعام ۱۰۱) ہم بھی اس پر صاد کرتے ہیں۔ اور الحج کی انبیت کے تصویر میں سے ہر طرح کے جسمانی اور دنیاوی عناصر کو خارج کر کے سورہ اخلاص کی آیات کو نہایت اخلاص سے پڑھتے ہیں کہ ”اللہ نے نہ کسی کو جتنا اور نہ وہ خود کسی سے جنایا اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔“ (آیات ۳، ۳۲) ہم خدا کی ذات میں تین ہستیوں کے قائل نہیں۔ خدا ایک واحد ہستی ہے۔ ہم اس کی ہستی

میں جمع اور تفہیق کو جائز قرار نہیں دیتے کہ کوئی کے کہ ایک جمع ایک جمع ایک تین ہوئے کیونکہ خدا کی ذات میں اجرا نہیں۔ خدا روح ہے۔ اس کی ذات ان باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ "۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۸۹، ۱۹۰)

قارئین! ہم پہلے صفحات میں مفصل پتاچے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت عیسائیوں کے دو گروہ تھے۔ جو آج بھی ملتے ہیں۔ ایک گروہ کاعقیدہ تھا کہ باپ بیٹا اور روح القدس تینوں خدا ہیں۔ تین کرنے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ خدا ایک ہی ہے۔ دوسرے گروہ کاعقیدہ تھا کہ خدا نے مسیح کا جسم اختیار کیا۔ جیسا کہ پادری صاحب فرماتے ہیں۔

مسیحیت تجسم کی قائل ہے اور ماننی ہے کہ کلمۃ اللہ خدائے جسم تھا جو ہمارے درمیان رہا (مسیحیت کی عالمگیری صفحہ ۷)

پادری صاحب نے یہ ہوشیاری کی ہے کہ قرآن مجید میں جو تین خدا کرنے والوں کا رد آیا ہے۔ جس کی مفصل تردید گذشتہ اور اس پر ہو چکی ہے۔ اس میں تو قرآن شریف کے ہم نوا ہو گئے۔ مگر ان کے عقیدے کا رد بالفاظ "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ" قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ اس کا ذکر تک نہیں کیا بلکہ اس پر خوب ناک بھوں چڑھایا ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ اس بارے میں یہ ہے۔

"اگر قرآن شریف کا ان آیات سے یہ مطلب تھا کہ مسیحی عقیدہ پر اعتراض وارد کر لے تو اس نے مسیحی عقیدہ کے سمجھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی" "سُبْحَانَكَ هَذَا بَهْرَانٌ عَظِيمٌ" دنیا کے کل مسیحی بغیر کسی استثناء کے ایسے عقیدہ کو نہ موم و مطمئن گردانے ہیں۔ کلیساۓ جامع خدا کی وحدانیت کی قائل ہے۔ تاریخ کلیسا اس بات کی شاہد ہے کہ خدا کی توحید کے عقیدہ کو بحال اور مستحکم کرنے کی خاطر زیکاریا یا حکیم کو نسل نے تثییث فی التوحید اور توحید فی التثییث کا عقیدہ واضح کیا تھا۔ اسلام خدا کی وحدت کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ پوچھتا ہے کہ اس وحدت کا مفہوم کیا ہے تو جواب ملتا ہے کہ وحدت کا مطلب مخفی وحدت ہے۔ جب انسان اپنی جبلت استفسار سے مجبور ہو کر یہ جانتا چاہتا ہے کہ وحدت مخفی کیا شے ہے۔ کیونکہ وہ اس قسم کی وحدت کو نہ تو عالم شہود میں اور اپنی فطرت اور سرنشت میں اور نہ

اپنے روحانی تجربات میں پاتا ہے تو قرآن اس کو اپنے رعب اور اختیار سے خاموش کر دیتا ہے۔”۔ (حج ۳۵، اخلاص ۱)۔ (دین فطرت صفحہ ۱۸۹، ۱۹۰)

**مجیب:** اس اقتباس میں آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ عیسائیٰ قوم تین خداوں کی قائل نہیں ہے۔ تثنیث کی مفصل بحث صفحہ ۷۰ سے ۸۲ تک ہو چکی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہی مذہب تثنیث کھلاتا ہے اور یہی عقیدہ تمام عیسائیوں میں مقبول ہے اسی لئے پادری عبد الحق صاحب نے اپنے رسالے کا نام اثبات التثنیث فی التوحید رکھا ہے۔ ہم خوش ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ پادری برکت اللہ صاحب نے بھی اور پادری عبد الحق صاحب نے رسالہ مذکور میں مندرجہ عقیدہ مسترد کر دیا ہے۔ اس کی ترویج میں آپ کا یہی فقرہ کافی ہے کہ خدا کی ذات میں اجزاء نہیں ہیں۔ حالانکہ پادری عبد الحق صاحب کے مندرجہ ذیل الفاظ کتاب ہذا میں گذشتہ صفحات پر نقل ہو چکے ہیں۔

کلام مقدس سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ ذات الوہیم میں باپ بیٹا اور روح القدس تین اقوام ہیں۔ متی ۱۸:۱۹ (رسالہ تثنیث صفحہ ۱۶)

اتنا بھی غایمت ہے کہ پادری برکت اللہ صاحب تثنیث سے نکل کر توحید میں آگئے ہیں تاہم جو کسریاتی ہے اسے ہم نکال دیتے ہیں۔ آپ نے جو مذہب اختیار کیا ہے وہ آپ کے الفاظ میں یہ ہے۔

”مسیح تجسم کی قائل ہے اور مانتی ہے کہ مجع کلمۃ اللہ خداۓ مجسم تھا۔“

(مسیحیت کی عالمگیری صفحہ ۵)

**مجیب:** اس اقتباس سے صراحت معلوم ہوتا ہے کہ پادری صاحب تجسم خدا کے قائل ہیں۔ جس کارو قرآن شریف نے بالفاظ ”لَقَدْ كَفَرُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِتَّعُ ابْنُ مَزِيْمَ“ کیا ہے مگر پادری صاحب کی جرات ملاحظہ ہو کہ آپ جس بات کارو کرتے ہیں اسی کے قائل بھی ہیں۔ مثلاً نیکایا ہے کے فیصلے کو صحیح سمجھ کر اس کا نام خود تثنیث فی التوحید اور توحید فی التثنیث رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں۔ کہ ہم خدا کی ذات میں اجزاء کے قائل نہیں ہیں۔ عیسائیوں کی جس کو نسل کا بنی مبانی قسطنطینی عظیم تھا۔ اس کا فیصلہ کتاب ہذا میں گذشتہ صفحات پر مفصل درج ہو چکا ہے۔ جس میں عقیدہ اتحاد اسیں منظور ہوا تھا۔ اسی کا

نام تسلیت فی التوحید ہے۔ جس کا اقرار آپ اور پادری عبد الحق صاحب بالاتفاق کرتے ہیں۔ مگر آپ اقرار کے ساتھ انکار بھی کئے جاتے ہیں۔ تسلیت فی التوحید ایسا شیرٹ حامسلہ ہے کہ خود پادری حضرات اس کو مغلق ترین مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ کتاب ہذا میں گذشتہ صفحات پر درج ہو چکا ہے۔ تمام قریب الفسم کرنے کو ہم اس کی مثال دیتے ہیں۔

مثال: ایک شخص عبد اللہ نای اپنی دکان کا مالک ہے اس کے دو بیٹے دکان کے کاروبار میں برابر کے شریک ہیں۔ ان تینوں کی کاروباری حیثیت کو ملاحظہ رکھ کر لوگ تینوں کو مالک کہتے ہیں اور باپ کے اصل مالک ہونے کے لحاظ سے دکان کا مالک ایک بھی کہا جاتا ہے۔ یہی معنی ہیں اتنا ہیس کے اس قول کے۔

باپ قادر مطلق بینا قادر مطلق روح القدس قادر مطلق تو بھی تم قادر مطلق نہیں بلکہ ایک قادر مطلق۔ (تفصیل کتاب ہذا میں ملاحظہ ہو)

اللہ اللہ عیسائی راہنماؤں کے اقوال صریحہ کی موجودگی میں آج ہمارے کان میں آواز آتی ہے کہ قرآن نے مسیح عقیدہ کو نہیں سمجھا۔ یا للعجب! چونکہ پادری صاحب مسئلہ تسلیت کی نفی کرتے ہیں اور تجمیع کے قائل ہیں۔ اس لئے ہم ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ کتاب ہذا میں بحث تسلیت کو غور سے پڑھیں جو صفحہ ۷۸ سے صفحہ ۸۳ تک باتفصیل کی گئی ہے۔ اسی میں عقیدہ تجمیع کا رد بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس جگہ انجلیل کا ایک مقام پیش کرتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کن ہے۔ سچ فرماتے ہیں۔

”بیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجوہ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں۔“ یو حناب بے، از بابل مطبوعہ ۱۹۱۶ء

جس وقت مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت بھی آپ مجسم خدا تھے۔ اگر اس وقت بھی خدا تھے تو آپ کا یہ فرمانا کہ یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں۔ ”کیا معنی رکھتا ہے یہ اثنیت (دوئی) کیسی ہے۔ کیا اس مسیحائی ارشاد کا عربی ترجمہ ان الفاظ میں صحیح نہیں ہے؟

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسِيْحٌ رَسُولُ اللَّهِ

اگر یہ عربی ترجمہ صحیح ہے تو پادری صاحب کے عقیدہ تجمیع خدا کی تردید کے لئے اور

کسی دلیل کی ضرورت ہے (ترجمہ خدا کی بحث گذشتہ صفحات پر ملاحظہ ہو)  
آگے چل کر پادری صاحب لکھتے ہیں۔

”اسلام خدا کی وحدت کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ پوچھتا ہے کہ اس وحدت کا  
مفہوم کیا ہے تو جواب ملتا ہے۔ کہ وحدت کا مطلب محض وحدت ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۱۹۰)

**مجیب:** یہ کیسیں کہ خداروح ہے اور اس کی ذات ان باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔۔۔۔۔  
(صفحہ ایضاً) تو یہ غبار صحیح ہو اور جب قرآن یوں کہے کہ ”لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ“ تو آپ اس پر  
اعتراض کریں اور اس کے باوجود سورہ اخلاص کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا ظہار بھی کریں۔  
کیا ہی حق ہے۔۔۔

ہم جو چپ ہوں تو سڑی کھلائیں  
شخچ چپ ہو تو توکل ٹھیرے

پادری صاحب! یہی سوال اگر مسیحیت پر وارد ہو کہ حسب تعلیم انجیل یوحناباب ۷  
خدا کے واحد کے کیا معنی ہیں؟ یہ وحدت کیسی ہے۔ جسی ہے یا نوی یا صنفی؟ تو آپ اس سوال  
کا کیا جواب دیں گے؟ بے شک پادری عبد الحق اور پادری سلطان محمد خال سے مشورہ کر کے  
جواب دیجئے۔ اور ان سے یہ بھی پوچھئے کہ اپنا گھر شیشے کا ہا کر دوسروں پر پھر رہسانے والا کون  
ہوتا ہے؟

آگے چل کر پادری صاحب نے پھر وہی اعتراض کیا ہے کہ اسلام خدا کو با اختیار  
سلطان کی طرح مانتا ہے اور مسیحیت خدا کو میریان باپ قرار دیتی ہے۔ ان سب باتوں کا جواب  
پلے ہو چکا ہے۔ دیکھو صفحہ ۱۱۳ اس بحث کے اخیر میں پادری صاحب نے لکھا ہے کہ۔

قرآن مجید میں اس تعلیم کی تصریحات بکثرت ملتی ہیں۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔

۱۔ ”لَا تُكَلِّفِ إِلَّا نَفْسَكَ“۔۔۔۔۔ (پ ۵: ع ۸) (تمہاری ذات کے سوا کسی اور کو تکلیف  
نہیں دی جائے گی)

۲۔ ”عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هُنَّ دَيْنِهِمْ“۔۔۔۔۔ (پ ۷: ع ۳)

**ترجمہ** اے ایمان والو! تم پر اپنی جان کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت

یاب ہو گئے۔ تو مگر اہل کم کو ضرر نہ پہنچائیں۔

-۳۔ "اَلَا تَرِزُّ وَازِدَةٌ وَزِرْدًا اُخْرَى"---(پ ۲۷:ع ۷)

**ترجمہ** کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرا کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

-۴۔ "لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ"---(پ ۳:ع ۸)

**ترجمہ** جو کام کی نے اچھا کیا ہے اس کا فائدہ اسی کے لئے ہے اور جو برا ہے اس کا نقصان بھی اسی کے لئے ہے۔

پادری صاحب سے یہ آیات اسی طرح مخفی رہی ہیں۔ جس طرح مسیح نے فرمایا ہے کہ ریا کار دوسرا کی آنکھ کا تنکاد لیکھتا ہے۔ مگر اسے اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔

(متی باب ۷)

آگے چل کر آپ لکھتے ہیں۔

### "جلالت تحکم اور جلت عجز"

تحکم کے معنی ہیں دباؤ اور عجز کے معنی ہیں عاجزی اور تو اوضع۔ اس کے متعلق پادری صاحب لکھتے ہیں۔

"دین فطرت کا یہ کام ہے کہ تحکم اور خودنمائی کے جذبہ کو حد سے نہ بڑھنے دو"

(صفحہ ۱۹۲)

پھر لکھتے ہیں۔

"کلمۃ اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ اور جو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔" --- صفحہ ۱۹۶

یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے ساتھ قرآن شریف کی تعلیم بھی آپ نے دیکھی یا سنی ہے سنئے قرآن شریف تو ان دونوں باتوں کی جزا اسرا بھی ایسی بتاتا ہے۔ جو کسی کتاب نے نہیں بتائی ہوگی۔ بڑا ای کا اظہار کرنے والے کام مبتکبر کھتا ہے اور کھتا ہے۔

"الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مُهْنَجُوا لِلْمُتَكَبِّرِينَ"---(پ ۲۲:ع ۳)

کیا تکبیر کا اظہار کرنے والوں کاٹھکانا جنم نہیں ہے؟ ضرور ہے۔

نیز تو اضع اور عاجزی اختیار کرنے والوں کے حق میں فرماتا ہے:-

**تِلْكَ الدَّارُ الْأُخْرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الْأَرْضِ وَلَا  
فَسَادًا** ---- (پ ۲۰: ع ۱۲)

آخرت کا یہ گھر ہم ان کو عطا کریں گے جو دنیا میں بلندی و برتری یا فساد کا ارادہ نہیں کرتے۔

پادری صاحب اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں؟ آگے چل کر صفحہ ۱۹۹ پر لکھتے ہیں کہ

”پس مسیحیت تحکم اور خود نمائی کو حد سے بڑھنے نہیں دیتی۔ ہر طرح کے غور لاف و گراف کا استعمال کرتی ہے پس مسیحیت دین فطرت ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔“

بے شک مسیحیت یہ صلاحیت رکھتی اگر اس میں یہ تعلیم نہ ہوتی کہ بنی اسرائیل

**مجیب:** ہی انسان ہیں باقی سب لوگ کتے ہیں۔

”مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روئی کتوں کو چھینکی جائے۔“---- (متی ۱۵: ۲۶)

پادری صاحب اسی ضمن میں قرآن مجید پر حملہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”قرآن کی تعلیم ہے کہ مسلمان اپنے لوگوں کو ہی سلام کریں اور غیر مسلموں کو سلام کرنے

میں پہل نہ کریں (نور ۶۱) لیکن اگر وہ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دیں (نماء ۸۸)

مسلمان مرد عورتوں پر حاکم ہیں (نماء ۳۹) غرض یہ کہ قرآنی تعلیم بے جا غور، فخر اور جھوٹی

عزت اور شان کی حمایت کرتی ہے۔ لیکن انجیل جلیل کی تعلیم اس قسم کے جذبات کے منافی

ہے۔“---- (متی باب ۵: صفحہ ۳۸۶۳۳)

ہم کماں تک پادری صاحب کے ظلم اور تحکم کی شکایت کریں۔ آپ قرآن کے

**مجیب:** ذے وہ مضامین ٹھوٹنے ہیں جو قرآن میں نہیں آپ نے سورہ نور کی آیت ۶۱ کا

حوالہ دیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

**فَإِذَا دَخَلْتُمْ يَئُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ** ---- (پ ۱۸: ع ۱۲)

**ترجمہ:** جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے ہم جنوں کو جو وہاں بیٹھے ہوں

سلام کما کرو۔

کے معنی ہم جس کے بھی آتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

**خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا** ---- (پ ۲۱: ع ۶)

**ترجمہ** "خدا نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائیں۔"  
 مگر ہم اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ بلکہ ایک اور آیت پیش کر دیتے ہیں۔ جو فصلہ کن ہے۔ غور سے سنئے!  
 يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ أَمْتُوا لَا تَدْخُلُوا يَوْمًا غَيْرَ يَوْمِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِشُوا وَتُشَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ---- (پ:۱۸:ع:۱۰)

**ترجمہ** اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہو اکرو جب تک تم معلوم نہ کرو (کہ تم جس سے ملتا چاہتے ہو وہ گھر میں ہے یا نہیں) اور اہل خانہ پر سلام کیا کرو۔

**پادری صاحب!** میں بھی آپ کے دولت خانہ میں بغیر سلام کئے جائیں گوں تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ آیت میرے سامنے پیش کر کے سلام کا تقاضا کریں۔

**اے قرآن:** اللہ رے تیری شان کہ منکرین تیری جس بات پر اعتراض کریں تو خود ہی اس کا جواب دے دیتا ہے!

**قارئین!** سوای دیانند کی "سیستار تھہ پر کاش" میں قرآن مجید پر ۱۵۹، اعتراضات درج ہیں اور مہا شہ و حرم پال سابق نو آریہ حال مسلمان کی کتاب "ترک اسلام" میں قرآن مجید پر ۱۱۶ اعتراضات درج ہیں۔ مگر حق یہ ہے کہ ان دونوں مفترضوں نے باوجود بے راہ روی کے اس قدر تحکم اور ظلم سے کام نہیں لیا۔ جس قدر پادری برکت اللہ صاحب نے لیا ہے۔ ہمیں اس کا افسوس ہے۔ جس کی دو وجہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ آپ مسلمانوں کی اولاد ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ سچ کی بھیزوں میں سے ہیں۔ یعنی ایک بے ضرر قوم کے فرد ہیں۔ اس موقع پر ہمیں مولانا حالی مرحوم کی ایک رباعی یاد آگئی ہے۔ جو یہ ہے۔  
 حالی راہ راست جو چلتے ہیں سدا خطرہ انہیں گرگ کانہ ڈر شیروں کا

لیکن ان بھیزوں سے واجب ہے حذر  
 بھیزوں کے لباس میں جو ہیں جلوہ نما  
 اس سے آگے پادری صاحب نے صفحہ ۲۰۲ پر یہ عجیب سرنخی قائم کی ہے۔

## ”تحکم کی جبلت محمد علیٰ اور مسیح ناصری“

اس سرفی کے ماتحت آپ نے عجیب رنگ دکھائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے ہم نواوں نے شان الوہیت اور مرتبہ رسالت پر غور نہیں کیا۔ پس توجہ سے سنئے۔ ہر فن اور ہر حکومت میں ایک مفتہائے کلام ہوتا ہے۔ جمل پہنچ کر جھٹڑا ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً رعیت کے لئے بادشاہ کی ذات مفتہائے نزاع ہے اور اس کے مقرر کرنے سے ہائیکورٹ (عدالت عالیہ) مفتہائے نزاع ہے۔ یہ ایسی صداقت ہے کہ کسی فرد انسان کو اس میں کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ اس اصول کو ملاحظہ رکھ کر پادری صاحب کی سنئے۔ آپ لکھتے ہیں کہ۔

”قرآن اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ کی سطوت اور جروت کے منوانے پر نمایت غلو اور مبالغہ سے کام لیتا ہے۔“

(آل عمران ۲۹، ۲۶، ۱۳۱ء ماء مکہ ۹۳ وغیرہ صفحہ ۲۰۲)

**مجیب:** ان آیات میں صرف ایک ہی حکم ہے کہ اللہ اور رسول کی تابعداری کرو۔ نہ اس کے میں غلو ہے نہ مبالغہ ہے۔ بلکہ اسی قاعدے کے مطابق اللہ کی ذات اور اس کے بنانے سے رسول خدا ہائیکورٹ (عدالت عالیہ) کی حیثیت سے مفتہائے کلام ہیں۔ شروع سے کل انبیاء علیمِ اسلام کی تعلیم یہی چلی آئی۔ حتیٰ کہ خود مسیح نے بھی فرمایا کہ ”میرے مکموں پر عمل کرو۔“ (یوحننا ۱۳، ۱۵) جتاب مسیح کا یہ ارشاد (بقول مسیحیاں اگر خداۓ جسم ہونے کی حیثیت سے ہے تو بھی صحیح ہے۔ اگر بحیثیت رسالت کے ہے تو بھی صحیح ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ پادری صاحب کو اس پر کیا اعتراض سو جھا ہے۔ ہم کھلے لفظوں میں کہتے ہیں۔ تمام موافق اور مخالف دل کھوں کر سن لیں کہ۔

ہم متعلیم قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ذات کو مفتہائے کلام جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کے بنانے سے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں دونوں میں فرق ذاتی اور عرضی کا ہے۔ یعنی خدا اپنی ذاتی حیثیت سے مفتہائے کلام ہے اور رسول منصب رسالت کی وجہ سے اس لئے ہمیں آنحضرت ﷺ کی اطاعت کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ خود انہی کا قول و فعل کافی سند ہے۔ ہم ان دو ہستیوں کے علاوہ کسی اور کا قول و فعل، دلیل اور جست

شرعی نہیں جانتے۔

تعجب بالائے تعجب ہے کہ مسلمانوں کے لئے اللہ اور رسول کا حکم واجب الاطاعت اور موجب نجات ہوتا پادری صاحب کو کھٹکا ہے۔ حالانکہ ان کا اپنا نامہ بھی یہ ہے کہ ہر ایک مبلغ مسیحیت کی تفہیفات بلکہ خطوط کو بھی الہامی نوشته قرار دے کرو اجب التعمیل مانتے ہیں۔ اللہ اللہ کس قدر بے انصافی ہے۔

تمہیں تقصیر اس بہت کی جو ہے میری خطا لگتی  
ارے لوگو! ذرا انصاف سے کہیو خدا لگتی

بس یہ اعتراض کچھ قائل توجہ نہیں ہے۔ ہم جس طرح پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شخصیت کو تمام امت محمدیہ کے لئے اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں اسی طرح کل انجیائے کرام کو اپنی اپنی امت کے لئے نمونہ کاملہ جانتے ہیں۔ قرآن مجید اس اصول پر فلسفیانہ رنگ میں تنیسرہ کرتا ہوا کہتا ہے۔

**آمُ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ** ---- (پ ۱۸: ع ۳)  
**ترجمہ** "کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کے منصب رسالت کو پچانا نہیں ہے کہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔"

ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید نے خدا کی سطوت اور جبروت منوانے پر بہت زور دیا ہے۔ یہاں تک کہ مصنوعی خداوں کے حق میں فرمایا ہے۔

**لَنْ يَسْتَكْفَفَ الْمُسِيَّخُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ** ---- (پ ۶: ع ۳)  
**ترجمہ** "سچ کو خدا کا بندہ بننے سے عار نہیں ہے۔"

انہی معنی میں مولانا حالی مرحوم کا ایک مدرس ہے جو اپنے مضمون میں بالکل صحیح ہے۔

خرد اور ادراک رنجور ہیں وال	سم و مرادنے سے مزدور ہیں وال
چاندار مغلوب و مقصور ہیں وال	نبی اور صدیق مجبور ہیں وال!
نہ پروا ہے ابرار و احرار کی وال	
نہ پرسش ہے احبار و رہبان کی وال	

## صَدَقَ اللَّهُ! كُلُّ لَهُ فَانْتُونَ

بے دین مناقوں نے مخلص مسلمانوں کو شبہات میں ڈالنے کے لئے یہ رسم نکالی تھی کہ آنحضرت ﷺ کے قریب جا کر آپ کے کان سے منہ لگا کر کوئی بات کہہ دیتے۔ جس سے مسلمانوں کو خیال ہوتا کہ لوگ دربار رسالت کے مقربین میں سے ہیں اس لئے حکم نازل ہوا کہ رسول کے کان میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے لیا کرو۔

اس سے غرض یہ تھی کہ یہ فتنہ مت جائے۔ پادری صاحب کو اس پر بھی اعتراض ہے گذشتہ صفات پر ہم نے کہا ہے کہ خدا کے مقرر کر دینے سے رسول کی حیثیت ہائی کورٹ کے چیف جج کی سی ہے پھر اس کا فیصلہ کیوں ناطق نہ ہو اور خاص کر بحیثیت مذہبی پیشواؤ اور بحیثیت نائب خدا ہونے کے اس کے فیصلے پر چون وچ اکی گنجائش کیوں ہو۔ مگر پادری صاحب کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ میں ان اعتراضوں کی قدر کرتا ہو اصرف اتنا کہتا ہوں کہ۔۔۔

بجھے میں ایک بڑا عیوب ہے کہ وفادار ہوں میں

اب سنتے پادری صاحب جناب مسیح کے حق میں لکھتے ہیں کہ

”اس کے بر عکس اگر ہم ابن عبداللہ کی زندگی پر سطحی نظر ڈالیں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ گو آپ علم اور فوتی کا نمونہ تھے۔ (متی ۱۹:۱۹) تاہم آپ کے علم اور فوتی کا مطلب نہ تھا کہ آپ پست ہوتے تھے یا آپ اپنی ذات اور خودداری کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کہ آسمان و زمین کا کل اختیار بجھے دیا گیا (متی ۲۸:۲۸) میرے پاپ کی طرف سے سب کچھ بجھے سونپا گیا ہے (متی ۲۷:۲۷) آپ ہر طرح سے صاحب اختیار تھے (یوحتا ۳۵:۳۵ ایضاً ۱۳:۳) یہاں تک آپ نے فرمایا کہ آپ روز حشر دنیا کا انصاف کریں گے لیکن آپ باوجود صاحب اختیار ہونے کے پہلے درجے کے فروتن اور حیطم تھے۔۔۔ (صفہ ۲۰۳، ۲۰۴)

مجیب: ہم نہیں سمجھ سکتے کہ پادری صاحب اس مقابلہ میں کمال تک کامیاب ہوئے ہیں اور کمال تک ناکام ہم سے پوچھیں تو ہم یہ صاف بات کہنے سے نہیں رک سکتے کہ ہمارا بھی دوسرے انبیاء کرام کی طرح عبدہ و رسولہ ہے اسی لئے حضور بھکم خدا کھلے الفاظ میں اعلان کرتے ہیں۔

فَلَنِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّاً وَلَا رَشْدًا - - - (پ:۲۹، ع:۱۲)

(اے پیغمبر! علی الاعلان کہہ دیجئے کہ لوگو! میں تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا)

مُسْعِ کے حق میں سیمیوں کے ایسے غالیانہ اقوال سن کر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ مولانا حالی مرحوم کے الفاظ میں درج ذیل ہے۔

نصاریٰ نے جس طرح کھلایا ہے دھوکا کہ سمجھے ہیں عیسیٰ کو بیٹا خدا کا مجھے تم سمجھنا نہ زنماں ایسا میری حد سے رتبہ بڑھانا نہ میرا سب انسان ہیں واں جس طرح سرگاندہ اسی طرح ہوں میں بھی اک اس کا بندہ اللہ اللہ! کس قدر صاف گوئی اور رشد و ہدایت سے بھرپور کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت کے مقابلہ میں اپنی خالص عبودیت کا اطمینان کیا جا رہا ہے۔

لطفہ: مغلولوں میں کہتے ہیں۔

وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر تو ہم بھی ان بداروں کا مقابلہ دیکھیں۔ اللہ اللہ کس قدر خدا کی اور انبیاء کرام کی توہین ہے۔ خدا ان سب کو ہدایت کرے۔ آمین!

باقی رہا مسیح کے حلم کا دعویٰ۔ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ ہاں اس سے اختلاف ہے کہ آپ اس وصف کو مسیح کی ذات سے مخصوص ٹھہراتے ہیں۔ ”تِلْكَ إِذَا قِسْمَةً فِي زَرِّي“ سنئے ہم آپ کو قرآن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سناتے ہیں ارشاد ہے۔

- ۱۔ ”فِيمَا زَخَمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنَّتْ لَهُمْ“۔۔۔۔۔ (پ ۲۳: ع ۸)

**ترجمہ** (اے پیغمبر! خدا کے فضل سے تم بڑے نرم دل واقع ہوئے ہو)

- ۲۔ ”إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“۔۔۔۔۔ (پ ۲۹: ع ۳)

**ترجمہ** ”اے! تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔“

پادری صاحب! اگر مزاج مسائی کے خلاف ہو تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو سانپ اور سانپوں کے بچے (متی ۱۲: ۳۲) بد اور حرامکاری (متی ۱۲: ۳۹) کرنے والا بھی

حیلہ ہو سکتا ہے پادری صاحب! کیا مسح کا یہی حکم ..... (دنیا کو دکھاؤ گے جس کے جواب میں مسکین مخاطب کو یہ کہنے کا موقع ملے۔۔۔

بِدْعَتِي وَخُورَ سِدْمَ عَفَاكَ اللَّهُ عَلَى عَفْتِي  
اسی ضمن میں پادری صاحب نے لکھا ہے کہ

”ابن اللہ نے اپنے نمونہ سے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم کو دوسروں کی خاطر اپنے حقوق سے دستبردار ہو جانا چاہئے۔۔۔“ (صفحہ ۲۰۵)

قرآن مجید نے اس کے متعلق جو تعلیم دی ہے وہ اس سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ارشاد

ہے

**يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً** ..... (پ ۲۸ : ع ۳)  
کامل مسلمان (انصار کرام) اپنی حاجت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ ان دونوں تعلیموں میں جو فرق ہے اس پر غور کیجئے۔

**مثال!** نادری سے کچھ قرض لیا۔ پادری صاحب کی منقولہ ہدایت کے مطابق قرض خواہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنا حق چھوڑ دے۔ قرآن شریف بھی اس کے متعلق یہی ہدایت فرماتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

**وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مِنْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** ..... (پ ۳ : ع ۶)

**ترجمہ** اگر تمہارا مفروض تھک دست ہو تو فراخی تک اس کو ملت دیا

کرو۔ اگر بیت صدقہ قرض معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہت اچھا ہے۔  
ان کے علاوہ دو شخص اور ہیں۔ دونوں کو بھوک گئی ہوئی ہے۔ ایک کے پاس روٹی ہے اور دوسرے کے پاس نہیں۔ آپ کی پیش کردہ ہدایت اس موقع پر کیا کہتی ہے۔ کچھ نہیں کہتی بلکہ خاموش ہے۔ قرآنی آیت ”ولَوْ كَانَ“ اس روٹی والے کو تغییر دیتی ہے کہ تم اپنی بھوک کو مغلوب کر کے بھیلیوں کھانا دوسرے کو کھلا دو۔ اللہ اللہ! اس تعلیم میں کس قدر رحمت و شفقت دی ہے، قرآن کے مکررو!

بس تگ نہ کرنا ناسخ ناداں مجھے اتنا

یا چل کے دکھادے وہن ایسا کر ایسی

آگے چل کر پادری صاحب نے صفحہ ۲۰۸ پر ایک سرفی یوں لکھی ہے۔

**”جلت حصول و اکتساب“:** اسی سرفی سے مراد یہ ہے کہ انسان میں کسی نہ کسی

چیز کو حاصل کرنے کی فطری خواہش پائی جاتی ہے۔

چنانچہ شروع مضمون میں پادری صاحب لکھتے ہیں کہ۔

”ہر انسان میں اشیاء کو فراہم کرنے اور ذخیرہ جمع کرنے کی اقتضا کسی نہ کسی صورت

میں پائی جاتی ہے۔ اکتساب و حصول کی جلت انسانی فطرت میں داخل ہے۔“۔۔۔۔۔ (صفحہ ۳۰۸)

ہمارا بھی اس پر صاد ہے۔ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔

**أَخْيَرَتِ الْأَنْفُشِ اللَّهُ**

**ترجمہ** ”ہر نفس حصول مدعایاً لا پی ہے۔“

آگے چل کر آپ لکھتے ہیں۔

”دین فطرت کا کام ہے کہ اس جلت کے رجحان کو کم مایہ اور بے حقیقت اور ادنیٰ اشیاء کی طرف سے ہٹا کر ایسے اعلیٰ تین مقاصد کو حاصل کرنے کی جانب راغب کرے۔ جس سے

انسان کی ذاتی ترقی اور بنی نوں انسان کی بہبودی مقصود ہو۔“۔۔۔۔۔ (صفحہ ۲۰۹)

اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے آگے آپ لکھتے ہیں کہ

”میسیحیت ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ دولت ایک بے مایہ بیچ ادنیٰ اور بے حقیقت شے ہے اور

ہماری زندگی کا یہ نصب العین ہرگز نہیں ہونا چاہئے۔ کہ ہم اس کے جمع کرنے میں منہک ہو

جائیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو دولت مند بناتا ہے۔ وہ نادار ہے اور جو کوئی اپنے آپ کو نگال بناتا

ہے وہ بڑا مالدار ہے۔ (امثال ۱۳:۷) سچ کا قول ہے کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان

کے لئے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا نہایت مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے

نکل جاتا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو (مرقس ۱۰:۲۳) نیز

فریبا کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو۔ جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور

نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں۔ بلکہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا

ہے نہ زنگ۔۔۔۔۔ (صفحہ ۲۱۰)

ان حوالہ جات پر بنا کر کے پادری صاحب لکھتے ہیں کہ  
”سطور بالا سے ظاہر ہے کہ مسیحیت جلسہ حصول و اکتساب کو تاکارہ نہیں بناتی یہ ہماری  
سرشت میں داخل ہے۔ لہذا مسیحیت اس جملی نظرت کو ضائع نہیں کرتی بلکہ اس کی جلسہ کے  
رجحان کو زور مال جیسی بے حقیقتی اشیاء کے جمع کرنے کی طرف سے ہٹا کر اس کا رخ اعلیٰ  
مقاصد کی طرف کر دیتی ہے۔۔۔۔۔ (صفحہ ۲۱۳)

تمثیل: ہم اس دل خوش کن تعلیم کو ذرا واضح کرنے کے لئے ایک مثال پیش کرتے  
ہیں۔ مسیحیت ہر شخص کو اجازت دیتی ہے کہ وہ دولت کمائے۔ خواہ بذریعہ علم  
کمائے یا بذریعہ تجارت، خواہ اس کی آمدنی سو نہیں بلکہ ہزار نہیں بلکہ دس ہزار تک پہنچ  
جائے۔ ایسا کرنا مسیحیت کے خلاف نہیں۔ مگر اس رقم میں سے جتنا اس کی ضرورت سے زائد  
ہو۔ وہ سارا نیک کاموں میں خرچ کر دے اگر رکھے گا تو نجات سے محروم ہو جائے گا۔ اس  
تشریع کے بعد ہمارے خیال میں اس کی تردید کرنے کی حاجت نہیں۔ کیونکہ دنیا کا ہر ایک گوشہ  
خصوصاً مسیحی ممالک اس کی عملی تردید کر رہے ہیں اس تعلیم کے پیش نظر ممالک مسیحیہ  
(یورپ اور امریکہ وغیرہ) کو دیکھا جائے تو ایک شخص بھی ایسا نہ ملے گا جو باشدافت میں داخل  
ہو کر نجات کا حق دار ہو سکے۔ میرا حسن ظن تو یہاں تک ہے کہ اس تعلیم پر پادری برکت اللہ  
صاحب اور ان کے احباب کا بھی عمل نہ ہو گا۔ ان کے گھر میں بھی تھوڑا بہت اٹاٹا ایسیت  
ضرور ہو گا اور ایسا کرنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ پھر کیا پادری صاحب اور ان کی پارٹی پر یہ شعر  
صادق نہ آئے گا۔

ترک دنیا برمدم آموزند خوشن سیم و غله اندو زند  
اس کے بعد پادری صاحب قرآن پر متوجہ ہو کر لکھتے ہیں۔

”قرآن میں اسی آیات پائی جاتی ہیں جو زر اور دولت کے حصول کو یقین اور ادنیٰ بتلاتی ہیں۔  
لیکن ایک طرف تو قرآن ان چیزوں کو کامیاب قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف انہی چیزوں کو بھتریں  
مرغبات میں شمار کر کے مال غنیمت وغیرہ کے ذریعہ لوگوں کو جہاد کے لئے ابھارتا ہے۔“

۔۔۔۔۔ (سورہ انفال اور فتح ۱۵)

”جو تم لوٹ کے لائے حلال پاک ہے تم کھاؤ۔“ (الفال آیت ۲۷) یوں قرآن اس دنیا کے مال و اس باب اور مال بھی ایسا جو لوٹ کے ذریعہ حاصل کیا ہو (کم مانگی کے اصول کو خود ہی زائل کر دیتا ہے۔ علاوہ اذیں قرآن نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ روپیہ کے ذریعہ لوگوں کے ”دل اسلام کی طرف راغب کرنا جائز ہے۔“---- (توہ آیت ۱۶) صفحہ ۲۱۹، ۲۲۰)

**مجیب:** ہائے تعصّب تیرا برا ہو تو کیسے کیسے مدعاں علم و عقل سے غلطیاں کرتا ہے۔ قرآن شریف چونکہ ایک باحکمت کتاب ہے جس میں انسانی تمدن کے ہر شعبے کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ علم اقتصادیات (پولیٹیکل اکاؤنٹی) آج کمال ترقی پر پہنچ گیا ہے۔ اس علم کے قواعد اساسی کو اسلام خوب ملاحظہ رکھتا ہے اور نجات ہے۔ مال کمانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تجارت زراعت، صنعت و حرفت وغیرہ ہر کام کرنے کی اجازت بلکہ حکم دیتا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔

بذریعہ کسب و تجارت اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔

پھر اسی طریق سے جو حاصل ہو اس کے متعلق ہدایت کرتا ہے۔

**أَنْفَقُوا مِنْ طِبِّيَّاتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ**

(پ ۲: ۴)

**ترجمہ** اپنی پاک کمائی میں سے اور ہماری اگلئی ہوئی زندگی پیداوار میں سے بھی راہ خدا میں کچھ خرچ کیا کرو۔  
اس کے علاوہ فرمایا۔

**حَقَّةُ يَوْمِ حَصَادِهِ** --- (پ ۷: ۴)

**ترجمہ** (زین پیداوار حاصل کرنے کے دن خدا کا حق بھی ادا کیا کرو۔ یعنی بقدر وسعت غایا اور مسکین کو بھی دیا کرو۔

یہاں تک تو انجلی اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ اس سے آگے جس مقام پر جدا ہوتے ہیں۔ آپ کو علیحدگی کا وہ کائنات بھی دکھادیتے ہیں۔ آپ جو چاہیں راستہ اختیار کر لیں۔ آپ نے انجلی کے جو حوالے نقل کئے ہیں۔ ان سب کا ملکھ مضمون اس مصرع میں ہے۔

گر مرد ہے تو عاشق کوڑی نہ رکھ کفن کو

اس کے خلاف قرآن مجید علم اقتصادیات کے اصول کو مخوض رکھتے ہوئے فرماتا ہے۔

**لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عَنْقِكَ وَلَا تَبْشِّطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدْ مَلُومًا مَّهْسُورًا --- (پ ۱۵: ع ۲)**

خبرات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کونہ بالکل بند رکھا کرو اور نہ کھلا چھوڑ دیا کرو۔ اگر ایسا کیا تو افسوس اور حضرت کی حالت میں بیٹھنے رہو گے۔

اللہ اللہ! کس قدر حکیمانہ تعلیم ہے۔ جس سے غیرا اور مسکین کی حاجت روائی بھی ہو اور نظام عالم میں بھی خلل نہ آئے۔ برخلاف اس کے کہ خیرات میں سارا مال خرچ کر دیا

جائے جس کا نتیجہ قرآن نے بتایا کہ تم خود مغلس اور تک دست ہو جاؤ گے۔<sup>①</sup>

**ایک سوال:** میں پا انصاف قارئین کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی قبی

میں دو ہزار کی آبادی ہے۔ ان میں چند اشخاص متول ہیں۔ جو جائز طور پر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے پاس بہت سے مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ جو محنت مزدوری کے ذریعہ اپنا پیشہ پالتے ہیں۔ انہیل میں ان متول لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا سارا مال خدا کے راستے میں خرچ کر دو۔ پھر یہ مال جس کے ہاتھ میں جائے گا۔ اس کو بھی یہی حکم ہو گا۔ کہ تم آگے دے ڈالو۔ اس کے بعد جس کے ہاتھ جائے گا۔ اس کو بھی یہی حکم ہو گا۔ آخر یہ سلسلہ کمال جا کر کے گا۔ ہاں اس سے یہ نتیجہ ضرور نکلے گا کہ یہ لوگ یا تو مزدور پیشہ میں مل جائیں گے یا کاس گدائی ہاتھ میں لے کر کتے پھریں گے کہ۔

ہے کوئی داتا جو روئی کھلا دے!

پادری صاحب! تاریخ کلیسا میں آپ کوئی زمانہ ایسا دکھا سکتے ہیں۔ کہ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا ہو۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو نتیجہ صاف ہے کہ اس قسم کی تعلیم کانگدوں میں تو سما سکتی ہے۔ عمل میں نہیں آسکتی۔ اس لئے ایسا نہ ہب دین فطرت نہیں ہو سکتا۔ ہاں قرآن مجید کی تعلیم عمل میں آسکتی ہے۔ بلکہ کل دنیا کے عمل میں آرہی ہے۔ اسی لئے قرآن ہی دین فطرت ہے۔ قرآن پادری صاحب کو لکھا کر کہتا ہے۔

بس ہو رہے گا عشق و ہوس میں بھی امتیاز  
آیا ہے اب مزاج تمرا امتحان پر

### پاوری صاحب کی محلی: ملاحظہ ہو۔ آپ لکھتے ہیں کہ

”قرآن جلس حصول و اکتساب کی قوت کو بے حقیقت اشیاء کی طرف سے نہیں ہٹاتا۔ اس کی طاقت کے رحمان کو کسی اور بہتر مقصد اور نصب الحسن کی طرف نہیں کر سکتا۔ سیاحت جلس حصول و اکتساب کے اقتضا کو تسلیم کر کے اس رحمان کو زر جیسی بے حقیقت اشیاء سے ہٹادیتی ہے۔ اور اس کا رخ اعلیٰ مقاصد کے حاصل کرنے کی جانب لگاتی ہے۔“..... (دین فطرت صفحہ ۲۲۱، ۲۲۲)

**مجیب:** ہمارا گمان بلکہ یقین ہے کہ جو شخص ایک دفعہ بھی سرسری نظر سے قرآن کا سادہ ترجمہ کسی زبان میں دیکھ لے وہ بھی یقین کر لے گا کہ قرآن ہر حکم میں بلکہ ہر کام میں اعلیٰ مقصد (رضاء اللہ) کی طرف توجہ دلا کر راغب کرتا ہے۔ اسی لئے افاق کے موقع پر فی سبیل اللہ کا لفظ بار بار فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ پاوری صاحب کے لئے فیصلہ کن تعلیم ہم صریح الفاظ میں پیش کئے دیتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

- زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَظَرَةِ مِنَ الدَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوْمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَزِيرِ ذَالِكَ مَنَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأْبِ----(پ ۳: ع ۱۰)
- وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ----(پ ۳: ع ۵)
- مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ----(پ ۳: ع ۱۹)
- وَمَا لَا حَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزِي إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ لَا عَلَى وَلَسُوفَ يَرْضِي----(پ ۳۰: ع ۷)

### ترجمہ:

- لوگوں کو فطرہ بعض چیزوں کی محبت ہوتی ہے جو ان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً

- عورتیں بیٹے، سونے چاندی سے بھرپور خزانے، عمدہ عمدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں یہ تو محض دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانا ہے۔
- جو بھی خرچ کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کرو۔
- ۲ تمہارے پاس جو مال ہے وہ تو ختم ہو جائے گا اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔
- یعنی نیک اعمال کا بدلہ پائیدار ہو گا۔
- ۳ اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ بلکہ وہ اپنے عالیشان پروردگار کی رضا چاہتا ہے اور ضرور اس سے راضی ہو جائے گا۔

پادری صاحب!: دیکھئے ان آیات میں انسان کا مقصد اعلیٰ کیسے صاف الفاظ میں رضاۓ الٰی قرار دیا گیا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ اس وزن کی آیات نہ انگلی میں ہیں نہ دوسرے صحف انبیاء میں۔ باوجود اس کے آپ انکار ہی کئے جائیں تو میں کہوں گا۔

بس تغلق نہ کر ناصح نازان مجھے اتنا یا چل کے دکھادے وہن ایسا کمر ایسی اشتراکیت اور مسیحیت: اسی کتاب (دین فطرت) کے خاتمہ پر پادری صاحب نے ایک مضمون بخوان اشتراکیت اور مسیحیت۔ "لکھا ہے جو قرباً میں صفحات پر پھیلا ہوا ہے اس میں آپ نے روس کے معاشری نظام کا ذکر کر کے اس میں کچھ برائیاں بتائی ہیں۔ پھر مسیحیت کو اس کا نعم البدل قرار دیا ہے۔ مگر قرآنی تعلیم پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس لئے ہمارا فرض نہیں تھا کہ اس کا ذکر کرتے یا جواب دیتے۔ چونکہ پادری صاحب نے اس مضمون میں بھی غلوسے کام لیا ہے۔ اس لئے بغرض اصلاح چند فقرے لکھے جاتے ہیں۔

اشتراکیت کا منشاء ہے کہ سب انسانوں میں مساوات ہو جائے۔ اسی لئے وہ سرمایہ داری کا خاتمہ کر کے سرمایہ داروں کو بھی مزدوروں کی سطح پر لے آتے ہیں۔

پادری صاحب اس قسم کی مساوات کو تو اچھا سمجھتے ہیں۔ مگر رو سیوں نے جس تشدد اور جبر سے یہ نظام جاری کیا ہے اس کے آپ سخت مخالف ہیں۔ آپ کے نزدیک مساوات محبت پر منی ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ مختصر یہ ہے کہ پادری صاحب کے نزدیک

مطلوب صحیح ہے۔ مگر ذریعہ طلب میں آپ کو اختلاف ہے۔ اسی لئے آپ کہتے ہیں کہ انسانی مساوات محبت اور اخوت پر مبنی ہونی چاہئے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

”خدا کی بادشاہت کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے جو ہر فرد بشر سے ازاں اور ابدی محبت کرتا ہے اور کل میں نوع انسان بالحالاظ ذات، مذهب، نسل، رنگ، قوم اور طبقہ وغیرہ ایک دوسرے کے بھائی اور خدا کی بادشاہت کے شریک ہیں۔ اس بادشاہت کے بلند کارشاد ہے کہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے اور تم سب بھائی ہو۔“..... (متی ۸-۲۳)

”اس مساوات کی وجہ سے ہر شخص پر یہ فرض عائد کر دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں سے اس طرح محبت کرے۔ جس طرح اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہر ایک شخص کو جو خدا کی بادشاہت کا ممبر ہے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ پس خدا کی بادشاہت کا اصل الاصول محبت ہے اور اخوت و مساوات کے اصول کا یہ تقاضا ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جائے جو ہر انسان اپنے لئے چاہتا ہے۔“..... (صفہ ۲۲۸)

مجیب: بس یہ ہے پادری صاحب کی ساری تحریر کا لاب لاب۔ ہمارے تصور میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ سرمایہ داروں کو فنا کر کے دنیا کا انتظام کیسے چل سکتا ہے کیا مسیحیت کی تاریخ میں کوئی زمانہ ایسا آیا ہے کہ اس نے تمدن کے اعلیٰ معراج پر پہنچ کر یہ نمونہ دکھلایا ہو۔ مسلمانوں میں اسلامی تعلیم کا صحیح نمونہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں ملتا ہے اور عیسائیوں میں بہترین زمانہ جو قابل نمونہ ہے وہ قسطنطینیہ کے مسیحی بادشاہ قسطنطین اعظم کا زمانہ ہے۔ کیا پادری برکت اللہ صاحب یا کوئی اور پادری صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں۔ کہ اس زمانہ میں مبنی بر مساوات کا ثبوت ملتا ہے۔ جس سے سرمایہ دار اور مزدور سب برابر ہو گئے ہوں۔ اس کی تھوڑی سی تشریع ہم گزشتہ صفحات پر کر آئے ہیں۔

واقعہ صحیح: روس نے اشتراکیت کو اپنا دستور العمل بنایا۔ مگر جو نی اس نے طرز معاشرت میں مساوات کو اپنا اصول قرار دیا۔ مسیحیت وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جس کا اعتراض خود مسیحیوں کو بھی ہے۔ یہاں پادری صاحب نے انجلی سے ایک حوالہ پیش کیا ہے اسے ہم گزشتہ صفحات میں نقل کر چکے ہیں یہاں بھی اس کو نقل کرنا خلل از دلچسپی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

”ایک دولت مند نے خداوند مسیح کو کہا۔“ اے آقا! میں کیا کروں کہ زندگی حاصل کروں۔“

آپ نے جواب دیا ”میان شریعت اور صحائف انبیاء پر عمل کرو۔“ اس نے کہا کہ ان سب پر میں نے عمل کیا ہے۔“ آپ نے جواب دیا کہ ”جا جو کچھ تیرا ہے نیچ کرنگر غریبوں کو دے اور آخر میرے پیچے ہو لے۔“ اس پر وہ سرمایہ دار سخت برہم ہو گیا۔ کیونکہ یہ بات اس کی طبع پر ناگوار گزری۔“..... (کتاب مذکور صفحہ ۲۳۱)

**تَقْرِيمُكُمْ!** کی دولت مند شخص جو مسیحی ارشاد پر عمل پیرا ہونے سے بے بہرہ رہنے کے باعث نجات سے محروم ہو گیا۔ اگر دربار محمدی میں آگر وہی سوال کرتا جو اس نے مسیح سے کیا تھا۔ تو اسے حکم ہوتا۔

**أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ**

(خدا کے دیئے ہوئے میں سے کچھ خرچ کر دیا کرو) یا حضور اس کو فرماتے ہیں کہ ارشاد خداوندی ”اثوا الزکوة“ کے ماتحت خدا کے راستے میں ایک سال گزرنے پر مال کا چالیسوائی حصہ دے دیا کرو۔ تو وہ بد نصیب اس حکم پر عمل کر کے خوش نصیب ہو جاتا اور دربار نبوی سے یہ شعر پڑھتا ہوا لکھتا۔

۔

حسن یوسف ” دم عیسیٰ ید بیضا داری  
آنچہ خوبیں ہمہ وارند تو تنہ داری !!

**نوٹ:** قرآن مجید نے بھی اشتراکت کے محاسن کو اپنایا ہے۔ مگر اس حد تک نہیں پہنچایا کہ فطرت انسانی کے خلاف ہو۔ بلکہ انسانی فطرت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

**وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمُحْرِمُونَ** ---- (ب۔۲۶:۱۸)

”مالداروں کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہے۔ جو بصورت زکوٰۃ اور صدقات ان کو ادا کرنا چاہئے۔“

اس کی تفصیل گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہے۔ قرآن مجید میں یہ خاص خوبی ہے کہ وہ ہر یار انسانی فطرت، طاقت اور تحمل کو مظہر رکھتا ہے۔

اسی بنا پر ہم قرآن مجید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

قرآن!

کیا جانے تجھ میں کیا ہے کہ لوٹے ہے تجھ پر جی  
یوں اور کیا جمل میں کوئی حسین نہیں

آخِرُ دَعْوَنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

